

معاویہ

بن ابوفیضان

○

عمر ابوالنصر

ترجمہ : شیخ محمد احمد پانی پتی

بک لینڈ، لاہور

پرٹشرز } آپل اینڈ کمپنی - دی مال ، لاہور
ریڈنگ پرنٹنگ پریس - آردو بازار - لاہور

اہتمام

آغا امیر حسین

پبلشرز : بک لینڈ - دی مال ، لاہور
○ جملہ حقوق محفوظ برائے پاکستان و بھارت
○ بار دوم - ۱۱۰۰ - اکتوبر ۲۰۰۷ء

ترتیب

- مقدمہ ۹
- اسلام میں میامی قتل ۱۹
- معاویہ بن ابوسفیان ۳۰
- تین متحارب گروہ ۳۷
- لا حکم الا للہ ۴۵
- شیعہ ۵۹
- خوارج اور معاویہ ۶۸
- زیاد بصرہ میں ۷۸
- خطبہ زیاد ۸۷
- زیاد کی حکمت عملی اور اس کا نظم و نسق ۱۰۰
- زیاد اور مغیرہ ۱۱۳
- معاویہ کے عہد کی فتوحات ۱۳۰

- ۱۳۱ لبنان میں چراجمہ کی سرگرمیاں
- ۱۳۸ یزید کی ولی عہدی
- ۱۶۳ معاویہ کی سیاست
- ۱۸۱ معاویہ کے مددگار
- ۱۹۵ معاویہ کا نظم و نسق
- ۲۱۰ معاویہ کے شب و روز
- ۲۲۶ معاویہ پر مخالفوں کو زہر دلانے کے الزامات
- ۲۳۹ معاویہ کے عہد میں سلطنت کی خوشحالی
- ۲۵۸ معاویہ کے آخری ایام
- ۲۷۱ معاویہ کا انتظام مملکت
- ۲۸۰ معاویہ کی وفات
- ۲۹۰ مصادر کتاب
- تتمہ —
- ۲۹۵ معاویہ کے دست و بازو
- ۲۹۹ عمرو بن العاص
- ۳۴۵ مغیرہ بن شعبہ
- ۳۸۴ زیاد بن ابیہ

میں

حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت تین متضاد حیثیتوں کی حامل ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ انہیں ہر بدتر سے بدتر خطاب اور ہر برے سے برے لقب سے ملقب کرتا ہے۔ بالمقابل دوسرا فریق ان کی تعریف اور توصیف اور محامد و فضائل میں احادیث نبوی کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ ایک تیسرا فریق بین بین ہے۔ جو نہ ان کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور نہ برا جانتا ہے۔ اس فریق کا قول ہے کہ ”اگرچہ حضرت معاویہ سے بعض غلطیاں بھی ہوئیں (اور غلطیوں سے کون خالی ہے) مگر بہر حال وہ صحابی رسول تھے اور ہمارا منصب نہیں کہ ان کے متعلق زبان طعن دراز کریں“۔ یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ زیر نظر کتاب میں تینوں فریق میں سے کس کی نمائندگی کی گئی ہے۔ اس لئے ہم اس کا تصفیہ قارئین کرام کی فہم اور ان کے ادراک پر چھوڑتے ہیں۔ مگر اتنا کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ مصنف کتاب عمر ابوالنصر نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اختلافی مسائل سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب میں بجائے تاریخ کے ناول کا رنگ زیادہ نمایاں ہو گیا ہے۔ فاضل مصنف نے کتاب کے کسی باب میں بھی اپنی مخصوص طرز عبارت کی دلکشی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس لئے قارئین کو کتاب کا ہر صفحہ ہلکے پھلکے واقعات سے مملو نظر آئے گا۔ اور یہ بات اس وقت تک

ممکن نہ تھی جب تک مختلف فیہ اور غیر دلچسپ واقعات کو کتاب میں سے خارج نہ کیا جاتا۔ یہی طریقہ آجکل اہل یورپ اپنی سوانح عمریوں اور اپنی تاریخوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ عمر ابوالنصر اس باب میں انہی کا شاگرد ہے۔

جو لوگ معاویہ کو کشتنی اور گردن زدنی قرار دیتے ہیں اور جو اصحاب معاویہ کو صفات حمیدہ اور عادات جمیلہ سے متصف مانتے ہیں۔ وہ دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ وہ مسلمانوں کا سب سے پہلا عظیم الشان بادشاہ تھا۔ اور یہ کہ اس نے بڑے جاہ و جلال اور رعب و داب کے ساتھ بادشاہت کی۔ اس لحاظ سے ضرورت تھی کہ دیگر الوالعزم فرمانرواؤں کی طرح معاویہ کی سوانح عمری بھی علیحدہ طور پر اردو میں پیش کی جاتی۔ اس سلسلہ میں اولیت کا فخر قدرت نے ”بک لینڈ“ کے نصیب میں لکھا تھا۔

کتاب کو بہر نوع مکمل حالت میں پیش کرنے کے لئے ضروری تھا کہ حضرت معاویہ کے ان تین معاونین کے حالات پر بھی مختصر طور سے تبصرہ کیا جاتا۔ جنہوں نے معاویہ کو تمام عالم اسلام کا بادشاہ بنانے میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس لئے کتاب کے آخر میں ان تینوں کا سوانحی تذکرہ بہت اختصار کے ساتھ متعدد کتب تاریخ سے انتخاب و اقتباس کرنے کے بعد پیش کیا گیا ہے۔ جو امید ہے کہ دلچسپی کے ساتھ پڑھا جائیگا۔ اور اسے پڑھ کر ناظرین کو ”معاویہ“ کے سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔

محمد اسماعیل پانی پتی

۱۸ فروری ۱۹۵۷ء

مقدمہ

اس سے قبل ہم عہدِ اسلامی کے اس دور کے متعلق کتابیں تالیف کر چکے ہیں۔ جو مقامِ مورخین کے نزدیک بجا طور پر "اسلامی تاریخ کا عہدِ زریں" کہلانے کا مستحق ہے۔ اور جو عدل و انصاف، شوکتِ عظمت اور ہیبت و جبروت کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ تھا۔ الحمد للہ کہ ان کتابوں کو قبولیتِ عام کی عزت نصیب ہوئی اور قارئین نے ان کے اسلوبِ بیان، ان کی ترتیب، ان کی طرزِ تحریر اور طریقِ استدلال کو پسند کیا۔

لہٰذا یہاں عمراہِ انصاف کا اشارہ اپنی ان پانچ تالیفات کی طرف ہے جو اس سنہ

سرخسرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاءِ راشدین کے متعلق لکھی ہیں۔ (ترجمہ)

موجودہ کتاب کے ذریعے ہم تاریخ اسلام کے ایک اور دور کو پیش کر رہے
 ہیں۔ یہ دور خلفاء بنو امیہ کا ہے۔ اس عہد کی سب سے بڑی خوبی امور سلطنت
 میں عربی عنصر کا غلبہ و اقتدار ہے جو اس خاندان کے تمام بادشاہوں
 کے زمانے میں بڑی عمدگی اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہا۔ خلافت راشدہ
 اور خلافت بنو امیہ کے سوا دیگر اسلامی حکومتیں اور خاندان اس امتیاز سے
 یکسر خالی ہیں۔ کیونکہ بنو امیہ کے بعد جب بنو عباس کا دور شروع ہوا تو
 انہوں نے اپنی مخصوص مصلحتوں کی بنا پر عجمی عناصر کو عربی عناصر پر فوقیت
 اور ترجیح دینی شروع کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ عجمی عناصر اس
 قدر قوت پکڑ گئے کہ خلفاء ان کے ہاتھوں میں محض کٹھ پتلی بن کر رہ گئے
 بنو عباس کے بعد تو عربی عناصر کے دوبارہ نفوذ اور اقتدار کا کوئی سوال
 ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ان تمام کتابوں میں جواب تک ہم نے لکھی ہیں، اس بات کا خاص
 خیالی رکھا ہے کہ ہم صرف ان اعمال و افعال کو زیر بحث لائیں جو متعلقہ
 اشخاص کے ذریعہ انجام دئے گئے۔ خود ان لوگوں کی ذات اور شخصیت
 پر ہم نے کبھی تنقید نہیں کی، کیونکہ ہمارا مقصد ان کتب کی تالیف سے
 عربی وحدت کی برتری اور اسلام کی سچی تصویر دکھانا ہے۔ انتشار و فروع

دینا اور نت نئے پیدا ہونے والے جھگڑوں اور تنازعوں کو غیر معمولی آہستگی سے دیکھ کر ان کا پروپیگنڈا کرنا نہیں۔ ہماری تالیفات میں اگر ان امور کا ذکر آیا بھی ہے تو صرف ان ہی جگہوں پر جہاں ان کا تذکرہ کئے بغیر چارہ نہیں تھا۔

ہم دانشگاہ الفاظ میں اس امر کا اظہار کر دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ تاریخی اور سوانحی کتب کے اس سلسلے سے ہمارا مقصد کسی خاص عقیدے کی حمایت کرنا، مسلمانوں کے درمیان مذہبی منافرت پھیلانا اور بلاوجہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص پر ترجیح دینا یا اس کے مرتبے کو گھٹانا ہرگز نہیں ہمارا مطلق نظر صحیح واقعات اور مستند روایات کی روشنی میں تاریخ اسلام کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر کے اسلام کی خدمت کرنا، مسلمانوں کے دلوں میں محبت و اُلفت کے جذبات پیدا کرنا اور امت محمدیہ کو اس وحدت کی دعوت دینا ہے جسے قائم کرنے کے لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور جسے برقرار رکھنے کے لئے امت محمدیہ کے درمندان اور مخلص انسان ابدار سے کوشاں رہے۔

اگرچہ ہم رائے کی آزادی کو انسان کا پیدائشی حق سمجھتے ہیں لیکن ہمارے خیال میں یہ آزادی صرف اسی حد تک ہوتی چاہئے جس حد تک یہی

ریشٹوں کو دور کرنے اور تالیفِ قلوب میں مدد و معاون ہو سکے۔ اگر کوئی شخص
 علمائے اسلام کے متعلق تنقید کرتا ہے تو بے شک اسے اس کا حق حاصل
 ہے۔ مگر ایسی تنقید جس سے مسلمانوں کے مختلف گروہوں اور فرقوں میں
 نفرت و حقارت اور دشمنی و عداوت کے جذبات برانگیختہ ہوں اور باہمی
 نزاع کا دروازہ پوری شدت سے کھل جائے، کسی صورت میں بھی جائز و
 نہیں دی جاسکتی۔ ہمیں ہر معاملے میں اسلام کے بلند مصالح کو سامنے
 رکھنا اور اپنے مقتدر اسلاف کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے اعتدال
 و احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ ان واقعات کو جو ابتداء اسلام میں پیش
 آئے، آج ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب ہمیں انہیں نفرت و حقارت
 پیدا کرنے اور عوام کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہئے
 اور ان گزرے ہوئے واقعات پر پردہ ڈال کر انہیں حوالہ بخدا کر دینا چاہئے
 کہیں ایسا نہ ہو کہ موجودہ حالات میں ان واقعات کا تذکرہ مزید افتراق
 و انشقاق کا باعث بن جائے۔

دولتِ اسلامیہ کی تاریخ کے متعلق جو کتابیں ہم نے اب تک
 تالیف کی ہیں۔ ان میں ہم نے اس بات کا خاص خیالی رکھا ہے کہ ہمارا

قدم جاوہ حق سے ہٹنے نہ پائے۔ جو لوگ ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم
 اس امر کو ملحوظ رکھے بغیر کہ بعض لوگوں نے اسلام کی بلندی و بڑی اور
 عربی تہذیب و تمدن کے عروج و ارتقا کے لئے کس حد تک خدمات انجام
 دی ہیں اپنی کتابیں ان اصحاب کی تعریف و توصیف کے لئے وقف کروں
 انہیں ہماری کتابیں دیکھ کر بالیسی ہوگی کیونکہ یہ ان کی توقعات اور ہمتا کے
 مطابق نہیں ہیں۔ ہمارا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تاریخ
 بیان کرنا ہے۔ انفرادی اشخاص کی شخصیتوں کو نمایاں کرنا نہیں۔ مشاہیر
 اسلام کا تذکرہ کرتے وقت ہم نے یہ بات خاص طور پر مد نظر رکھی ہے کہ
 کہ جہاں تک ممکن ہو انہیں وہی درجہ دیا جائے۔ جس کے وہ درحقیقت
 مستحق ہیں۔ کسی کا درجہ بڑھانا یا کسی کا مرتبہ گھٹانا ہمارا منصب ہے اور
 نہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ ہم نے مستند روایات اور مسلمہ تاریخوں کے صفحات
 میں جیسا انہیں پایا، ذاتی تاثرات سے بالا ہو کر اور عام عقائد و خیالات
 کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں ویسا ہی دکھایا ہے۔ بے جا طرفداری یا
 ناروافت سے ہم نے اپنے دامن کو پاک رکھنے کی کوشش کی ہے۔
 ہمیں معلوم ہے کہ بعض اصحاب ہمارے اس موقف پر ناک بھول

چڑھائیں گے۔ لیکن یہ نہ بھولنے کہ یہ لوگ وہی ہیں جو بدل سے چاہتے ہیں
 کہ مسلمانوں کے مختلف گروہوں اور فرقوں کے درمیان جنگ و جدل کا
 سلسلہ
 برابری جاری رہے۔ صرت یہی نہیں بلکہ وہ باہمی افتراق پھیلانے میں خود بھی
 بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس کی کوئی پروا نہیں کہ اس تفرقہ
 بازی سے اسلام کو کس قدر زبردست اور عظیم الشان نقصان پہنچ رہا ہے
 ان کو اگر غرض ہے تو صرف اپنی مخصوص اغراض سے۔ محض چند پیسوں
 کی خاطر یا صرف جھوٹی اور وقتی شہرت کے لئے وہ اسلام کو ناقابل تلافی
 صدمہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے تاکہ وہ سمجھیں کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عداوت و نفرت پھیلانے کے لئے نہیں بلکہ باہم
 محبت و الفت پیدا کرنے کے لئے دنیا میں تشریف لائے تھے۔

یہ دین کو بازیچہ اطفال بنانے ہی کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کی
 ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی وقعت روز بروز عوام کی نظروں سے
 گھٹتی جا رہی ہے۔ بعض سادہ لوح انسان ان کے جال میں بے شک
 پھنس جاتے ہیں۔ اور اس طرح دین کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے
 ہیں۔ لیکن قوم کے ہوش مند اور سمجھدار طبقہ میں مذہب کے ان نام نہاد

علم برداروں کے خلاف نفرت کے جذبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور لوگوں میں یہ احساس عام ہوتا جا رہا ہے کہ دین پر علماء کی اجارہ داری نہیں نہ اسلام پاپائیت کا قائل ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لئے بھیجا تھا۔ آپ جو پیغام لائے وہ بھی تمام دنیا کے لئے تھا اور اسے معمولی درجہ کا آدمی بھی اپنی عقل سلیم کے مطابق سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ کوئی عالم، خواہ وہ کتنے ہی بڑے رتبے کا مالک کیوں نہ ہوں اور اس کا علم کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو۔ لوگوں اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ بن کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔

آپ نے سلفِ صالحین کے حالات پڑھے ہوں گے۔ کیا آپ کو کبھی ان کے زہد و تقویٰ، علم و فضل اور امانت و دیانت کے متعلق شبہ ہوا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے کہ ازمنہ ماضیہ میں جو شخص اسلام سے محبت کرنے کا دعویدار ہوتا تھا۔ وہ لازمی طور پر متقی، پرہیزگار، صالح، صادق اور منسلک ہوتا تھا۔ دنیوی مال و زر کی طرت اس کے ہاتھ نہیں بڑھتے تھے۔ ادعیش و عشرت یا عزت و شہرت اس کا مسلح نظر نہ ہوتے تھے۔ بلکہ اس کا تمام تر مقصود رب العالمین کی رضا کا حصول اور دین اسلام

کی مخلصانہ خدمت ہوتا تھا۔ اس کی تمام زندگی نیک اعمال بجالانے، اخلاق
 حسنہ اختیار کرنے، باہمی اتحاد کو فروغ دینے اور لوگوں کو نرمی و ملامت
 اور وعظ و نصیحت کے ذریعے خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ راستے پر چلنے کی
 تلقین کرنے میں صرف ہوتی تھی۔

لیکن آج حالات پہلے سے بالکل مختلف ہیں۔ علماء کے معتد بہ حصہ
 نے تفرقہ اور اختلاف کو اپنا مقصد اور فرض قرار دے لیا ہے اور اس
 کام میں وہ اس قدر منہمک ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اس طرح اسلام
 کلی طور پر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے۔ ایسا کرتے ہوئے انہیں نہ خدا تعالیٰ
 کا خوف ہوتا ہے اور نہ ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے۔ غضب یہ ہے
 کہ فتنہ و فساد پھیلانے کے دوران میں وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا نام لیتے ہیں۔ لیکن انہیں قطعاً یہ خیال نہیں آتا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 لوگوں میں تفرقہ پھیلانے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے اور نہ قرآن
 مجید اختلافات کو ہوا دینے کے لئے نازل ہوا تھا۔

موجودہ حالات میں اسلام کی حیثیت ایک گیند کی سی ہو گئی ہے
 جسے ہر شخص اپنی جانب پھینکنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ خدا ہی بہتر

جانتا ہے کہ اس کھیل کا نتیجہ کیا نکلے گا۔

کتابوں کے موجودہ سلسلے میں جو دولتِ امویہ کی نشوونما اور اس کے عہد میں اسلام کی ترقی کے متعلق ہے، ہم نے اس دور کے واقعات پر بحث و تمحیص کرتے ہوئے متذکرہ بالا امور کو مد نظر رکھا ہے۔ اسی لئے اس کتاب کی ترتیب و ترویج، واقعات کا اندازِ بیان اور ان کی تفصیل و تشریح متقدمین کی کتب سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن ان باتوں کے باوجود یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ ہم نے صحیح تاریخی واقعات میں تصرف کر کے اور انہیں اپنے حسبِ منشاء، نوڈرڈ کر ڈارٹین کے سامنے پیش کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس امر کی انتہائی کوشش کی ہے کہ جو واقعات اس کتاب میں بیان کئے جائیں۔ وہ اپنی پوری صحت کے ساتھ درج ہوں، جن کے مطالعہ سے اس عہد کی حقیقی اور واقعی تصویر ہماری نظروں کے سامنے آجائے۔ اور ہم موجودہ زمانے کے لوگوں کے اس اشتیاق کو پورا کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ جو وہ اپنے اسلاف کے کارناموں اور اس دور کے تاریخی حالات معلوم کرنے کے لئے ظاہر کر رہے ہیں۔

ماضی میں مسلمان نوجوانوں اور اسلام کی قدیم تاریخ کے درمیان ایک

سنگِ گراں حائل تھا خشک اسلامی تاریخ سے بیزار ہو کر انہوں نے یورپین
 تاریخ کی طرف اپنی توجہ مبذول کی اور مسلمان مدبروں، مفکروں، عالموں
 سپر سالاروں، دینی بزرگوں اور سیاسی رہنماؤں کے سوانح حیاتِ مطالعہ
 کرنے کی بجائے مغربی مشاہیر کے حالات پڑھنے شروع کر دئے اور غبار
 کے مطالعہ میں اتنے منہمک ہوئے کہ اپنے اسلاف کے نام تک بھول
 گئے۔ ہمیں امید ہے کہ موجودہ سلسلہ ایسے نوجوانوں کے لئے خاص طور
 سے مفید ثابت ہوگا اور ان کتابوں کے ذریعے وہ اپنی اسلامی تاریخ سے
 بہت اچھی طرح واقف ہو سکیں گے :

عمر ابو النصر

بیروت

۱۰ صفر ۱۴۵۵ھ مطابق ۳۰ اپریل ۱۹۳۷ء

اسلام میں سیاسی قتل

ماہ جنوری ۱۹۶۱ء کا واقعہ ہے کہ حضرت معاویہؓ بن ابوسفیان صبح کی نماز پڑھانے کے لئے حسب معمول دمشق میں اپنے مکان سے نکلے۔ اس وقت سخت سردی پڑ رہی تھی اور ملکی ملکی بوندا باندی بھی ہو ہو رہی تھی۔ حضرت معاویہؓ چادر میں ملبوس تھے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے مسجد کی جانب جا رہے تھے۔ آپ کے محافظ آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ لیکن ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس زمانہ میں سلطنت میں بڑے اہم واقعات رونما ہو رہے تھے

لئے ہجری لحاظ سے یہ ماہ رمضان سنہ ۶۷ کا ذکر ہے۔ (مترجم)

حضرت علی بن ابی طالب کی حکومت ختم کرنے کے لئے مختلف تدابیر
 بروئے کار لائی جا رہی تھیں اور حضرت معاویہؓ کا زیادہ تر وقت ان
 ہی افکار میں گزرتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی آپ انہی خیالات میں
 کھوئے ہوئے تھے۔ اپنے گرد و پیش اور راہ چلتے لوگوں کی طرف آپ
 کا مطلق وہیان نہ تھا۔ اسی لئے آپ کی توجہ اس شخص کی طرف مبذول
 نہ ہو سکی۔ جو قصر شاہی سے بڑی خاموشی اور احتیاط کے ساتھ آپ کا
 پیچھا کر رہا تھا۔

جب حضرت معاویہؓ کا مسجد تک پہنچنے میں تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو
 وہ شخص جلدی سے آگے بڑھا اور مسجد کی دیلیز پر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ ایک
 نیز تلوار کے قبضہ پر تھا۔ جو اس نے اپنی چادر میں چھپائی ہوئی تھی۔
 حضرت معاویہؓ اسی طرح سر جھکائے، نیچے تلے قدم رکھتے،
 اپنے خیالات و افکار میں غلطان و پیمان مسجد کی جانب آرہے تھے۔
 جب آپ دروازہ پر پہنچے تو اجنبی بیجا یک کھڑا ہو گیا اور اپنی تلوار سے
 آپ پر وار کیا جو ران پر لگی۔ پرہ دار اور دیگر اشخاص فوراً قاتل پر چھبٹ
 پڑے اور اس کی مشکیں کس لیں۔

حضرت معادینہ نے حکم دیا کہ انہیں واپس محل پہنچا دیا جائے اور
شاہی طبیب ساعدی کو بلایا جائے۔ طبیب فوراً پہنچا اور اس نے زخم
کو دیکھنے کے بعد کہا:

”آپ کو زہر میں کبھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا ہے۔ اب اس کے
علاج کی دو ہی صورتیں ہیں:

(۱) ایک تو یہ کہ لوہا گرم کر کے اس سے زخم کی جگہ پر داغ لگائے

جائیں۔

(۲) دوسری یہ کہ آپ کو ایک شربت بنا کر پلایا جائے۔ اس سے آپ
کا زخم مندمل ہو جائے گا۔ لیکن اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ آئندہ آپ کی اولاد
کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اب آپ کا اختیار ہے کہ دونوں میں سے جو
صورت چاہیں اختیار کر لیں۔“

حضرت معادینہ نے کچھ سوچتے ہوئے فرمایا:

”داغ کی تکلیف کو تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ البتہ دوسری صورت

مجھے منظور ہے۔ میری آنکھ کی ٹھنڈک کے لئے نیریز اور عبد اللہ کافی ہیں۔“

چنانچہ طبیب نے آپ کو ایک شربت تیار کر کے پلایا۔ جس سے آپ

کا زخم تو بھیر گیا۔ مگر پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

جس شخص نے آپ پر تلوار کا وار کر کے آپ کو زخمی کیا تھا وہ ایک خارجی برک بن عبد اللہ تھا۔ بعض روایات کے بموجب یہ حملہ باقاعدہ سازش کے ماتحت ہوا تھا جو مین خارجیوں نے مل کر حضرت معادؓ کی حضرت علیؓ اور حضرت عمرؓ بن العاص کو قتل کرنے کے بارے میں کی تھی۔ حضرت علیؓ کا قاتل تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن باقی دو کامیاب نہ ہو سکے۔

اس واقعہ کے بعد حضرت معادؓ نے حکم دیا کہ مسجد میں ایک مقصورہ بنایا جائے جس میں داخل ہو کر وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں نیز رات کے وقت مسجد میں پہرہ کا انتظام کیا جائے اور جس وقت وہ نماز پڑھانے میں مشغول ہوں تو ان کے قریب پولیس کے محافظ موجود ہوں تاکہ دوبارہ کوئی شخص ان پر بے خبری کے عالم میں حملہ نہ کر سکے۔

حضرت معادؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سلطنت اسلامیہ میں حفا

کتے ان غیر معمولی طریقوں کو رواج دیا۔

تیسرا شخص عمرو بن بکر (مصر جا کر) حضرت عمرؓ بن العاص کو قتل کرنے کے ارادہ سے اسی رات مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ لیکن اتفاقاً بیماری کی وجہ سے آپ نماز پڑھانے کے لئے نہ آسکے اور اپنی بجائے خارجہ بن ابی حبیبہ کو، جو پولیس کے افسر اعلیٰ تھے، نماز پڑھانے کے لئے بھیجا دیا۔ جب خارجہ مسجد میں پہنچے تو قاتل نے انہیں اندھیرے میں عمرو بن العاص سمجھتے ہوئے تلوار کا نشانہ بنایا اور قتل کر ڈالا۔ جب لوگ اسے پکڑ کر حضرت عمرو بن العاص کے پاس لے گئے تو اس نے حیران ہو کر پوچھا۔

”یہ کون ہیں؟“

لوگوں نے کہا: ”عمرو بن العاص امیر مصر۔“

اس نے گھبرا کر پوچھا: ”میں نے کسے قتل کیا ہے؟“

لوگوں نے جواب دیا: ”پولیس کے افسر اعلیٰ خارجہ کو۔“

اس پر اس نے حضرت عمرؓ بن العاص سے کہا: ”میں نے تو اپنی دانست میں آپ کو قتل کیا تھا۔“

حضرت عمرؓ بن العاص نے فرمایا:

”تم نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ

خارجہ کو قتل کروانے کا تھا۔

یہ کہہ کر آپ نے اُسے قتل کروا دیا۔

حضرت معاویہؓ کے حملہ آور کا وارہ اوجھا پڑا۔ حضرت عمرو بن العاص کے حملہ آور نے آپ کی بجائے ایک اور شخص کو قتل کر دیا۔

حضرت علیؓ کا قاتل آپ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علیؓ کی شہادت سے خلفاء راشدین کا دور ختم ہو گیا اور کھرا مذہبی رنگ جو تیس سال تک مملکت اسلامیہ پر غالب رہا ہمیشہ کے لئے مٹ گیا۔

ذیل میں ہم ان سیاسی قتلوں پر کچھ بحث کریں گے جن کی ابتداء مملکت اسلامیہ کے اوائل سے ہوئی۔

حضرت عمر فاروقؓ کو اچانک شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت بعض ایرانیوں اور غیر ایرانیوں کی باہمی سازش کے نتیجہ میں واقع ہوئی، جن کی حکومتوں پر عربوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ حضرت عثمان بن

لیثؓ بعض روایات میں یہ قول حضرت عمرؓ بن العاص کی بجائے حملہ آور کی جانب منسوب کیا گیا ہے

عقائد بھی فتنہ پردازوں کے ایک سیاسی گروہ کی بھینٹ چڑھے۔
 بین حضرت علیؑ نے اپنے سیاسی خریف یعنی خارجیوں کے ہاتھ سے شہید
 ہوئے۔

اس طرح تیس سال سے بھی کم عرصہ میں چار میں سے تین خلفاء
 شہید ہو گئے۔ یہ امر اس شدید سیاسی اضطراب پر دلالت کرتا ہے جو دولت
 اسلامیہ کی قریباً ابتداء ہی سے وقوع پذیر ہونا شروع ہو گیا تھا۔
 حملہ آوروں کی اپنے مقصد میں کامیابی کی بڑی وجہ اس وقت
 کا جمہوری طرز حکومت اور خلفاء کی سادہ زندگی تھی۔ خلفاء راشدین بزرگ
 کے آل ساسان اور شاہان روم کی طرح اپنے لئے حفاظت کے سامان
 اختیار نہیں کرتے تھے۔ وہ بڑی بے تکلفی سے بازاروں میں گھومنے لگتے اور
 آزادانہ طور پر لوگوں سے ملتے جلتے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی پہرہ دار

نہ تھی کی ایک روایت میں ذکر ہے کہ ابن ابی عمیر جب حضرت علیؑ کے
 قتل کے ہوا وہ سے کو فرمایا تو اپنے ہم مسلک لوگوں ہی کے ہاں ٹھہرا لیکن اس نے
 کسی شخص پر بھی اپنے ارادے اور عزم کا اظہار نہیں کیا۔ اس روایت سے معاصر ہونا
 ہے کہ ابن ابی عمیر کا فعل جماعتی فعل نہیں بلکہ شخصی تھا۔

اور حاجب نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حملہ آوروں کو انہیں شہید کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا سوائے حضرت عثمان بن عفان کے کہ آپ کی شہادت پر سبے چالیس روز کے عشاء کے بعد وقوع میں آئی اور فتنہ پر داز باغیوں نے مکان کے پھلنی طرت سے داخل ہو کر آپ کو شہید کیا۔

سیاسی قتلوں کے ان واقعات میں ایک عجیب و غریب مشابہت پائی جاتی ہے۔ جس کی طرت آج سے پہلے غالباً کسی مورخ کا ذہن نہیں گیا اور وہ یہ ہے کہ یہ قاتلانہ حملے صبح کی نماز کے وقت ہوئے۔ ابولؤلؤ نے حضرت فاروق اعظمؓ پر مسجد نبوی میں صبح کی نماز کے وقت ہی حملہ کیا اور ہر سہ خوارج نے حضرت علیؓ، حضرت معاویہؓ اور حضرت عمرؓ بن العاصؓ پر حملے کرنے کا وقت بھی یہی مقرر کیا۔ اقلباً اس کی وجہ خوارج کا یہ

لسہ یہ امر کہ حضرت معاویہؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عمرؓ بن العاصؓ کو قتل کرنے کے لئے تین خوارجیوں نے اکٹھے بیٹھ کر سازش کی اور اس کام کے لئے ایک دن اور ایک وقت کا تعین کیا۔ ہمارے نزدیک درست نہیں۔ اس کی وجوہات مشدوبہ ذیل ہیں۔

ابن اثیر اور طبری وغیرہ قدیم مورخین ذکر کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علیؓ (بقیہ صفحہ ۲۷ پر)

خیال ہو گا کہ عموماً صبح کے وقت لوگ چوکس نہیں ہوتے۔ اس لئے انہیں

(بقیہ صفحہ ۲۶) بن ابی طالب کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن نے

ابن ملجم کو طلب کیا۔ جب ابن ملجم آپ کے سامنے آیا تو اس نے آپ سے کہا۔

”میں نے عظیم کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں علیؑ اور

معاویہ کو قتل کر دوں گا۔ اور اگر اس کوشش میں ناکام رہا تو خود جان دیدوں گا

اس لئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں

معاویہ کو قتل کر کے اپنے عہد کو پورا کر سکوں۔ اگر میں زندہ بچ کر آ گیا تو وعدہ کرتا

ہوں کہ واپس آتے ہی اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا“

لیکن حضرت حسنؑ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا: ”خدا کی

قسم! یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تو دوزخ کا مہر نہ دیکھ لے۔“

یہ کہہ کر اسے قتل کر دیا۔

اس روایت سے (جس کی کئی مورخین نے تائید کی ہے) ثابت ہوتا ہے

کہ ابن ملجم نے کسی اور شخص کے ساتھ مل کر قتل کی سازش نہیں کی تھی۔ بلکہ خود ہی

حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کو قتل کرنے کا عہد کیا تھا۔ کیونکہ اگر اسے معلوم تھا

کہ حضرت معاویہؓ کو قتل کرنے کے لئے اس کا ایک اور ساتھی متعین ہے تو پھر

۲۷ (بقیہ صفحہ ۲۶ پر)

حملہ کرنے کا موقعہ باسانی مل جائے گا۔ اس فعل بد میں انہوں نے بولو لو

(بقیہ صفحہ ۲۷) انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کا عہد کرنا بالکل بے معنی

معلوم ہوتا ہے۔ یہ عہد اسی صورت میں کیا جاسکتا ہے۔ جب عہد کرنے والے کو

علم ہو کہ کوئی اور شخص اس کام میں اس کا شریک نہیں ہے۔

ایک اور امر بھی قابل توجہ ہے۔ وہ یہ کہ اگر مذکورہ بالا تین خارجیوں کے

درمیان حضرت علیؑ، حضرت معاویہؓ اور حضرت عمرؓ بن العاص کو قتل کرنے کی سازش

ہر چکی تھی تو ابن محم نے حضرت عمرؓ بن العاص کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ اور صرف

حضرت معاویہؓ کے ذکر پر ہی کیوں اکتفا کی؟

ہمارے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ حضرت علیؑ کی شہادت ایک انفرادی واقعہ

ہے جس کا ان حملوں سے کوئی علاقہ نہیں جو حضرت معاویہؓ اور حضرت عمرؓ بن العاص

پر کیے گئے۔ یہ حملے حضرت علیؑ پر حملہ کرنے کی تاریخ سے پہلے کے جاچکے تھے تاریخی

شواہد بھی ہمارے اس نظریہ کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں تو یہاں تک لکھا

ہے کہ حضرت معاویہؓ پر قاتلانہ حملہ معرکہ صفین اور واقعہ تکبیر کے درمیان ہوا تھا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اس بیحد سازش کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اکثر

مورخین نے اپنی تصنیفات میں اس کی تائید کی ہے :

کے حملہ کو بھی پیش نظر رکھا ہوگا۔ اور اس کی کامیابی کو اپنے لئے نیک
فال سمجھ کر صبح کی نماز کے وقت کا ہی نغمین کیا ہوگا۔

قاتلانہ حملوں کے اوقات میں یہ یکسانیت کافی غور و خوض کی مستحق
ہے۔ اور اس مسئلے پر کافی لمبی بحث کی جاسکتی ہے۔ مگر ہم کتاب کے
طویل ہو جانے کے خوف سے اسے چھوڑتے ہیں:۔

حضرت معاویہؓ بن ابوسفیان

(شکستہ تا سن ۶۰ھ مطابق ۶۶۰ء تا سن ۶۴۰ء)

دولت امویہ کا قیام حضرت معاویہؓ بن ابوسفیان کا رہنمائی میں
ہے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی حکومت تھی جو دنیا کے ایک بڑے حصہ پر پانچویں
سال (۶۴۰ء تا ۶۶۰ء) قائم رہی۔ اس میں حضرت معاویہؓ کا زمانہ
حکومت میں شامل ہے۔

آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: معاویہ بن ابوسفیان بن حرب بن امیہ
بن عبد شمس بن عبدمنات۔ امیہ زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے رتبہ کا
مالک اور قریش کی سیادت میں اپنے چچا ہاشم بن عبدمنات کا برابر کا شریک
اور جلیف تھا۔ دونوں خاندانوں میں سیادت قریش کے حصول کے لئے زمانہ

جاہلیت سے جو دشمنی چلی آ رہی تھی۔ وہ اسلام لانے کے بعد بھی جوں کی توں قائم رہی اور اس نے دولت اسلامیہ پر گہرا اور دور رس اثر ڈالا۔

امیہ بڑا مالدار تاجر اور کثیر اہل و عیال والا شخص تھا۔ اس کے دس

بیٹے تھے جو رتبے، عزت اور ریاست میں اہم حیثیت کے مالک تھے ان

بیٹوں میں حرب، سفیان، ابوسفیان بھی تھے۔ حرب بن امیہ جنگ فجار کے

موقع پر قریش کا سپہ سالار تھا۔ اسی طرح ابوسفیان کو ان جنگوں میں جو مسلمانوں

کے خلاف لڑی گئیں قریش کی سرداری کے مواقع حاصل رہے۔ قریش

کے جس تجارتی قافلے کے نتیجے میں بدر کا معرکہ پیش آیا اس کا سردار بھی

ابوسفیان ہی تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر کفار کا جو لشکر مسلمانوں کے مقابلے

کے لئے نکلا اس کا ایک سپہ سالار حضرت معاویہؓ کا سوتیلا دادا عتبہ بن ربیعہ

بن عبد شمس تھا۔ گویا اس ایک جنگ کے موقع پر ان کے والد اور دادا

دونوں کو قریش کی سرداری حاصل تھی۔ والد قافلہ کا سردار تھا اور دادا لشکر

کا سپہ سالار۔ اسی لئے گنام شخص کے بارے میں آج تک یہ ضرب المثل رائج

ہے۔ لانی العید ولا فی النقیہ (قافلہ میں ہے اور نہ لشکر میں)

حضرت معاویہؓ ابھی دو ہی سال کے تھے کہ مکہ میں اسلام کے

نور کا ظہور ہوا۔ ہجرت کے وقت آپ کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ فتح مکہ کے موقع
 پر جب کہ آپ اپنی عمر کے تیسویں سال میں تھے اپنے والد ابوسفیانؓ والد
 ہند اور بھائی یزید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک
 پر شرف بر اسلام ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 ان کے والد کے مرتبے اور خاندانی بزرگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کاتبِ وحی
 کے عہدہ پر سرفراز فرمایا۔ ابوسفیان کے ذاتی مرتبے ہی کا لحاظ رکھتے ہوئے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت شہر میں یہ منادی کرا
 دی تھی کہ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں
 ہوگا۔ یہ ایسا عظیم الشان ثروت ہے جو اپنی مکہ میں سے اور کسی شخص کو
 حاصل نہیں ہوا۔

فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نبو امیہ

سے حضرت معلوہ کی پیدائش سن۳۱۰ء میں ہوئی (ترجم)

مکہ حضور رحمتہ للعالمین کا پورا اعلان یہ تھا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہ امن
 میں ہوگا۔ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا اور جو شخص
 اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا وہ امن میں ہوگا۔ (ترجم)

کی جان بخشی ہی نہیں کی بلکہ انہیں دیگر مسلمانوں جتنے کہ اپنے خاندان بنو امیہ کے مساوی حقوق و حرمت فرمائے۔ وجہ یہی تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے خاندانی اعزاز میں کوئی کمی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ بلکہ آپ کی عین خواہش تھی کہ زمانہ اسلام میں بھی بنو امیہ کو وہی عزت ووجاہت حاصل رہے جو اسلام سے پہلے انہیں حاصل تھی۔

بنو امیہ کو بھی اپنے شرف ووجاہت کا پوری طرح احساس تھا۔ چنانچہ جب حضرت علیؓ اور بنو امیہ کے سربراہ حضرت معاویہؓ کے درمیان جھگڑا شروع ہوا تو حضرت علیؓ کے مقابل حضرت معاویہؓ نے بھی اپنے لئے خلافت کے حصول کی کوششیں شروع کر دیں۔ حضرت معاویہؓ کو ایسا کرنے کی جرأت خصوصاً اس لئے زیادہ ہوئی کہ زمانہ جاہلیت میں بنو امیہ کو جو سیادت اور بڑائی حاصل تھی۔ اسلام لانے کے بعد اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔

بنو امیہ کا عمرنا اور حضرت معاویہؓ کا خصوصاً خلفائے راشدین کے ساتھ جو تعلق رہا اس کا مختصر سا حال اس جگہ بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا پس منظر سمجھنے میں کوئی وقت پیش نہ آئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہؓ کے بھائی یزید
بن ابوسفیان کو ان چار شہروں میں سے ایک کا امیر مقرر فرمایا تھا جو آپ نے
رومیوں سے لڑنے کے لئے شام بھیجے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یزیدؓ کو دمشق کی فتح کے بعد ان
کا حاکم بنا دیا اور دمشق کا نواحی علاقہ بھی ان ہی کے ماتحت کر دیا۔ یزیدؓ کی
وفات کے بعد حضرت عمرؓ نے ان کی جگہ ان کے بھائی حضرت معاویہؓ
کو دمشق اور اس کے نواحی علاقہ کا امیر مقرر فرما دیا۔

جب خلافت کی باگ ڈور حضرت عثمانؓ بن عفان کے ہاتھ میں آئی
تو آپ نے حضرت معاویہؓ کو نہ صرف بدستور دمشق کا حاکم بنا لے رکھا بلکہ شام
کا صوبہ بھی آپ کی سپردگی میں دے دیا۔ حضرت عثمانؓ کے عہد میں حضرت
معاویہؓ نے شام میں اپنے قدم خوب مضبوط کر لیے۔

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد جب حضرت علیؓ منہ خلافت
پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت معاویہؓ نے ان پر حضرت عثمانؓ کی مدد کرنے
میں کوتاہی اور قاتلین عثمانؓ کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے

سے یزیدؓ بن ابوسفیان کا انتقال سلسلہ مطابقت سلسلہ میں ہوا (مترجم)

بیعت سے انکار کر دیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے شام کے مطلق العنان حاکم بن گئے۔ اہل شام نے حضرت عثمانؓ کا قصاص لینے اور حضرت علیؓ کے خلاف جنگ کر سنبھالنے کے مطالبہ پر آپ کی بیعت کر لی یہی وہ واقعات تھے جن کی بدولت مسلمانوں میں خانہ جنگی اور فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔

اپنی ذکاوت و فطانت اور سیاسی تدبیر کی بدولت حضرت معاویہؓ تو حالات کے دھارے کو اپنی طرف موڑنے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے مقابل حضرت علیؓ کی صفوں میں شدید انتشار پیدا ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علیؓ کی کوششیں جو مملکت اسلامیہ کو متحد کر کے اُسے ایک جھنڈے تلے لانے کے متعلق وہ کر رہے تھے، پار آور نہ ہو سکیں۔

اسے مشہور مشرقی ڈاکٹر نکلسن حضرت علیؓ کے عہدِ حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ "حضرت علیؓ میں اس سیاسی شعور، شائستگی اور شہادت اور شاطرانہ حزم و احتیاط کا فقدان تھا جو ایک بیدار مغز حاکم اور باخبر مدبر میں ہونی ضروری ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علیؓ (نقیہ حاشیہ صفحہ ۳۶ پر)

(لقبہ حاشیہ صفحہ ۲۵) نہایت بالغ نظر بے نظیر مدبر، بہترین مشیر بڑے عقلمند
 وعدہ کو کامل طور پر ایفا کرنے والے اور دشمنوں سے اتہائی شرافت کا برتاؤ
 کرنے والے تھے مگر ان سب فضائل کے باوجود ان میں سیاسی سوچ بوجھ
 کی کمی تھی۔ انہیں اپنی سلطنت کی سالمیت کی حفاظت کے لئے بھی ان حربوں
 کو استعمال کرنے میں تردد ہوتا تھا۔ جن حربوں کو ان کے حریف بے تکلف ان کے
 خلاف استعمال کرتے تھے۔ اسی لئے ان کے حریف ان پر غالب آگئے۔ کیونکہ
 ان حریفوں کا معمول تھا کہ جنگ میں ہر قسم کے واڈ پیچ استعمال کرنے مباح
 ہیں۔ لیکن حضرت علیؓ نے ان حربوں سے واقف تھے اور نہ ایسا کرنا جازم سمجھتے
 تھے۔

(تاریخ الادب العربی از نکلسن صفحہ ۱۹۱)

تین مختار بگڑہ

امیر المؤمنین حضرت علیؑ بن ابی طالب کے ہاتھ پر چالیس ہزار
آدمیوں نے عہد کی بیعت کی تھی اور قسم کھائی تھی۔ کہ وہ اس وقت تک
چین سے نہ بچھڑیں گے۔ جب تک حضرت معاویہؓ پر فتح حاصل نہ کر لیں
گے۔ اس کے بعد حضرت علیؑ شام کی جانب کوچ کرنے کی تیاریوں میں
مشغول ہی تھے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس سے آپ جا بزنہ ہو سکے۔
آپ کی شہادت کے بعد اہل عراق نے آپ کے بیٹے حضرت

علیؑ نے زخمی ہونے کے بعد ۲۱ رمضان ۴۰ھ کو وفات پائی۔ (مترجم)

حسنؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دریں اثنا حضرت حسنؓ کو خبر ملی کہ حضرت معاریہؓ شامیوں کا ایک جہاز شکر لے کر ان کے مقابلہ کے لئے دمشق سے چلی پڑے ہیں۔ اس پر آپؓ نے بھی اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ اور کوفہ سے مدائن کی جانب روانہ ہو گئے۔ قیس بن سعد بن عبادہ کو بارہ ہزار کے لشکر کے ہمراہ بطور مقدمہ الجیش پہلے روانہ کر دیا تھا۔

راستہ میں حضرت حسنؓ کے لشکر میں یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ قیس بن سعد قتل کر دئے گئے۔ یہ خبر سن کر فوجیوں میں ایک عام گھبراہٹ اور بے چینی پھیل گئی۔ اسی گڑبڑ میں بعض بد طینت لوگوں نے آپؓ کے خیمہ پر بھی حملہ کر دیا اور آپؓ کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ حتیٰ کہ جس مصلیٰ پر آپؓ بیٹھے تھے اسے گھسیٹ لیا اور جو چادر آپؓ اور اٹھے ہوئے تھے وہ بھی اتار لی۔ یہ دیکھ کر آپؓ نے سمجھ لیا کہ ایسے کمزور، بزدل اور مضطرب لشکر سے جس میں باہمی اتحاد بھی مفقود ہے۔ یہ امید رکھنا کہ وہ حضرت معاریہؓ کے مضبوط اور متحد لشکر کا مقابلہ کر سکے گا۔ محض امر مہوم ہے

لے تاریخ اسلام مصنفہ ذاکر حسین کے صفحہ ۲۶ پر لکھا ہے کہ حضرت علیؓ اپنے

سہیلے حضرت حسنؓ کو اپنا جانشین مقرر فرمائے تھے۔ (مترجم)

اس لئے آپ نے حضرت معاویہؓ سے صلح کر لی اور اس شرط پر خلافت سے دست برداری قبول کر لی کہ حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد خلافت کا سوال مسلمانوں کے باہمی مشورے سے طے کیا جائے گا اور جس شخص پر عاقبت المسلمین کا اتفاق ہوگا وہی خلافت کی مسند پر بیٹھنے کا مستحق ہوگا۔

حضرت حسنؓ کے صلح کرنے سے حضرت معاویہؓ کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی اور وہ تمام اسلامی قلمرو کے بادشاہ تسلیم کر لئے گئے۔ ۲۵ ربیع الثانی ۴۱ھ کو حضرت معاویہؓ نے کوفہ میں داخل ہو کر لوگوں سے بیعت لی۔

صلح کے بعد حضرت حسنؓ نے قیس بن عبادہ کو جو ہنوز بارہ ہزار فوج کے ہمراہ پیش قدمی کرتے ہوئے جا رہے تھے حکم بھیج دیا کہ وہ بھی حضرت معاویہؓ کی اطاعت قبول کر لیں، جس پر انہوں نے اس شرط پر اطاعت قبول کر لی کہ "انہیں اور ان کے تمام لشکر کو امان دی جائے گی۔ اور اب تک جو خوزیری ہو چکی ہے اس پر ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔"

صلح کی تکمیل کے بعد حضرت حسنؓ مدینہ شریف لے گئے اور وفات

کے وقت تک وہیں مقیم رہے۔

اس زمانہ میں امت مسلمہ تین بڑے بڑے گروہوں میں منقسم ہو گئی

تھی

(۱) پہلا گروہ بنو امیہ کے حامیوں کا تھا جو شام اور بعض دیگر علاقوں میں موجود تھے۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ خلافت صرف قریش کا حق ہے اور قریش میں سے بنو امیہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ کیونکہ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں انہیں قریش کی سیادت حاصل رہی ہے۔

(۲) دوسرا گروہ حضرت علیؑ کے حامیوں کا تھا۔ یہ گروہ عراق میں مقیم تھا اور اس کا ایک تفسیل حصہ دوسرے علاقوں میں بھی موجود تھا۔ خلافت کے بارے میں اس کی رائے بنو امیہ سے بالکل مختلف تھی۔ اس گروہ کا دعویٰ تھا کہ حضرت علیؑ اور آپ کے بعد صرف آپ کی اولاد ہی خلافت کی جاز مستحق ہے۔

(۳) تیسرا گروہ خارجیوں کا تھا۔ ان کا مذہب مذکورہ بالا دونوں

سے حضرت حسنؑ کی وفات ۴۸ صفر ۴۰ مطابق ۶۶۹ء کو ہوئی۔ (مترجم)

گروہوں سے بالکل علیحدہ اور پیش کردہ نظریہ موجود پورنی جمہوریت کے
 بہت زیادہ قریب تھا۔ ان لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ خلافت ہر مسلمان کا
 حق ہے بشرطیکہ وہ اس کا اہل ہو۔ اس میں ترشی اور غیر قرشی کا کوئی امتیاز
 نہیں۔ یہ لوگ اپنے عقیدے کی ترویج کے لئے اپنے محافظوں کا خون
 بہانے۔ اور ان سے جنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔
 حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کرنے
 والا شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان متضاد خیالات رکھنے
 والے گروہوں کی باہمی حقیقت پسندی نے عوام کو گولگلوں کے عالم میں مبتلا کر دیا تھا
 ہر گروہ کا یہ دعوے تھا کہ صرف وہی حق پر ہے اور دوسرا ناجائز ہے۔ اور
 اپنے دعوے کے ثبوت میں عینوں گروہ مختلف دلائل بھی پیش کرتے تھے
 لیکن عام لوگوں کے ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ حق کس طرف ہے؟
 اور کس گروہ کے دلائل زیادہ وزنی ہیں؟ ان اسباب نے فتنہ کو بڑھنے
 اور اسے لقمہ موت پہنچانے میں بہت زیادہ مدد دی۔

اس موقع پر مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر

نکلن لکھتا ہے :-

”مسلمانوں نے بڑا میہ اور حضرت معاویہؓ کے غلبے کو قریش کے اس بت پرست عنصر کی فتح سے تعبیر کیا جس نے (اسلام لانے سے قبل) رسول اللہ کی سخت مخالفت کرنے اور آپ کے صحابہ سے دشمنی کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی اور جو رسول اللہ کی وفات کے قریب تک آپ سے برسرِ پیکار رہا۔ اور مسلمانوں نے بھی نہایت پامردی و استقلال سے ان لوگوں کا مقابلہ جاری رکھا اور بالآخر فتح یاب ہوئے۔“

”اس عنصر کی شکست سے دین اسلام کو اپنے وہ سادہ اصول عرب میں رائج کرنے کا موقع مل گیا جن کی بدولت تمام باشندگانِ عرب بلا استثناء ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور کسی بڑے سے بڑے شخص کو بھی کسی معمولی سے معمولی انسان پر نصیبت اور بڑائی جتانے کا غرور باقی نہ رہا۔ اس صورت حال کے پیش نظر اس قبائلی سیاست کا خاتمہ ہو گیا جو غریبوں کو ذلیل سمجھتی، کمزوروں کو حقیر جانتی اور دوسروں کے

اموال کو ہتھیانا معمولی چیز خیال کرتی تھی۔ اس لئے ہمیں کوئی
 تعجب نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بنو امیہ
 کے دوبارہ عروج کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھا۔ ان
 کا خیال تھا کہ بنو امیہ کے برسرِ اقتدار آ جانے سے تمام پرانے
 کینے نئے سرے سے زندہ ہو جائیں گے اور جاہلی روح کو
 دوبارہ پھینے کا موقع مل جائے گا۔

”بنو امیہ سے جمہور مسلمانوں کی نفرت کا ایک بڑا

سبب یہ بھی تھا کہ امویوں کا بہت بڑا عنصر ایسا تھا جو محض
 شخصی مصالح اور ذاتی فرائد کی خاطر اسلام میں داخل ہوا تھا
 اور اسلام سے اس کا حقیقی تعلق نہ تھا۔ مزید برآں بنو امیہ
 کی سیاست نے خلافت کو کسروی بادشاہت میں تبدیل
 کر دیا تھا۔ چنانچہ نے خود یہ بات تسلیم
 کرتے ہوئے کہا تھا: ”میں مسلمانوں کا سب سے بڑا
 بادشاہ ہوں۔“

(تاریخ ادب العربی از کلین)

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ نکلسن نے مندرجہ بالا بیان میں صرف
شیعوں اور خارجیوں کے خیالات کی تصویر کھینچی ہے۔ اہل شام اور کثیراً
غیر شامی حضرت معاویہؓ کے متعلق یہ رائے ہرگز نہ رکھتے تھے اور ان میں
سے کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا جو نکلسن نے بیان کیا ہے۔

لا حکم الا للہ

خوارج کی ابتدا ہی جنگ وجدل سے ہوئی۔ ان کی فکری نیج اس قسم کی تھی کہ بغیر لڑائی کے انہیں چین نہ آتا تھا۔ چالیس سال تک وہ میدان ہائے کارزار میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھاتے اور حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ دونوں کے لئے دردِ سر کا باعث بنے رہے۔

جنگِ صفین کے موقع پر جب حضرت معاویہؓ نے اپنی فوج میں شکست کے آثار دیکھے تو ان کی طرف سے حضرت علیؓ کی فوج کے سامنے لڑائی بند کرنے اور باہمی جھگڑوں میں کتاب اللہ کو حکم بنانے کی پیش کش کی گئی۔ اس پیش کش نے حضرت علیؓ کے ساتھیوں کو دوہرا ہے پر کھڑا کر دیا۔ آیات

وہ تحکیم قبول کر لیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک اس لڑائی کا مقصد ہی اعلیٰ
 کلمۃ اللہ تھا اور اب حضرت معاویہؓ انہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قبول کرنے
 کی دعوت دے رہے تھے۔ یا اسے روکیں؟ کیونکہ حضرت معاویہؓ نے
 اپنی فوج میں شکست کے آثار دیکھ کر تحکیم کو ایک جنگی چال کے طور پر پیش
 کیا تھا۔ کافی بحث و تکرار کے بعد بالآخر حضرت علیؓ کو تحکیم قبول کرنے پر
 مجبوراً آمادہ ہونا پڑا۔

واقعہ یہ ہے کہ تحکیم قبول کرنا ایک شدید جنگی غلطی تھی جو حضرت علیؓ
 سے سرزد ہوئی اس سے حضرت معاویہؓ کو تو اپنی منتشر جمعیت کے مجتمع
 کرنے اور اپنی صفوں کی دوبارہ تنظیم کرنے کا بڑا زریں موقع مل گیا بلکہ
 یہی امر حضرت علیؓ کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے، ان کی فتح کو شکست
 میں تبدیل کر دینے اور بالآخر ان کی شہادت کا باعث بنا۔

حضرت علیؓ کی فوج نے پہلے تو حضرت علیؓ کو تحکیم قبول کرنے پر
 مجبور کر دیا۔ لیکن جب حضرت معاویہؓ سے باقاعدہ معاہدہ ہو گیا تو آپ کی
 فوج کے ایک حصہ نے جس کے بیشتر افراد قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے تھے
 اس معاہدے کو تسلیم کرنے اور تحکیم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں

لاکھنا یہ تھا کہ ”کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے اور کسی شخص کو حکم نہیں بنایا
 جاسکتا۔ خدا تعالیٰ کا حکم خلافت کے بارہ میں بالکل واضح
 ہے جس سے انکار کرنے کی گنجائش نہیں لیکن حکیم تبدیل کرنے کا مطلب
 یہ ہے کہ دونوں متعارض گرد و مہل کو اپنے موقف کے صحیح ہونے میں
 ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں کیونکہ جو فریق حضرت علیؑ کے ساتھ ہو کر لڑ رہا ہے
 وہی حق پر ہے۔“

یہ نظریہ آہستہ آہستہ زور پکڑنے لگا اور تھوڑے ہی عرصہ میں ہزاروں
 اشخاص اس کے ہم نوا ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنا شعار ”لا حکم الا للہ“
 قرار دیا جس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے کا
 مجاز نہیں۔ اس گروہ کو خوارج کا خطاب دیا گیا۔

حضرت علیؑ اور خوارج کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں۔ اگرچہ
 آپ کے آخری عہد میں خوارج کا فتنہ بہت حد تک دب گیا تھا لیکن
 آپ کی شہادت کے بعد جب حضرت معاویہؓ سلطنت اسلامیہ کے مختار
 کل فرمانروا بنے تو اس فتنہ نے پھر سراٹھایا اور خوارج حضرت معاویہؓ
 سے لڑنے کے لئے اپنی فوجیں مجتمع کرنے لگے۔ چنانچہ آپ کے اور ان

کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں۔ جن کا ذکر اپنے اپنے موقع پر آئے گا۔
 اس جگہ ہم صرف اس گروہ کے مفروضات، نظریات اور اعتقادات
 سے بحث کریں گے۔ نیز یہ بتائیں گے کہ اس گروہ کے مشہور مشہور فرقیے
 کون کون سے تھے۔

خارج نے اپنے عقائد کی ابتداء ان امور سے کی جو خلافت سے
 تعلق رکھتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت
 بالکل صحیح تھی۔ کیونکہ ان کا انتخاب درست طریقہ پر ہوا تھا۔ حضرت
 عثمانؓ خلافت کے ابتدائی سالوں میں درست طریقہ پر چلے۔ لیکن بعد
 میں حب انہوں نے اپنا طریقہ بدل دیا اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت
 عمرؓ کی سیرت پر چلنا چھوڑ دیا۔ انہیں خلافت سے معزول کرنا ضروری
 ہو گیا۔ حضرت علیؓ کی خلافت کو وہ صحیح مانتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی یہ
 بھی کہتے تھے کہ انہوں نے حکیم قبول کر کے غلطی کی اور اس طرح کفر
 کا ارتکاب کیا۔ اصحاب جمل یعنی حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت
 عائشہؓ کو بھی وہ اپنے اعتراضات کا نشانہ بناتے اور حضرت ابو موسیٰ
 اشعریؓ اور حضرت عمرو بن العاص کو کافر قرار دیتے تھے۔

خلافت کے بارہ میں انہوں نے جو نظریہ قائم کیا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کا حق عامۃ المسلمین کو ہے۔ جب عوام کسی شخص کو خلیفہ منتخب کر لیں تو اسے یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لئے کوئی کم تر پوزیشن یا ثالثی قبول کر لے۔ خلیفہ کے لئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ قریشی ہی ہو۔ غیر قریشی بھی خواہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو خلیفہ ہو سکتا ہے۔ خلیفہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے احکام کا پورا پورا پابند ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے معزول کر دینا واجب ہے۔

اسی نظریہ کے تحت انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص عبداللہ بن واسب راہسی کو "امیر المؤمنین" مقرر کر لیا جو قریشی نہیں تھا۔ شیعوں اور اہل سنت والجماعت نے اس نظریہ کی مخالفت کی۔ کیونکہ اول الذکر کے نزدیک خلافت کے مستحق صرف آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مؤخر الذکر کے نزدیک خلیفہ کا قریش میں سے ہونا ضروری تھا۔ اسی نظریہ نے خوارج کو ہذا مہ اور بنو عباس کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ یہ خلفاء ظالم اور غیر منصف ہیں اور خلافت کی

شرائط ان پر منطبق نہیں ہوتیں۔

ابتداء میں خوارج کے اغراض و مقاصد خلاصتاً سیاسی تھے۔ لیکن
عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں انہوں نے اپنی سیاسی تعلیمات میں لبرٹی
بجٹوں کو بھی شامل کر لیا۔ ایسا کرنے میں سب سے پیش پیش "ازرقی" تھے۔
جو نافع بن ازرق کے پیرو تھے۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم نظریہ جو خوارج
پیش کرتے تھے وہ یہ تھا کہ "ایمان لانے کے لئے صرف اعتقاد کافی نہیں
بلکہ اوامر و نہیہ مثلاً نماز، روزہ، سچائی اور عدل وغیرہ پر عمل کرنا بھی ضروری
ہے۔ کیونکہ وہ بھی ایمان کا جزو ہیں" ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص زبان
سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن فرائض
و نہیہ پر عمل نہیں کرتا اور کبائر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ کافر ہے۔
خوارج بھی باہم متفق و متحد نہیں تھے۔ چونکہ بدوی عادات و
خصائل ان میں پوری طرح رچے ہوئے تھے اور آزادی رائے کے
وہ شدت سے حامی تھے۔ اس لئے ان میں آپس میں بھی سخت
اختلاف موجود تھا۔ اگر وہ ایک متحد قوت ہوتے تو یقیناً دولتِ امویہ
کے لئے سخت خطرہ کا باعث بن جاتے۔ ان کے مختلف فرقوں اور

گردہوں کی تعداد میں تک پہنچ گئی تھی۔ تاہم وہ تمام کے تمام اصولی طور پر
 ان نظریات پر متفق تھے جو ہم اس باب کے شروع میں بیان کر چکے
 ہیں۔ البتہ ان نظریات کی فروعات اور تفصیلات میں ان کا بے حد
 اختلاف تھا۔

ان کا سب سے بڑا فرقہ "ازرقیہ" تھا۔ جو ان کے سب سے بڑے
 فقیہ نافع بن ازرق کا تابع تھا۔ یہ فرقہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتا
 تھا اور اس کا اعتقاد تھا کہ دوسرے مسلمان کھانے والوں کے سلام کا
 جواب دینا، ان کا ذبیحہ کھانا، ان سے شادی بیاہ کا سلسلہ قائم کرنا
 ان کی وراثت سے حصہ لینا یا اپنی وراثت سے انہیں حصہ دینا سب
 حرام ہیں۔ وہ بھی عرب کے دیگر کفار اور بت پرستوں کی طرح ہیں اور
 لڑائی میں ان کے سامنے بھی وہی دو شرائط پیش کرنی چاہئیں جو دیگر
 کفار کے سامنے پیش کی جاتی ہیں یعنی یا "اسلام لاؤ یا لڑائی کے لئے
 تیار ہو جاؤ۔"

ایک فرقہ "نجدی" تھا۔ جو نجدہ بن عامر کو امام مانتا تھا۔ اس گروہ

لئے اس "اسلام" کا مطلب خوارج کے نزدیک یہ تھا کہ وہ عقائد اختیار کرو جو ان کے ہیں (ترجمہ)

کی اہم اور مخصوص تعلیمات یہ تھیں کہ اجتہاد کے بعد اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو وہ معذور ہے۔ دین اسلام صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ اور جو امور دینیہ ہیں اگر انسان ان سے نادانیت ہے تو حجت تک ان کے بارہ میں اس پر حجت قائم نہ ہو جائے وہ معذور ہے۔ اسی لئے اگر کوئی شخص اپنے اجتہاد سے کسی حرام چیز کو حلال یا حلال چیز کو حرام سمجھتا ہے تو اسے معذور سمجھنا چاہئے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑے گناہ زنا اور شراب خوری تھے۔

خوارج کا ایک مشہور فرقہ "اباضیہ" تھا۔ جن کا سردار عبداللہ بن اباض تہی تھا۔ اس فرقہ کے کچھ متبعین اب تک بلاد مغرب میں پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ازرقیوں کی طرح اپنے مخالفوں کے بارہ میں غلطی نہ کرتے تھے۔ دوسرے مسلمانوں سے شادی بیاہ اور وراثت کا سلسلہ قائم کرنا جائز سمجھتے تھے۔ اور باہمی صلح و صفائی کی جانب زیادہ مائل تھے۔ وہ اس وقت تک جنگ شروع نہ کرتے تھے۔ جب تک فریق مخالف کو اپنے عقیدہ کی دعوت نہ دے لیتے تھے اور اپنے خیال میں اپنی طرف سے اس پر اتمام حجت نہ کر دیتے تھے۔ عبداللہ بن اباض

پہلی صدی ہجری کے اواخر میں گزرا ہے۔ اس کے پیروکاروں نے عام طور پر دولتِ اسلامیہ سے چھٹ چھاڑ کر پیسند نہیں کی۔ ایک اور فرقہ "صفریہ" تھا جو زیادہ بنِ اصغر کا مطیع و فرمانبردار تھا۔ یہ لوگ قریباً ازرقیوں کے ہم مسلک و ہم عقیدہ تھے۔ خوارج کے یہ چار بڑے بڑے مشہور فرقے ہیں جن کا ذکر اکثر کتابوں میں آتا ہے۔

خوارج کے گروہ میں زیادہ تر عرب کے بدو شامل تھے۔ گو بعض غلام بھی خلافت کے بارہ میں ان کے جمہوری نظریہ کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تاہم ان کی تعداد بہت کم تھی۔ کیونکہ بدو اپنے سوا دوسرے لوگوں اور خصوصاً غلاموں کو بہت ہی حقیر جانتے تھے۔ اور خوارج میں بدوی عنصر زیادہ تھا۔

تاریخ کا مطالعہ کرنے سے خوارج کی بعض ایسی صفات منظرِ عام پر آتی ہیں۔ جن میں وہ دوسرے مسلمانوں سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ان کا سب سے اہم وصف عبادتِ الٰہی میں حد درجہ انہماک ہے۔ شہرستانی

لکھتے ہیں کہ وہ "صوم و صلوات کے انتہائی پابند تھے۔" مہر و لکھتے ہیں کہ
 "تمام خارجی ہر جھوٹ بوسلنے والے اور ظاہری معصیت کا ارتکاب کرنے
 والے سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔"

اُس زمانہ میں ظاہری تقویٰ اور بدنی عبادت میں استغراق کی
 نوج مغسور صفت بن گئی تھی۔ ذیل میں ہم ایک مشہور خارجی ابو حمزہ کی
 بیان کردہ عبارت درج کرتے ہیں۔ جو اس نے اپنے ہم عقیدہ لوگوں
 کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھی تھی۔ یہ عبارت فصاحت و بلاغت
 میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتی۔ وہ لکھتا ہے:-

نظروا لله اليهم في جوف الليل متخية اصلا بهم على اجزاء
 القرآن - كلما مر احدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقاً
 اليها، واذا مر بآية من ذكر النار شتم شهقة كان
 زفير جهنم بين اذنيه، قد اكلت الارض ركبهم وايد بهم
 والنوفهم وجباههم، واستقلوا ذلك في جنب الله حتى
 اذا رأوا السهام قد فوقت، والرماح قد اشرعت، والسيوف
 قد اثنيت، ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت

استغفروا بوعید الکتیبة لوعید اللہ، ومضی الثاب منهم
 قد ما حتی اختلفت رجلا، علی عنق فرسه، وتخصیت
 بالدماء محاسن وجهه، فاسرعت الیه سیاح الارض
 وانحطت الیه طیر السماء فکم من عین فی منقار طیر، طالما
 یکی صاحبها فی جوف اللیل من خوف اللہ وکم من کفّت لالت
 عن معصمها، طالما اعتد علیها صاحبها فی جوف اللیل
 بالسجود لله ۞

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں انہیں دیکھتا ہے کہ
 ان کی کمری قرآن مجید کی جانب جھکی ہوئی ہیں۔ تلاوت کرتے ہوئے جب وہ
 ان آیات پر پہنچتے ہیں جن میں جنت کا ذکر ہوتا ہے تو بہشت کے اشتیاق
 کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آجاتے ہیں۔ مگر جب ان
 آیات کی تلاوت کرتے ہیں جن میں دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو اس طرح چیخیں
 مارتے ہیں۔ گویا جہنم کا نظارہ ان کے سامنے ہے۔ زمین نے ان کے گھٹنوں
 ہاتھوں، ناکوں اور پیشانیوں کو کھالیا ہے۔ میدان جنگ میں بھی ان کی عبادت
 میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نماز کے وقت وہ تیروں کی بوجھاڑ، نیزوں کے وار

اور تلواروں کی کھاٹ کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ جس وقت میدان جنگ میں موت کی سی کرٹک اور گرج سنائی دیتی ہے۔ اس وقت جنگ کی ہوناک شدت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں پرستولی ہوتا ہے جنگ میں ان کی ٹانگیں گھوڑوں کی گردنوں پر بیٹھے ہوئے کٹ جاتی ہیں۔ ان کے چہرے خون سے تڑپتے ہو جاتے ہیں، نیچے سے زمین کے درندے اور اونچے سے آسمان کے پرندے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور کتنی ہی آنکھیں، کچھڑی اتوں کے اندھیروں میں خدا تعالیٰ کے خوف سے پر غم ہوتی ہوں گی۔ پرندوں کا لڑا لہ بن جاتی ہیں۔ اور کتنی ہی ہتھیلیاں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت زمین پر رکھی گئی ہوں گی اپنے بازوؤں سے علیحدہ ہو جاتی ہیں۔“

اس قدر ظاہری تقویٰ اور خوف خدا کے باوجود خوارج اپنے عقیدہ میں اس قدر غلو کرنے والے تھے کہ وہ کبیرہ گناہ اور بعض اوقات صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو بھی کافر سمجھتے تھے۔ وہ لوگ معمولی غلطی کو بھی بچھٹے والے نہیں تھے۔ اپنے علاوہ دوسرے تمام مسلمان ان کی نظروں میں کافر تھے اور کافروں جیسے سلوک کے مستحق۔ یہی نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کفار سے بڑھ کر سختی بستتے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں سے اکثر

عورتوں، دودھ پیتے بچوں اور بوڑھوں پر بھی رحم نہیں کرتے تھے۔ اپنے مخالفوں سے وہ صرف یہ کہلوانے پر اکتفا نہیں کرتے تھے کہ عثمانؓ نے بعض نئی باتیں اختیار کرنے اور حضرت علیؓ نے تکلیف قبول کرنے میں غلطی کی۔ بلکہ وہ اسے مجبور کرتے تھے کہ وہ ان دونوں اور ان کے مددگاروں کے کافر ہونے کا اقرار کرے۔ اس تشدد کی نہ قرآن مجید اجازت دیتا ہے اور نہ سنت نبویؐ اسے جائز سمجھتی ہے۔ سختی اور اپنے مخالفوں کا بے دریغ قتل، یہ تھے وہ عوامل جنہوں نے بالآخر ان کی ٹھکانے کو سخت نقصان پہنچایا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دنیا سے نابود ہو گئے۔

ان کی شجاعت و بہادری میں کبھی کلام نہیں ہو سکتا۔ ان کا دشمن ان کے مقابلہ میں خواہ کتنا ہی طاقت ور کیوں نہ ہوتا اور اس کے پاس کتنے ہی اعلیٰ مہتیا کیوں نہ ہوتے۔ لیکن یہ اس کی قوت، تعداد اور مہتیا روں کو مطلق خاطر میں نہ لاتے تھے اور بڑی بہادری اور دلیری سے اس کے مقابلہ پر بٹ جاتے تھے۔ ان کی جرأت اور بہادری کی کئی مثالیں صفحہ تاریخ پر ثبت ہیں۔ ابن زیاد نے اسلم بن زرعہ کو دو ہزار جوانوں کے ساتھ خوارج کے ایک گروہ سے لڑنے کے لئے بھیجا۔ لیکن ابو بلال خارجی نے صرف

چالیس آدمیوں کے ساتھ اسے شکست دیدی۔ ان کی عورتیں بھی بہادر تھیں اور شجاعت میں اپنے مردوں سے کم نہ تھیں۔ بلکہ بعض اوقات تو وہ دلاوری اور بے جگری میں مردوں سے بھی بڑھ جاتی تھیں۔

دین میں سختی، عقیدہ اخلاص اور بے نظیر شجاعت، یہ وہ صفات تھیں جن کی بدولت خوارج نے ایک خاص ادب تشکیل کیا جو تاثیر، الفاظ کی بندش، اسلوب بیان اور فصاحت و بلاغت میں ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ ابو حمزہ نے اپنے ساتھیوں کے جو اوصاف بیان کئے ہیں اور جنہیں ہم اسی باب میں درج کر چکے ہیں وہ خوارج کے پیدا کردہ ادب کے بھرپور پایوں کے صرف چند قطرے ہیں۔

شیعہ

شیعیت کی ابتدا سب سے پہلے اہل بیت اور ان کے بعض حامیوں سے ہوئی۔ ان لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرے لوگوں کی نسبت حضرت علیؑ خلافت کے زیادہ حق دار ہیں۔

ابتداء میں شیعیت کی دعوت کا طریق کار بہت سادہ تھا۔ وہ اس طرح کہ اسلام میں خلافت کے متعلق کوئی نص صریح موجود نہیں تھی کہ کسے خلیفہ بنایا جائے بلکہ یہ امر مسلمانوں کے باہمی مشورہ پر موقوف تھا۔ مختلف گروہ اپنی خدمات کی بنا پر جو انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لئے کی تھیں، خلافت پر اپنا حق بتلاتے تھے۔ انصار کہتے تھے خلافت ان کا حق

ہے۔ جہا جبرین کا دعویٰ تھا کہ خلیفہ اس میں سے ہونا چاہئے۔ حضرت علیؓ کے مددگار یہ کہتے تھے کہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی میراث ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتی جائداد ہوتی تو اس کے وارث یقیناً آپ کے رشتہ دار اور قریبی عزیز ہوتے۔ اسی طرح چونکہ خلافت بھی ایک میراث ہے اس لئے وہ آپ کے رشتہ داروں ہی کو ملنی چاہئے۔

نظریات میں اختلاف اس لئے اور بھی زیادہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اشارۃً بھی ذکر نہیں فرمایا تھا، کہ آپ کے بعد کے خلیفہ بنایا جائے۔ البتہ مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کو نمانہ پڑھانے کا حکم دینے سے لوگوں نے بطور خورخیز یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکرؓ ہوں۔ مگر وہ زمانہ کے ساتھ ساتھ شیعوں کے نظریات میں بھی سمجھی پیدا ہونے لگی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا:-

”امامت کا شمار ان مصالِح عامہ میں سے نہیں

ہے جو امت کی صوابدید پر چھوڑ دئے جاتے ہیں۔ کہ جسے

امت چاہے وہی ان کی نگرانی کا کام اپنے ہاتھ میں لے

بلکہ یہ بھی منجملہ دوسرے امور کے دین کا ایک رکن ہے اور
 نبی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں امام
 کا تعین کر جائے۔ وہ اس کی طرف سے غفلت برت کر اسے
 امت کے سپرد نہیں کر سکتا۔ امام کا اثر اور صفا گرگنا ہوں سے
 پاک ہوتا ہے اور حضرت علیؓ ہی وہ امام ہیں جنہیں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امت کا نگہبان مقرر
 فرمایا۔“

اپنے نظریہ کی تائید میں وہ چند احادیث بھی پیش کرتے ہیں جنہیں اہل
 سنت قبول نہیں کرتے۔ روایات کے اختلاف اور روایت کرنے والوں کے
 مختلف عقائد کی وجہ سے ہم اس مسئلہ پر بحث کرنا نہیں چاہتے۔ پھر مختلف
 فرقوں کے باہمی اختلاف و نظریات پر اظہار خیال کرتا اور ایک فرقے کے
 عقیدے کو دوسرے گروہ کے عقیدے سے بڑا یا فروتر قرار دینا اور کسی
 فرقے کے ذاتی عقائد و خیالات پر تنقید و تبصرہ کرنا ہمارے منصب اور
 کتاب کے موضوع سے بھی بالکل علیحدہ چیز۔
 شیعوں کے اس اعتقاد سے وصیت کا نظریہ پیدا ہوا اور حضرت

علیؑ کا لقب "وصی" قرار دیا گیا۔ ان معتبروں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علیؑ کی خلافت کے لئے وصیت فرمادی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ انتخاب کے ذریعہ خلیفہ مقرر نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نص صریحہ کے ذریعہ ہی آپ کا تقرر ہوا چکا تھا۔

اس نظریہ نے اس قدر زور پکڑا کہ اب وہ شیعوں کے عقیدے کا ایک جزو بن چکا ہے

شیعہ بھی اصحاب ثلاثہ (حضرت صدیق اکبرؓ، فاروق اعظمؓ اور عثمان غنیؓ) کو اسی طرح برا بھلا کہتے ہیں جس طرح خوارج کہتے تھے۔ بلکہ بعض تو برا بھلا کہنے میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے سوا جنہوں نے حضرت علیؑ کا ساتھ دیا باقی سب صحابہ کو (منجملہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ) نعوذ باللہ کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اکثر لوگ میانہ روی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گو حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ نے یہ جہانتے کے باوجود کہ علیؓ ان سے افضل اور خلافت کے ان سے

زیادہ حتی وارہیں۔ خود خلافت قبول کر کے غلطی کی لیکن چونکہ حضرت علیؑ نے ان کی حکومت تسلیم کر کے ان کی بیعت کر لی ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور انہیں بڑا بھلا نہیں کہا۔ اس لئے ہم بھی ان کے متعلق خاموشی اختیار کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔

جہاں تک خلفائے پرامنہ کا تعلق ہے خراج اور شیعہ دونوں کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ غاصب اور ظالم تھے۔ لیکن جہاں خراج ان سے کھلم کھلا اڑایا کرتے اور بدوی طباہ رکھنے کے باعث صاف بات کہنے کے عادی تھے اور تفسیر نہیں کرتے تھے وہاں شیعہ جہاں موقع دیکھتے وہاں تو کھلم کھلا حکومت کی مخالفت کرتے تھے لیکن جہاں ایسا کرنا ممکن نہ ہوتا وہاں تفسیر اختیار کرتے اور خفیہ طور پر مخالفت جاری رکھتے تھے۔

لے تفسیر کا مطلب چوری چھپے اپنا کام چلانا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی جان دہل یا عزت بچانے کی خاطر ایسے عقیدہ کا اظہار کرے جسے دل سے وہ صحیح نہ سمجھتا ہو یا وہ کسی مذہب کا پیرو ہو لیکن بعض مجبوروں کی وجہ سے وہ اپنا مذہب یا عقیدہ ظاہر نہ کر سکے اور اس کی بجائے کوئی دوسرا عقیدہ ظاہر کرے تو اسے تفسیر کہتے ہیں۔ خوارج تفسیر کے قائل نہ تھے اور اسے اعلا رکھتے تھے اور اپنے بچاؤ کے واسطے استعمال کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔

چونکہ اکثر شیعہ تفتیہ اختیار کرنے کے عادی تھے اس لئے بڑا ہیہ کی نظروں میں وہ خوارج سے زیادہ خطرناک تھے۔ انہوں نے شیعہ اکابر کی نگہ رانی کرنے اور ان کے خفیہ ارادوں کا پتہ چلانے کے لئے اپنے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ عوام میں سے جس شخص کے متعلق یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ شیعہ خیالات رکھتا ہے اسے قید کر لیا جاتا اور اس کا مال و اسباب چھین لیا جاتا۔ عبید اللہ بن زیاد قاتل حسینؑ کے زمانہ میں تو یہ سختی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ ذرا ذرا سے شک پر اہل بیت اور ان کے حامیوں کو گرفتار کر لیا جاتا اور انہیں سخت اذیتیں پہنچائی جاتیں۔ حتیٰ کہ ہاتھ اور پیر کاٹنے سے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔

ڈاکٹر ولسن شیعہ مذہب کے بارہ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”شیعہ مذہب نے مجوسیت سے زیادہ یہودیت سے اثر قبول کیا۔ کیونکہ اس فرقہ کا یانی عبید اللہ بن سبا یہودی الاصل تھا۔“

ڈوڑی کے خیال میں شیعیت کی بنا ایران میں پڑی۔ اپنے دعوے کی دلیل میں وہ یہ امر پیش کرتا ہے۔

”عرب جمہوری نظام حکومت اور آزادی کے دلدادہ تھے لیکن ان کے بالمقابل ایرانی شہنشاہیت کے پرستار تھے۔ جو باپ کے بعد بیٹے اور بیٹے کے بعد پوتے کی طرت منتقل ہو جاتی تھی۔ اگر شہنشاہ کے اولاد نہ ہوتی تھی تو اسی کے خاندان میں سے کسی شہزادہ کو بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا۔ مگر کسی شخص کے انتخاب کے ذریعہ بادشاہ مقرر ہونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے قیامت اسلامیہ کے بعد ایمانیوں نے کثرت سے اسلام میں داخل ہونا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے بعد کوئی زریہ اولاد نہیں چھوڑی تھی۔ اس لئے اپنے ذہنی افکار کی وجہ سے لازماً انہوں نے حضرت علیؓ کو جو آپ کے پیچھاڑ اور بھائی نیز داماد تھے۔ خلافت کا سب سے زیادہ مستحق سمجھا اور حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور خلفائے نبویہ کو خلافت پر ان کے بزعم ناچار قبضہ کرنے کی وجہ سے

فاضل جاننا۔ ایرانی اس بات کے بھی عادی تھے کہ بادشاہ کو ^{اللہ} کابل
 اور اس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت جانیں۔ اسی
 نظریے انہوں نے حضرت علیؑ اور آپ کی اولاد کی خلافت کو
 بھی دیکھا اور اس نظریہ کا اظہار کیا کہ سب سے مقدم امام کی
 اطاعت ہے اور اس کی اطاعت دراصل اللہ
 تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

اسی مسئلہ پر مؤلف کتاب "فخر اسلام" اپنے خیالات کا اظہار کرتے
 ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"شیعیت کی بنیاد ایرانیوں کے اسلام میں داخل ہونے
 سے قبل ہی پڑ چکی تھی۔ لیکن اس وقت تک وہ بہت سادہ حالت
 میں تھی۔ ابتدا میں ان لوگوں کا صرف یہ دکانے تھا کہ حضرت
 علیؑ دوسرے لوگوں کی نسبت خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔
 کیونکہ اول تو ان کی ذاتی شخصیت ہی بہت بلند ہے۔ دوسرے
 وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں۔ عرب
 قدیمی زمانہ سے خاندان اور ریاست پر فخر کرنے کے عادی

تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل خانہ ان میں
سے بھی بعض لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا لیکن امر زنگ کے ساتھ
ساتھ شیعہ افکار نے ترقی کرتی شروع کی۔ جب مگر عینی
یعنی یہودی نصرانی اور مجوسی اسلام میں داخل ہونے شروع
ہوئے تو شیعیت نے ان سے بھی اثر قبول کیا۔ ہر قوم نے
اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر شیعیت کو اپنے رنگ میں
رنگنا شروع کیا۔ یہودی نے اسے اپنے رنگ میں رنگا اور عیسائیوں
نے اپنے رنگ میں۔ لیکن چونکہ سب سے بڑا غیر ملکی عنصر جو
اسلام میں داخل ہوا وہ ایرانی عنصر تھا۔ اس لئے شیعیت
پر سب سے گہرا اثر بھی ایرانیوں ہی نے ڈالا۔

خوارج اور حضرت معاویہؓ

۱۶۶۱ھ میں حضرت حسنؓ سے صلح کر لینے کے بعد حضرت معاویہؓ تمام مملکت اسلامیہ کے بلا شرکت غیرے حاکم بن کر گئے مگر وہیں سے انہیں بدستور خطرہ لاحق رہا۔ ایک خوارج کی طرف سے دوسرے شیعہوں کی جانب سے خوارج کا خطرہ شیعہوں سے بہت زیادہ تھا کیونکہ شیعہ تو حضرت حسنؓ کے صلح کر لینے کی وجہ سے بظاہر وہ گئے تھے لیکن خوارج تلواریں سونت کر اور کھلم کھلا بغاوت کر کے آپ کے خلاف لڑائی پر آمادہ تھے۔

خوارج کو سمجھا بھجا کر ٹھنڈا کرنا، انہیں حکومت وقت کی فرمائیں

کی اطلاع پر آمادہ کرنا اور دلائل دہراہین کے ذریعہ مسلمانوں کے سوا داغ عظیم میں شریک ہونے کی ترغیب دینا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن تھا کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ "جو مسلمان ان کی رائے سے ذرا بھی اختلاف کرتا ہے وہ کافر ہے اور اس کا خون یہاں اس کا مال لوٹ لینا جائز ہے" اس صورت حال کی موجودگی میں حضرت معاویہؓ کے لئے ضروری ہو گیا کہ وہ ان سے سختی سے پیش آئیں اور مسلح تصادم اور جنگ و جدل کی صورت میں انہیں کچل کر رکھ دیں۔

خارج کی نظروں میں حضرت معاویہؓ، حضرت علیؓ سے زیادہ بڑے تھے کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ "حضرت معاویہؓ نے مسلمانوں کے اموال کو نہایت بے دردی سے خرچ کر کے، اپنے لئے عظیم الشان محل بنوا کر اپنی حفاظت کے لئے پہرہ لگا کر عوام سے ایک قسم کا قطع تعلق کر کے اور اس طرح قیصرانِ روم اور کیمیا سرہ ایران جیسی شان و شوکت اختیار کر کے ان امور کا مظاہرہ کیا ہے جن کی نظیر اسلام کے ابتدائی زمانہ میں قطعاً نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح خلافت کا اعزاز انہوں نے مسلمانوں کے اجماع اور ان کی مرضی سے حاصل نہیں کیا۔ بلکہ ناوا جب طریقے اختیار کر کے بزور

حاصل کیا ہے۔“

حضرت حسنؓ سے صلح ہو جانے کے بعد ۱۲ھ میں خوارج نے حضرت

معاویہؓ کے خلاف جنگی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو گروہ لڑائی

کے لئے نکلا۔ اس کی سرکردگی فروہ بن نوفل استخعی کر رہا تھا۔ یہ شخص حضرت

علیؓ کو چھوڑ کر پانچ سو خوارج کے ہمراہ قریہ "شہرزور" چلا گیا تھا جو فارس

کے علاقہ میں واقع ہے۔ جب حضرت حسنؓ نے حضرت معاویہؓ سے صلح

کر لی تو فروہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ "اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان

میں نکلیں اس لئے معاویہ کے مقابلہ کے لئے چلو اور اس سے لڑو۔"

چنانچہ ان لوگوں نے کوفہ کی جانب کوچ کر دیا جہاں اس وقت

حضرت معاویہؓ مقیم تھے۔ آپ نے ان کے مقابلہ کے لئے شامیوں کا ایک

لشکر بھیجا لیکن خوارج نے اسے شکست دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت

معاویہؓ نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ان سے کہا۔

"خوارج شہر کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر تم

نے ان کا مقابلہ نہ کیا تو میں تمہیں امان نہیں دوں گا۔"

چنانچہ اہل کوفہ خوارج کے مقابلہ کے لئے نکلے۔ خوارج نے انہیں

دیکھ کر کہا:-

”تم کس مقصد کے لئے باہر نکلے ہو؟ کیا
معاویہ ہمارے اور تمہارے مشترک دشمن نہیں ہیں؟ ہمیں ان
لڑنے دو۔ اگر ہم فتحیاب ہو گئے تو تم معاویہ جیسے خطرناک
دشمن سے نجات حاصل کر لو گے۔ لیکن اگر معاویہ کامیاب ہو گئے تو
تمہیں ہماری طرف سے بے فکری ہو جائے گی۔“

لیکن اہل کوفہ نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں شکست دے کر ہی دم

لیا۔

خارج کا ایک اور سرکردہ شخص حوثرۃ الاسدی تھا جو حضرت معاویہؓ
سے جنگ کے لئے اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہا تھا۔ حضرت معاویہؓ نے آپ
کے باپ کو اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے سمجھا بھجا کر لڑائی سے باز رکھے
باپ نے بیٹے کو بہت سمجھایا لیکن اس نے حضرت معاویہؓ کی اطاعت کرنے
اور لڑائی سے باز آنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب آخری حربہ کے طور پر
باپ نے کہا:-

”میں تیرے بیٹے کو تیرے سامنے لاتا ہوں۔ شاید

اسے دیکھ کر ہی سمجھتے تھے اس پر رحم آجائے۔“
 لیکن حوثیہ پر اس بات کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کہنے لگا۔
 ”خدا کی قسم! نیزے کی انی پر لڑنا مجھے اپنے بیٹے
 کو پیار کرنے سے زیادہ پسند ہے۔“

باپ مایوس ہو کر لوٹ آیا۔ آخر دونوں فرجوں میں لڑائی شروع ہوئی
 باپ نے بیٹے کو مبارزت کے لئے بلایا۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جنگ
 کے دوران میں اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے حوثیہ پر حملہ کیا اور اسے قتل کر
 ڈالا۔ خوارج کو بری طرح شکست ہوئی۔

پچھلے باب میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر خوارج ایک متحدہ قوت ہوتے
 اور ان کے تمام گروہ ایک کمان کے ماتحت ہو کر لڑتے تو یقیناً وہ اپنے
 مخالفوں کو شدید نقصان پہنچاتے اور ان پر غلبہ حاصل کر لیتے کیونکہ بہادری
 دلیری، عزم و استقلال، مصائب پر صبر، فنون جنگ میں مہارت اور جنگی
 چالوں سے اچھی طرح باخبر ہونے میں کوئی ان کا ہسر نہ تھا۔ لیکن بد قسمتی
 سے ان میں اتفاق و اتحاد مفقود تھا۔ نہ وہ ایک جھنڈے تلے ہو کر لڑتے

تھے اور نہ اپنے سردار کے سوا کسی اور کی سیادت قبول کرتے تھے۔ بلکہ
 علیحدہ علیحدہ اپنے حریفوں سے جنگ کرتے تھے۔ اور یہی امر ان کی ناکامی
 اور بالآخر تباہی کا موجب ہوا۔

فروہ بن زفل کی شکست اور سوثرہ کے قتل کے بعد حیان بن ظبیان
 سلمیٰ کی سرکردگی میں ایک اور جماعت حضرت معاویہؓ کے مقابلہ میں آئی
 جسے جنگ نہروان میں اپنی دروٹا کی شکست اور اپنے مقتولین کی یاد دلا
 دلا کر جوش دلایا گیا تھا۔

حیان ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے جنگ نہروان کے موقعہ
 پر حضرت علیؓ کا مقابلہ کیا تھا۔ اس جنگ میں یہ بڑی طرح زخمی ہو کر گرفتار
 ہوا۔ لیکن حضرت علیؓ نے اس کی جان بخشی کر دی۔ تندرست ہوتے پر
 یہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چپکے نکل کر ”رے“ چلا آیا اور حضرت علیؓ
 کی شہادت تک وہیں مقیم رہا۔ جب حضرت معاویہؓ اور خراج کی پھلتیش
 کی خبریں اس تک پہنچیں تو اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو کو فہ چلنے اور
 حضرت معاویہؓ کے ساتھ جنگ کرنے پر ابھارنا شروع کیا۔ وہ ان کے
 سامنے کھڑا ہو جاتا اور پر جوش الفاظ میں اس طرح خطبہ دیتا۔

فانصرنوا بنا بحکم اللہ الی مصر بنا، فلنات اخواننا
 فلندعهم الی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والی جہاد
 الاحزاب نانه لا عذر لنا فی القعود، وولاتنا ظلمة و
 سنة الهدی متروکة، وثأرنا الذین قتلوا اخواننا
 فی المجالس آمنون۔

ترجمہ:۔ اے میرے ساتھیو! میرا ساتھ دو اور قریہ بقریہ پھر کر اپنے
 بھائیوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور معاویہ کے لشکر سے جہاد کرنے کی تلقین
 کرو۔ اگر ہم اس وقت چین سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تو خدا تعالیٰ
 کے سامنے ہمارا کوئی عند قبول نہ ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہمارے حاکموں نے
 ظلم و تشدد پر کمر باندھ لی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پس پشت
 ڈال دیا ہے۔ ہمارے ہزاروں بھائی ان ظالموں کے ہاتھوں بے گناہ مارے گئے
 ہیں۔ پس کیا ہمارے لئے ان ظالموں سے اپنے آدمیوں کا انتقام لینا ضروری
 نہیں؟

اس قسم کے خطبوں کا بڑا اثر ہوا اور خوارج نے چکے چکے کو ذمہ
 داخل ہونا شروع کر دیا۔ جہاں کے حاکم اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ

تھے۔ وہ بہت غمگین اور ہوشیار آدمی تھے۔ خواریزی سے انہیں نفرت تھی اور ہر کام بڑی تندہی اور سوچ بچار کے بعد کرتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے ابتداء میں ان خارجیوں سے تعرض نہ کیا جو کوفہ میں حیان کے گھر پر جمع ہو کر حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان خارجیوں نے مستورد بن علقمہ اللہبی کو اپنا سردار مقرر کیا اور یہ طے پایا کہ یکم شعبان ۲۳ھ کو یک دم کوفہ پر حملہ کر کے لڑائی کا آغاز کر دیا جائے۔

اب تک حضرت مغیرہ بن شعبہ خاموش تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ خوارج کی طرف سے پہل ہوتا کہ ان کے مقابلے کے وقت یہ ہر ان پر بطور محبت پیش کیا جاسکے۔ لیکن جب شقیہ پولیس کے ذریعہ نہیں یہ خبریں ملیں کہ خوارج حیان کے مکان پر جمع ہوتے ہیں اور یکم شعبان کا دن انہوں نے اپنی جنگی سرگرمیاں شروع کرنے کے لئے مقرر کیا ہے، تو انہیں ڈر پیدا ہوا کہ اگر اس موقع پر بھی انہوں نے خاموشی اور گدراؤں پر مشتمل پویشی سے کام لیا اور حضرت معاویہؓ تک یہ خبر پہنچ گئی تو وہ انہیں بظاہر کے کسی اور شخص کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیں گے۔ اس خوف کے پیش نظر انہوں نے پولیس کے افسر علی کو حکم دیا کہ وہ پولیس کی ایک جمعیت کے

ساتھ جہان کے مکان پر جائے اور جتنے لوگ وہاں ہوں انہیں گرفتار
 کر لائے۔ چنانچہ وہ گیا۔ اور بیس آدمیوں کو گرفتار کر لایا۔ جب دیگر خوارج نے
 یہ بات سنی تو وہ ڈر گئے۔ مسترد کو فہ سے نکل کر حیرہ چلا گیا اور وہاں سے
 اپنے آدمیوں کے ذریعہ کوفہ کے خوارج کو خضیہ پیغام بھیجا کہ وہ لڑائی کی
 تیاریاں برابر جاری رکھیں اور موقع ملنے پر کوفہ سے نکل کر اس کے پاس
 پہنچ جائیں۔ چنانچہ خوارج نے ایسا ہی کیا اور اکادکا شہر سے نکل کر مسترد
 کے پاس جانے لگے۔ جب حضرت مغیرہؓ کو ان کی ان کاروائیوں کا پتہ
 چلا تو انہوں نے تمام قبائل کے رؤسا کو جمع کر کے ایک خطبہ پڑھا۔ جس میں
 انہیں دھمکی دی کہ ”اگر کوفہ کے کسی قبیلہ کے ایک شخص نے بھی خوارجیوں
 کا ساتھ دیا تو اس کی پاداش میں اس کے سردار کو تلوار کے گھاٹ امار
 دیا جائے گا اور قبیلہ کو بالکل برباد کر دیا جائے گا۔ تاکہ وہ دوسرے قبائل
 کے لئے عبرت کا موجب ہو۔“

تمام رؤسا اس دھمکی میں آگئے اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں
 میں جا کر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے اور اسلام کے واسطے دئے کہ وہ فتنہ سے باز
 رہیں اور جماعت سے علیحدہ نہ ہوں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے خوارج

کی مدد سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ستورو کے گرد تین سو آدمیوں سے زیادہ
 جمع نہ ہو سکے۔ وہ انہیں لے کر "صراط" کی جانب چلا اور وہاں سے "بہریر"
 کا رخ کیا۔ جب حضرت مغیرہؓ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی لوگوں کو
 لڑائی کے لئے تیار کرنا شروع کیا تین ہزار سے زیادہ آدمی لڑائی کے
 لئے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے معقل بن قیس الریاحی کو اس فوج کا سپہ سالار
 بنا کر روانہ کیا۔ اس لشکر کا خوارج سے پہلے تو "نذار" کے مقام پر مقابلہ
 ہوا۔ اس کے بعد "ولیمایا" کے مقام پر لڑائی ہوئی۔ "ولیمایا" "بہریر" کے
 علاقے میں "ساباط" کے قریب دجلہ کے کنارے پر ایک سٹی ہے۔

دوسری جنگ میں خوارج کا بالکل صفایا ہو گیا۔ اور ان کے معدودے
 چند آدمی ہی اپنی جانیں بچا کر بھاگ سکے۔

لے "صراط" بغداد کے نواح میں مدائن کے قریب ایک سٹی ہے۔

لے "نذار" واسط اور بصرہ کے درمیان واقع ہے۔

زیاد بصیرہ میں

خارج کے ان حملوں سے حضرت معاویہؓ کو پوری طرح احساس ہو گیا تھا۔ اور یہ بات آپ پر کامل طور سے عیاں ہو گئی تھی کہ اگر اس گروہ کی طرف سے ذرا بھی غفلت برتی گئی تو یہ لوگ ملک میں فتنہ و فساد پھیلانے، آپ کے خلائق لوگوں کو بھڑکانے اور انہیں آپ کے مقابل کھڑا کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں گے۔

اس خطرہ کا انسداد کرنے کے لئے حضرت معاویہؓ کو ایسے آدمیوں کی ضرورت تھی جو خارج سے اچھی طرح عہدہ برا ہو سکیں۔ اس غرض کے لئے آپ کی نظر انتخاب زیاد بن ابیہ پر پڑی اور آپ نے اسے

بصرہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کیونکہ فساد کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے اور فتنہ کو
ابتدار ہی میں کچل دینے کا کام اُس وقت زیادہ سے بہتر اور کوئی شخص
سرا انجام نہ دے سکتا تھا۔

زیادہ حضرت علیؑ ابن ابی طالب کے حامیوں اور حضرت معاویہؓ
کے مخالفوں میں سے تھا۔ وہ حضرت علیؑ کی جانب سے ولایت فارس
کا عامل تھا اور آپ کی شہادت کے بعد بھی بدستور فارس پر قابض رہا۔
حضرت معاویہؓ نے اُسے اپنے ساتھ لانے کے لئے حضرت مغیرہ بن شعبہ
کو اس کے پاس بھیجا۔ مغیرہؓ نے اسے سمجھا بھجا کہ حضرت معاویہؓ کی اطاعت
قبول کرنے پر آمادہ کر لیا۔ زیاد جیسے شدید مخالف کو رام کر کے اُسے
حضرت معاویہؓ کی اطاعت قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا حضرت مغیرہؓ کا
بہت بڑا کارنامہ ہے جو آپ نے حضرت معاویہؓ کے لئے سرا انجام دیا۔
زیاد بڑا اللوالعزم اور نہایت بہادر شخص تھا۔ اگر حضرت مغیرہؓ بن شعبہ اپنی
مخصوص تدابیر کے ذریعے اُسے مطیع کرنے کا کام اپنے ذمہ نہ لیتے تو حضرت
معاویہؓ کے لئے یہ مشکل تھا کہ سخت خوزیری کے بغیر وہ اسے مطیع کر سکتے
پاس پر فتح پاسکتے۔

بعض روایات کے بموجب زیادہ ہجرت کے پہلے سال عمارت بن کلاہ
 نقضی کی ایک ٹونڈی سمیٹ کے لطن سے پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام
 معلوم نہیں۔ ابھی یہ شباب کو بھی نہ پہنچا تھا کہ اس میں وہ خصائل ظاہر
 ہونے لگے۔ جن کے لئے قیدیہ لقیف مشہور تھا۔ ذکاوت، فطانت، زور
 اندیشی، ہوشیاری، سمجھی اور تندہی، یہ وہ صفات تھیں جو زیادہ میں بدرجہ
 اتم پائی جاتی تھیں۔

حضرت عمر فاروقؓ نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو بصرہ کا
 والی مقرر فرمایا تو زیادہ کو آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ قلیل عرصہ
 ہی میں اس کے جوہر کھلنے لگے۔ اس کی ذکاوت و فطانت اور سیاسی
 قابلیت کو دیکھ کر حضرت عمرؓ بھی متعجب ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اپنے ایام
 خلافت میں آپ زیادہ کی اس غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے اس پر بہت
 مہربان رہے اور اس سے مختلف سیاسی امور میں مدد لیتے رہے۔

حضرت فاروقِ اعظمؓ کے بعد حضرت علیؓ نے بھی اپنے ایام خلا
 فت میں فتنہ و فساد فرو کرنے کے لئے اس کی خدمات سے فائدہ اٹھایا۔ اس
 نے بھی ہمیشہ آپ کی توقع کے عین مطابق کام کیا اور بڑی وفاداری کے

ساتھ آپ کی خدمت کرتا رہا۔ تا آنکہ آپ ابن مہجم کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔
 حضرت علیؑ کے بعد حضرت معاویہؓ نے اس جوہر قابل کو اپنی طرف
 مائل کرنا چاہا۔ اس غرض کے لئے آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اس کے
 پاس روانہ کیا اور ان کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ اگر وہ ان کی اطاعت قبول
 کرے گا تو اسے کامل طور پر امان دے دی جائے گی۔ اس وعدہ کا زیاد
 کے دل پر خاطر خواہ اثر ہوا اور فارس کا خراج لے کر۔ جس کی مقدار
 لاکھوں دینار تک پہنچتی تھی۔ حضرت معاویہؓ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔
 حضرت معاویہؓ اس کی شدت و سختی اور اندیشی اور انتظامی قابلیت
 سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی ان خدا داد قابلیتوں سے فائدہ
 اٹھانا چاہتے تھے۔ اس لئے آپ نے اسے مزید خوش کرنے کا ایک
 اور طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ تھا کہ حضرت معاویہؓ کے والد ابو سفیانؓ نے
 اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے زمانہ کفر میں
 جاہلیت کی طرز پر سمیٹے سے تعلق پیدا کیا تھا جس کے نتیجے میں زیاد پیدا ہوا
 تھا۔ حضرت معاویہؓ نے بعض مسلمانوں سے یہ شہادت لے کر کہ ابو سفیان
 نے ان کے سامنے زیاد کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ اسے اپنے نسب کے ساتھ

شامل کر کے اپنا سوتیلا بھائی تسلیم کر لیا۔

کچھ عرصہ کے بعد آپ نے اسے بصرہ، خراسان اور سجستان کا حاکم مقرر کر کے بھیج دیا اور بعد ازاں ہند، بحرین اور عمان کو بھی اس کی ولایت میں شامل کر دیا۔

اس زمانہ میں عراق کا علاقہ فتنوں کا مرکز بنا ہوا تھا اور خراج سنے جا بجا بغاوت کر کے ملک کے خرمین امن کو چنگاری دکھا دی تھی۔ ان حالات میں اگر حضرت معاویہؓ کو کامیابی نصیب ہوتی اور ان کا غلبہ و اقتدار مضبوط ہو گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے والیوں کے انتخاب میں انتہائی ہوشیاری، عقل مندی اور دوراندیشی کا ثبوت دیا۔ آپ کو خوش قسمتی سے تین ایسے والی میسر آ گئے تھے جو اپنے وقت کے بہترین حاکم اور سیاستدان تھے۔ انہوں نے اپنی حیرت انگیز قابلیتوں اور خرد اور صلاحیتوں کے باعث حضرت معاویہؓ کی سلطنت کو حد درجہ استحکام بخشا اور آپ کے خلاف تمام بغاوتیں اور تمام فتنے ان والیوں کے تدبیر کی بدولت ختم ہو گئے۔ ہم اس جگہ ان والیوں کے اخلاق و عادات اور ان کے اس سلوک

سے بحث نہیں کر رہے جو انہوں نے اپنی سیاست اور اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر باشندگان ملک سے روار کیا بلکہ صرف اُن کی اس اعلیٰ انتظامی قابلیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس سے کام لے کر انہوں نے ملک میں امن و امان قائم کیا اور فتنوں کو اس طرح دبا دیا کہ حضرت معاویہؓ کی بقیہ زندگی میں انہیں سر اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔

عراق کے زمانہ ولایت میں زیادہ کے عادات و خصائص کو پوری طرح ابھرنے کا موقع ملا۔ پروانہ ولایت ملنے کے ساتھ ہی اُس نے وہاں کے باشندوں پر انتہائی سختی کرنی شروع کی اور اس وقت تک وہم نہ لیا جب تک عراق کا کونہ کونہ حضرت معاویہؓ کا مطیع و فرمانبردار نہ ہو گیا۔ باغیوں کے کس بل نکالنے اور مفسدین کی گونہالی کرنے کے لئے اس کے دماغ میں جو طریقہ بھی آیا اُسے اختیار کرنے میں اُس نے مطلق تامل نہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عراق میں بہت جلد امن کا دور دورہ ہو گیا۔ اور وہ حصہ ملک جس میں ایک عرصہ سے بد نظمی اور ابتری پھیلی ہوئی تھی پورے طور پر ایک نظام میں غسلک ہو گیا۔

جس وقت زیادہ حضرت معاویہؓ سے پروانہ ولایت لے کر ابھرے

پہنچا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ شہر کی جامع مسجد میں ایک نہایت
 سخت خطبہ دیا جسے تاریخوں میں خطبۃ البترام کے نام سے یاد کیا
 جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی ابتداء اس سے پہلے تمام دوسرے خطبوں کی
 طرح حمد و ثنا سے نہیں کی گئی تھی۔ یہ خطبہ سن کر باشندگان شہر کے دل
 دہل گئے اور وہ حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے
 لگے۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ وہ باتیں جو زیاد نے اپنے خطبہ میں
 بیان کی ہیں وقوع پذیر بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن واقعات نے ثابت
 کر دیا کہ زیاد نے انتہائی سنجیدگی سے یہ باتیں کہی تھیں حسالی
 دھمکیاں نہیں دی تھیں۔

حضرت معاذ بن جبل کے مقرر کردہ ایک اردو والی حضرت عمرو بن
 العاص تھے۔ ان کے سپرد مصر کی ولایت ہوئی اور وہ اپنی وفات
 تک اس عہدہ پر فائز رہے۔ حضرت عمرو بن العاص معمولی شخص

تھے حضرت عمرو بن العاص تتر برس کی عمر پا کر ۶۹۳ھ میں فوت ہوئے۔

نہ تھے۔ آپ کی ذکاوت اور عقلمندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 سلم تک متاثر تھے۔ اور حضورؐ نے اپنی حیات میں ان سے کئی اہم
 کام لئے تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا
 پر انہیں مصر روانہ فرمایا تھا۔ جہاں پہنچ کر آپ نے تلیل ترین لشکر کے
 باوجود تمام مصر فتح کر لیا۔

حضرت معاویہؓ کی سلطنت کے استحکام میں بھی حضرت عمروؓ
 بن العاص کا بڑا ہاتھ تھا۔ اگر معرکہ صفین میں آپ حضرت معاویہؓ
 کے ساتھ نہ ہوتے اور اپنے اہم سیاسی مشوروں سے انہیں نہ نوازتے
 تو شامی لشکر کی شکست اور حضرت معاویہؓ کی تباہی میں کوئی شبہ
 نہ تھا۔

حضرت مغیرہؓ بن شعبہ حاکم کوفہ بھی اپنی عقلمندی، فراست
 اور حیرت انگیز سیاسی تدابیر اختیار کرنے میں اپنی مثال آپ تھے
 تاہم سختی اور رعب و داب میں زیادہ ان دونوں سے بڑھا ہوا تھا۔
 حق یہ ہے کہ امویوں کے عہد میں زیادہ جیسی اہم شخصیتیں بہت ہی
 کم ملیں گی۔

جس طرح حضرت معاویہؓ کو منگیرہ اور زیادہ جیسے والی مل گئے
تھے اسی طرح عبدالملک بن مروان کو حجاج جیسا شخص ہاتھ آ گیا تھا
یہ عجیب بات ہے کہ یہ تینوں اشخاص ظالمت کے رہنے والے تھے
اس امر کی موجودگی میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ شہر بلند پایہ شخصیتوں اور
مملکت اسلامیہ کا نظم و نسق چلانے والے حاکموں کا مولد ہے تو اس
میں قطعاً مبالغہ نہیں۔

خطبہ زیاد

زیاد ذی الحج الاول ۱۲۶۵ھ میں بصرہ روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس
 نے جامع مسجد میں لوگوں کے اجتماع کا حکم دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے
 تو منبر پر چڑھ کر مندرجہ ذیل خطبہ دیا:

”خدا تعالیٰ نے اپنے افضال و انعامات اور احسانات کی جو بارش
 نازل فرمائی ہے ہم پر اس کا شکر واجب ہے اور ہم اس کے مزید انعامات
 کے طالب ہیں۔ اے اللہ! جہاں تو نے ہمیں انعامات سے نوازا وہاں
 ہمیں یہ بھی توفیق بخش کہ ہم تیرے احسانات کا کما حقہ شکر یہ ادا کر سکیں
 ابا بعد۔ یاد رکھو کہ سخت جہالت اور تاریک گمراہی نے تم سب لوگوں

کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس جہالت اور گمراہی سے نہ کوئی نادان
 بچا ہے نہ دانا۔ نہ کسی چھوٹے نے اس سے کنارہ کشی کی ہے نہ بڑے نے
 بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز
 پر توجہ دی ہے اور نہ کتاب اللہ کو کھول کر دیکھا ہے۔ نہ تمہیں یہ پتہ ہے
 کہ خدا تعالیٰ نے مطیع و فرمانبردار لوگوں کے لئے جنت میں کن کن نعمتوں
 کا وعدہ فرمایا ہے اور نہ تمہیں یہ علم ہے کہ نافرمانوں اور سرکشوں کے
 لئے جہنم میں کس قدر شدید عذاب تیار ہے۔ دنیا نے تمہاری آنکھوں پر
 پردہ ڈال دیا ہے۔ اور نفسانی خواہشات نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی
 ہے تم حیاتِ اخروی سے۔ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بالکل
 غافل ہو گئے ہو اور دنیا کی عارضی زندگی کو۔ جو بہت جلد ختم ہو جائے
 والی ہے۔ تم نے اختیار کر لیا ہے تمہیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ تم
 اسلام میں بدعتوں کی تردید و اشاعت کا باعث بن رہے ہو کیونکہ
 پرہیزگاروں کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، لیکن تم ان کی مدد کے لئے نہیں
 اٹھتے، ضعیف عورتوں کا مال دن دھاڑے لوٹ لیا جاتا ہے، لیکن تمہارا
 غیرت ذرا بھی جوش میں نہیں آتی۔ کیا تم میں سے ایک بھی ایسا مرد میدان

نہیں جو رات کے اندھیروں میں چوروں کو لقب زنی سے اور دن کے اجالوں
 میں ڈاکوؤں کو غارت گری سے روکے؟ اس کے برعکس تمہاری تمام ہمدردیاں
 اسی قماش کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور جب کبھی ان پر کوئی مصیبت
 پڑتی ہے تو تم ان کی مدد کے لئے بے تاب ہو جاتے ہو۔ یہ تمہیں اپنی نسبت
 کا خیال ہے اور نہ اپنی معاد کی فکر۔ عقل اور سمجھ تم سے کوسوں دور ہو چکی ہے
 اور نالائقوں اور نااہلوں کی صحبت تمہیں عزیز ہے۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور
 کھانا پینا ان ہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ جس کے نتیجے میں تم نے اسلام کے
 احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

یہ صورت حال دیکھ کر میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جب تک اس کا سہنی
 کے ساتھ انسداد نہ کر لوں اور جاہلیت کے زمانہ کی استوار کی ہوئی عمارتوں
 کو ڈھا کر اور انہیں آگ لگا کر زمین کے برابر کر دوں اس وقت تک مجھ
 پر خوابنا و خور حرام ہے۔

بجز بے سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جب تک بنیاد کو مضبوط
 نہ کیا جائے اس وقت تک عمارت کو درست کرنا بالکل بے کار ہے۔ اس
 لئے میں خدائے عزوجل کی قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم نے اپنی اصلاح

نہ کی تو پھر میں غلام کی بجائے اقا کو، مسافر کی جگہ مقیم کو، نافرمان کی
 جگہ فرمانبردار کو اور بیمار کی جگہ تندرست کو پکڑ کر سزا دوں گا اور یہاں تک
 سختی برتوں گا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ملے گا تو وہ
 کہے گا: "اے سعد! اپنے بچاؤ کا سامان کر لو کیونکہ سعید ہلاک ہو گیا۔"
 میری ان باتوں کو خالی دھمکیاں نہ سمجھو۔ میں عملی طور پر یہ سب باتیں کہے
 دکھا دوں گا۔ اگر میری یہ باتیں جھوٹ ثابت ہوتیں تو تم پر میری اطاعت
 واجب نہیں۔ جس شخص کے گھر میں رات کو نقب زنی ہوگی۔ میں اس شخص
 کے مال کی ادائیگی کا ضامن ہوں۔ خبردار! تم میں سے رات کو کوئی شخص
 باہر نہ نکلے۔ جو شخص رات کے وقت باہر پھرتا پایا جائے گا وہ فوراً موت
 کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ میں ان احکامات کو جاری کرنے کے لئے
 تمہیں صرف اتنے عرصہ کی مہلت دیتا ہوں جتنے عرصہ میں ایک شخص یہاں
 سے کوڑہ تک جائے اور پھر لوٹ آئے۔

جاہلیت کی باتیں کسی شخص کی زبان سے نکلنے نہ پائیں۔ جو شخص
 ایسی باتیں اپنے منہ سے نکالے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی تم
 نت نئے جرائم کے مرتکب ہو رہے ہو اس لئے ہم نے بھی ان جرائم

کیلئے نئی نئی سزائیں تجویز کر لی ہیں۔ جو شخص کسی شخص کو ڈوبائے گا ہم بھی اسے
 عرق کر دیں گے۔ جو شخص کسی کو جلانے گا۔ ہم بھی اسے جلا دیں
 گے۔ جو شخص کسی کے گھر میں نقب لگائے گا ہم اس کے دل کو چھید
 ڈالیں گے۔ جو شخص کسی کی قبر کھودے گا ہم اسے اسی قبر میں زندہ دفن
 کر دیں گے۔ تم اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو مجھ سے روک لو۔ میں اپنے ہاتھوں
 اور زبان کو تم سے روک لوں گا۔ اگر کسی جانب سے میری مخالفت ہوئی
 تو میں مخالفت کرنے والے کی گردن اڑا دوں گا۔ قبل ازیں میرے اور بعض
 لوگوں کے درمیان دشمنی تھی۔ لیکن اس دشمنی کو میں نے اپنے قدموں کے
 نیچے دفن کر دیا ہے۔ تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہئے۔ نیکی کرنے والے کو
 نیکی میں اور بڑھنا چاہئے اور برائی کرنے والے کو برائی سے باز آ جانا چاہئے
 اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میری دشمنی کی وجہ سے کوئی شخص سل میں مبتلا ہو گیا
 ہے تو میں اس کی پردہ دری نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ اس کا تمام اندر
 میرے سامنے بالکل عیاں ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص دشمنی سے باز نہ آیا
 تو میں اس سے مناظرہ اور بحث و مباحثہ نہ کروں گا۔ بلکہ بلا تامل اسے قتل
 کر ڈالوں گا۔ اس لئے تم اپنے طور طریقے درست کرو اور نیکی اختیار کر کے

اپنے اوپر رحم کرو۔ کئی لوگ ہیں جو ہمارے آنے سے غمگین ہیں۔ لیکن وہ
 بالآخر خوش ہو جائیں گے۔ اور کئی لوگ ہیں جو ہمارے آنے سے خوش ہیں
 لیکن ایک دن انہیں غمگین ہونا پڑے گا۔

اے لوگو! تمہارا سرواڑا مقرر کیا گیا ہے اور تمہاری حفاظت کی
 گراں بار ذمہ داری ہمارے سر پر ڈال دی گئی ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کے
 عطا کئے ہوئے غلبہ سے تم پر حکومت کریں گے اور خدا تعالیٰ کی مدد کے
 ذریعہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ تم پر ہماری اطاعت و فرمانبرداری لازم
 ہے اور ہم پر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنی فرض ہے۔ پس تم
 خیر خواہی کے ذریعہ ہمارے عدل و انصاف کے مستحق بن جاؤ۔ اور اچھی طرح
 یاد رکھو کہ میں اور باتوں میں خواہ کوتاہی کروں مگر تین باتوں میں کبھی کوتاہی
 نہ کروں گا۔

اول۔ کسی فریادی کو اپنے پاس آنے سے نہ روکو گا خواہ وہ رات
 ہی کو کیوں نہ آئے۔

دوم۔ کسی کی روزی پر ہاتھ نہ ڈالوں گا۔
 سوم۔ تمہیں ڈرانے کے لئے فوج اکٹھی نہ کروں گا۔

تم اپنے حاکموں کے لئے خیر کی دعا مانگو۔ کیونکہ وہ تمہارے سردار
 ہیں جو تمہیں ادب سکھاتے ہیں۔ وہ تمہاری پناہ گاہ ہیں جن کے سایہ عافیت
 میں تم مشکلات کے وقت پناہ لیتے ہو۔ اگر تم درست رہو گے تو وہ بھی درست
 رہیں گے۔ اگر تم ٹیڑھے ہو جاؤ گے تو وہ بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ لہذا
 تم اپنے دلوں میں ان کے بغض و عناد کو جگہ نہ دو۔ تم ان سے بغض رکھو گے
 تو ان کے خلاف تمہارا غمیطہ و غضب شدت اختیار کر جائے گا۔ اور تمہارے
 غم و حزن میں زیادتی ہو جائے گی۔ تم ان سے اپنی حاجتیں پوری نہ کروا
 سکو گے۔ بالفرض اگر تمہاری درخواستیں قبول ہو بھی گئیں۔ تب بھی تم
 کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکو گے۔ بلکہ ان کا نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ میں خدا
 تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کی مدد فرمائے۔

جب میں کسی حکم کا نفاذ کروں تو اس کی تعمیل میں ذرا بھی توقف
 نہ ہونے پائے۔ میں کسی قسم کی چون و چرا برداشت نہ کروں گا۔ میں ہمیں
 بنائے دیتا ہوں کہ تم میں سے کسی آدمی میرے ہاتھ سے پھرنے والے
 میں۔ پس ہر شخص اپنے آپ کو میرے ہاتھ سے پھرنے سے بچائے۔“

اس خطبہ سے۔ جس کا شمار عربی کے فصیح ترین تاریخی خطبوں میں ہوتا ہے۔ زیاد کی شخصیت اہل بصرہ کے سامنے ایک خوفناک اور مہیب شکل میں ظاہر ہوئی۔ وہ ان سزاؤں کا، جو زیاد نے اپنے خطبہ میں ان کے لئے تجویز کی تھیں، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، بعض لوگوں نے اسے خالی دھمکیوں پر محمول کیا۔ کیونکہ یہ بات ان کے ذہنوں میں کسی طرح بھی نہیں آسکتی تھی کہ مجرم کے بدلے بے گناہ، بد کی بجائے نیک اور مسافر کی جگہ مقیم پکڑ لیا جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت ایک خارجی ابو بلال مرواس بن اذیہ کھڑا ہوا اور زیاد سے کہنے لگا:

”تم نے اس وقت جو باتیں کہی ہیں وہ کلام اللہ کے

بالکل برخلاف ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الاتذرة وازرة

وزر اخری، وان لیس للانسان الا ما سعی وکوئی

شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کو

اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی ہوگی) لیکن تم کہتے

ہو کہ گناہ کا بوجھ بے گناہ کو اٹھانا پڑے گا۔“

زیاد نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا۔

”معلوم ہوتا ہے تم لوگ اس وقت تک بازنہ آؤ گے

جب تک اچھی طرح خونریزی نہ ہوے گی۔“

یہ کہہ کر وہ منبر سے اتر آیا۔ اس نے عبداللہ بن حسن کو شہد کا
کو تو ال مقرر کیا اور ان احکام کے نفاذ کے لئے لوگوں کو صرف اتنے عرصہ
کی مہلت دی جتنے عرصہ میں کوئی شخص کو نہ جائے اور وہاں سے واپس
آجائے۔

زیادہ عشا کی نماز تاخیر سے پڑھتا اور نماز کے بعد ایک شخص کو حکم دیتا
کہ وہ سورۃ بقرہ یا اسی کے برابر قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھے۔ جب
قاری تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہو جاتا تو اتنا توقف کرتا کہ ایک شخص
مسجد سے بصرہ کے آخری حصہ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد وہ کو تو ال کو
شہر کا گشت لگانے کا حکم دیتا اور تاکید کرتا کہ وہ جس آدمی کو شہر کی
گلیوں میں پھرتا دیکھے اسے گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے تاکہ
وہ قتل کر ڈالا جائے۔

ایک رات کو تو ال کو ایک بد و ملا۔ اس نے اسے زیاد کی خدمت
میں حاضر کر دیا۔ زیاد نے اس سے پوچھا:

”کیا تو نے میرا حکم نہیں سنا؟“

بدو نے قسم کھا کر کہا۔ ”مجھے امیر کے حکم کی مطلق خبر نہیں ہیں تو
بنگل میں اپنی بکریوں کا ریوڑ چارہ ہاتھا۔ جب رات ہو گئی تو بسیرا کرنے
کے لئے شہر میں داخل ہو گیا۔ اور بکریوں کو لے کر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔
مجھے پتہ نہیں کہ امیر نے کیا حکم دیا ہوا ہے۔“

زیاد نے کہا:

”مجھے تو سچا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن تیرے قتل کرنے میں امت
کا فائدہ ہے۔ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور کوئی شخص رات کو باہر نکلنے کی جرأت
نہ کر سکے۔“

یہ کہہ کر اس کی گردن مارنے کا حکم دیا اور وہ قتل کر دیا گیا۔
زیاد پہلا حاکم ہے جس نے اپنے دور حکومت میں اس قدر سختی
سے کام لیا اور حضرت معادؓ کی حکومت کو مضبوط کر دیا۔ ذرا فراسے
شبہ پر سعنت ترین سزائیں دینا اس کے لئے معمولی بات تھی۔
ان سختیوں سے لوگوں پر شدید خوف و ہراس طاری ہو گیا لیکن
اس کا ایک زبردست فائدہ یہ ہوا کہ تمام شہر میں امن و امان قائم ہو گیا

اگر کسی شخص کے ہاتھ سے سہواً کوئی چیز گر جاتی تھی تو کوئی شخص اسے اٹھانے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا مالک آتا اور اسے اٹھا کر لے جاتا۔ لوگ رات کو بلا کھٹکے اپنے مکانوں کے دروازے کھلے رکھ کر سوئے تھے۔

شہر کے لوگوں کی معاش کے لئے بھی ایسی دور رس تدابیر اختیار کیں۔ جس سے دولت کی ریل پیل اور رزق کی فراوانی ہو گئی۔ شہر کے چار ہزار لوگوں کو اس لئے پولیس میں بھرتی کر لیا بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ شہر کے اس قدر لوگوں کو پولیس کے محکمہ میں بھرتی کرنا خطرے سے خالی نہیں تو اس نے جواب دیا :-

» میں اُس وقت تک بیرونی لوگوں سے مرد نہ لوں گا جب تک مجھے یہاں سے لوگ میرا آتے رہیں گے۔ اگر یہ لوگ مجھ پر غلبہ حاصل کر لیں گے تو باہر کے لوگ ان سے زیادہ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔«

بصرہ کے نظم و نسق کو درست کرنے کے بعد زیادہ سے دوسرے علاقوں کی طرف توجہ کی اور بتدریج ان کی حالت کو بھی ٹھیک کر دیا۔

اس باب کو ختم کرتے ہوئے ہم زیادہ کے خطبہ کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اس نے اس میں ایک نئی پالیسی کا اعلان کیا تھا۔

زیادہ نے اپنے خطبہ کی ابتداء اہل بصرہ کے ان اعمال کی مذمت سے کی تھی جن میں بالعموم وہ اس وقت متباد تھے یعنی احکامِ الہی کی نافرمانی، فسق و فجور کی کثرت، سلطنت کے نافذ کردہ احکام سے سرتابی، بناوت ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی عادت۔

اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کے امور اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک ابتداء سے ان کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ زمی کے موقع پر زمی اور سحمتی کے موقع پر سحمتی برتنی چاہئے۔

پھر اس نے کہا کہ اہل عراق نے نئے نئے جرائم ایجاد کر لئے ہیں اس لئے ان جرائم کے لئے سزائیں بھی نئی نئی دی جائیں گی۔ اگرچہ وہ ہم مسلمانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود اور سزاؤں سے ہی کیوں نہ تجاوز کر جائیں۔ جو شخص کسی کو غرق کرے گا۔ اُسے غرق کر دیا جائے گا۔ جو کسی کو جلائے گا اُسے جلا دیا جائے گا۔ جو کسی کے گھر میں نقب لگائے گا اُس کے دل میں شگاف ویدیا جائے گا۔ جو کسی کی قبر

کھودے گا اُسے اسی قبر میں زندہ دفن کر دیا جائے گا۔

اسی خطبہ میں اُس نے رات کو باہر نکلنے والے کے لئے قتل اور عیالیت کی عداوتیں بلند کرنے والے کے لئے زبان کاٹ دینے کی سزاؤں کا اعلان کیا۔ رات کو باہر نکلنے کی ممانعت اس لئے کی کہ چوری اور لقب زنی کی ارتدائیں ہوں۔ پھر اس دشمنی عداوت اور مخالفت کا ذکر کیا۔ جو اس کے اور لوگوں کے درمیان تھی اور انہیں حکم دیا کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔

پھر اُس نے سلطنت پر نبوا مبیہ کا حق ثابت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو چاہئے کہ وہ بلا چون و چرا حضرت معاویہؓ کی اطاعت کریں اور ان کی طرف سے کسی کینہ کو دل میں جگہ نہ دیں۔ یہ ان کے لئے اس ظاہری اطاعت سے زیادہ سود مند ثابت ہوگا جو دل سے نہ کی جائے۔

یہ خطبہ اگرچہ دوسرے عام خطبوں جیسا نہیں تھا، مگر اس سے زیادہ کی ذکاوت و فطانت، طاقت و جبروت اور رعب و داب کا ضرور اندازہ ہوتا ہے۔

زیادہ کی حکمتِ عملی اور اس کا نظم و نسق

زیادہ نے عراق میں ایک نہایت سخت گیر حاکم کے طور پر حکومت کرنی شروع کی۔ جہاں وہ خیال کرتا کہ وہ لوگوں سے زمی اختیار کرنے پر قنہ اور زیادہ بھڑکے گا اور رعایا کے ساتھ بہ شفقت پیش آنے سے وہ اور زیادہ نڈر اور بے خوف ہو جائے گی تو ایسے موقع پر زمی اور شفقت اس کے پاس بھی نہ پھٹکتی تھی۔ اور اس کے احتساب کا ڈنڈا بڑی بے دردی سے لوگوں کے سروں پر گردش کرنے لگتا تھا۔ جس سے اونٹا و اعلیٰ کوئی بھی نہ بچ سکتا تھا۔

تاہم اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس کی سرشت میں زمی عنصر اور

درگزر کی صفات حسدہ سر اسر مغفود تھیں۔ ایسا نہیں بلکہ وہ پڑا من شریوں
 سے بالعموم بڑی نرمی اور مہربانی کا سلوک کرتا تھا۔ اس کی سختی و درستی
 صرف حکومت کے باغیوں اور مفسدہ پرواڈ لوگوں کے لئے تھی۔ چنانچہ جس
 وقت وہ حاکم مقرر ہو کر بصرہ میں آیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اگر لوگوں
 نے اپنی عادات و خصائل کی اصلاح کر لی اور بغاوت و سرکشی پر کمر بندھی
 تو وہ ان تمام معاندانہ کارروائیوں کو نظر انداز کر دے گا جو عراق کے لوگوں
 کی طرف سے حکومت اور خود اس کے خلاف ایام گذشتہ میں کی گئی تھیں
 اس نے کہا کہ وہ اپنی حکومت کی ابتداء ایک ایسے پرسکون مگر شاندار و
 سے کرنا چاہتا ہے جس میں ہمدردی کے ساتھ لوگوں کی تکالیف دور کی
 جاسکیں اور ان کی فریادوں کو بغور سنا جاسکے تاکہ سلطنت کو آسے دن
 کی بغاوتوں سے نجات مل جاسے۔ ابو العباس مبرور مؤلف کتاب "الکامل"
 زیاد کی اس صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"زیاد کی ایک عجیب عادت یہ تھی کہ وہ علی الاعلان مخالفت کرنے
 والوں کو توجہ و قتل کر دیتا تھا۔ لیکن جو شخص درپردہ اور خفیہ طور پر مخالفت
 کرتا تھا اس سے صحتی الامکان چشم پوشی برتا تھا۔ اور کوشش کرتا تھا کہ

کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس کی تلواریں صرف کھلم کھلا بغاوت کرنے والوں پر چلتی تھی۔“

ایک دن اس نے ایک ایسے آدمی کو بلوایا۔ جس کے عقائد خارجیوں جیسے تھے۔ جب وہ شخص اس کے پاس پہنچا تو زیاد نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ زماں بعد حضرت صدیق اکبرؓ، فاروق اعظمؓ اور عثمان غنیؓ کی تعریف کی۔ اس کے بعد کہا کہ ”اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمارے پاس آنا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اور ہم سے بے تعلقی اختیار کر لی ہے۔ ہمیں اس بات کا بہت افسوس اور رنج ہے۔“

خارجی سمجھ گیا کہ زیاد مجھے سزا دینا چاہتا ہے۔ اس نے فوراً جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کی تعریف کی۔ لیکن حضرت عثمانؓ کا ذکر نہ کیا۔ پھر زیاد سے کہنے لگا۔ ”آپ کو اپنے قول و قرار کا پابند رہنا چاہئے۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو شخص اعلانیہ ہمارے مقابلہ کے لئے کھڑا نہ ہوگا ہم اس سے باز پرس نہیں کریں گے۔“

زیادنے اُسے کچھ نہ کہا بلکہ انعام اور خلعت دینے کا حکم دیا۔
 ایک مرتبہ اُس نے چند لوگوں کو، جن کے متعلق اُسے معلوم تھا کہ
 وہ اس کے مخالف ہیں اور اس کی سیاست پر نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں
 بلایا اور کہنے لگا۔

”معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ میرے پاس اس لئے نہیں آتے کہ تمہارے
 پاس سواریوں کا کوئی انتظام نہیں۔“
 انہوں نے جواب دیا۔

”جی ہاں یہی بات ہے۔“

زیادنے ان کے لئے اعلیٰ درجہ کی سواریوں کا انتظام کر دیا
 اور کہا۔

”اب تم میرے پاس آیا کرو اور رات میرے پاس گزارا کرو تاکہ
 ہماری راتیں شعر و شاعری اور مختلف تقریبات میں دلچسپی کے ساتھ
 بسر ہوں۔“

زیادوراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اب ان لوگوں کے ارادے
 اس کے متعلق کیا ہیں۔ چونکہ بالمشافہ گفتگو سے کچھ معلوم نہ ہو سکتا تھا۔

اس لئے اپنے مقصد کے حصول کے لئے اس نے یہ چال چلی کہ چونکہ انسان کا خاصہ ہے کہ پرائیویٹ محفلوں میں بلا ارادہ اس کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں۔ جو اس کے اصلی مقصد کی غمازی کرتی ہیں۔ زیادہ نے انہیں پرائیویٹ مجلسوں میں شمولیت کی دعوت اسی لئے دی کہ اس ذریعہ سے وہ ان کے خفیہ ارادوں کا ہوشیاری سے پتہ چلا سکے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز زیاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے :-
 ”زیاد نے اہل عراق کے لئے اس طرح مال جمع کیا جس طرح چوڑی اپنا آزدوقہ جمع کرتی ہے۔ اور ان کی اس طرح نگہداشت کی جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ اہل شام کے ذریعہ اس نے اہل عراق کی اصلاح کی لیکن پھر اہل شام کو شام ہی میں چھوڑ دیا عراق میں نہ رکھا اور عراق کی آمدنی گیارہ کروڑ اسی لاکھ تک بڑھادی۔“

زیاد و جیب کسی شخص کو کسی جگہ کا حاکم بناتا تو اس کی روانگی سے پہلے اس سے کہتا:

”مجھ سے اقرار کرو کہ تم نے حکومت کی فرمانبرداری کرے

کا جو عہد کیا ہے اس پر پوری طرح کما بند رہو گے۔ تمہارے
 سپرد امانت کی امانت کی گئی ہے۔ اگر تم نے اس امانت
 کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیا تو تمہاری کمزوری کی وجہ
 سے تمہیں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور تمہارے سپرد کی ہوئی
 امانت تم سے واپس لے لی جائے گی۔ لیکن اگر کوتاہی سے
 بھی بڑھ کر تم اس امانت میں خیانت کے مرتکب ہوئے
 تو صرف امانت ہی تم سے واپس نہیں لی جائے گی۔ بلکہ
 تمہیں قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی۔ ہاں اگر تم نے اپنی
 امانت کا حق ادا کر دیا اور تمہاری طرف سے کسی قسم کی کوتاہی
 اور خیانت کا ارتکاب نہ ہوا تو ہم تمہارے عہدے میں ترقی
 تمہاری قدر و منزلت میں اضافہ اور تمہارے مال و دولت
 میں زیادتی کریں گے۔ نیز تمہاری حکومت کا دائرہ وسیع کر کے
 بہت زیادہ لوگوں کو تمہارا مطیع و فرمانبردار بنا دیں گے۔
 زیادہ کہا کرتا تھا۔

”تین قسم کے آدمیوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی سے

پیش آنا چاہئے

۱۔ معزز اور شریف آدمی سے

۲۔ عالم سے اور

۳۔ بڑھے سے

اگر کسی بڑھے شخص کو نوجوان سے، عالم کو جاہل سے

اور معزز شخص کو کسی کمینہ آدمی سے شکایت ہوگی، تو میں

مؤخر الذکر اشخاص کو ضرور سزا دوں گا۔“

ایک دفعہ اُس نے اپنے دربان سے پوچھا کہ ”تم لوگوں کو کس ترتیب

سے میرے پاس آنے کی اجازت دیتے ہو؟“

اُس نے جواب دیا:-

”سب سے پہلے میں آپ کے خاندان کے افراد کو اجازت دیتا

ہوں۔ پھر شریف النسب اور ذی عزت افراد کو باریابی کا موقع دیتا

ہوں۔“

اس نے پھر پوچھا کہ کن لوگوں کو باریابی میں مؤخر رکھتے ہو؟ دربان

نے جواب دیا:-

”ان لوگوں کو جن کی اللہ تعالیٰ بھی پر دانا نہیں کرتا۔“

زیاد نے حیران ہو کر پوچھا۔ ”وہ کون لوگ ہیں؟“

دربان نے جواب دیا۔ ”اس زمرہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو گرمی

کے ایام میں جھاڑے کا لباس پہنتے ہیں اور جھاڑے کے وزن میں گرمی کے کپڑے استعمال کرتے ہیں۔“

زیاد نے کہا۔

”تم جو کچھ کرتے ہو بالکل درست کرتے ہو۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ چار قسم

کے لوگوں کو کبھی محل میں آنے سے نہ روکنا۔

اول وہ لوگ جن کا کام رات دن لوگوں کو نیکی اور کھیلانی کی تلقین

کرنا اور دین کا علم سکھانا ہے۔ ان لوگوں کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے اور

تمہارا ان پر کوئی غلبہ یا دباؤ نہیں۔

دوسرے وہ لوگ جو رات کو آئیں۔ کیونکہ رات کو جو شخص آئے گا

وہ یقیناً کوئی اہم اور بڑی خبر لے کر ہی آئے گا۔ معمولی اور خیر کی خبریں

لے کر کوئی شخص رات کو نہیں آیا کرتا۔

تیسرے سردی افسروں کے ایجنٹی۔ اگر ان کو میرے پاس پہنچنے

میں ایک گھڑی کی بھی تاخیر ہو جائے تو بعض اوقات سمحت نقصان اور تکلیف کا خطرہ ہے۔

چوتھے وہ لوگ جو کھانے کر آئیں۔ کیونکہ کھانا اگر دیر سے پہنچے گا تو خراب ہو جائے گا۔

عربی کہتے ہیں کہ زیادہ کام دستوراً عمل یہ تھا۔

”سختی کے موقع پر سختی اور نرمی کے موقع پر نرمی برتا تھا۔ جہاں نرمی سے کام چل سکتا تھا وہاں سختی سے کام نہ لیتا تھا۔ لیکن جہاں نرمی سے کام نکلنا نہ دیکھتا وہاں سختی کرنے سے کبھی دریغ نہ کرتا تھا۔ نیکی اور احسان کرنے والے کو نیکی اور احسان کا بدلہ ضرور دیتا تھا۔ مگر پرائی کرنے والے کو سزا دینے سے بھی کبھی نہ چوکتا تھا۔ ہر سال خاص خاص دنوں میں لوگوں کو عطیات و اموال سے نوازتا تھا۔ رات کو آنے والوں اور سردی افسروں یا ان کے اہلچسبوں سے ملنے میں کبھی دیر نہ لگاتا تھا۔ یہ نہ صرف اس کا اپنا دستور العمل تھا بلکہ اس نے اپنے مقرر کردہ حکام کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی سختی سے ہدایات دے رکھی تھیں۔“

زیادہ باتوں کی بجائے کام کر لے کا قائل تھا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ

یہی چیز اس کی نیک نامی کا باعث ہوگی۔ اس نے بصرہ میں رفاہ عام کے بہت سے کام کئے، نئے نئے محلے آباد کئے، مساجد بنوائیں۔ آپاشی کے لئے نہریں کھدوائیں اور پانی ذخیرہ کرنے کے لئے تالاب تعمیر کروائے لیکن یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ اس نے رفاہ عام کا جو بھی کام کیا وہ کسی اور کی طرف منسوب ہو گیا۔

زیادہ سے یہ حکمت عملی عراق میں آکر اختیار نہ کی تھی۔ بلکہ اس سے قبل وہ فارس میں بھی اس کا تجربہ کر چکا تھا۔ جس وقت اُسے فارس کا امیر بنا کر بھیجا گیا اس وقت وہ سارا علاقہ بغاوت کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا۔ لیکن یا نے اپنی دانائی و ہوشیاری سے کام لے کر آتش بغاوت کو فرو کیا اور وہاں کے باشندوں کو حکومت وقت کی اطاعت اور فرمانبرداری پر مجبور کر دیا۔ اُس نے اس غرض کے لئے فوج کا استعمال نہیں کیا اور وہاں کے باشندوں سے جنگ نہیں کی بلکہ محض اپنے تدبیر اور فرزانگی کی بدولت بغاوتوں اور سازشوں کا قلع قمع کر کے امن و سکون کی فضا پیدا کر دی۔ اہل فارس کہا

لے کتاب البلدان مؤلفہ ابن نعیم

کہتے تھے کہ

”زمی کے بوقعر پر زمی اور سختی کے بوقعر پر سختی، امور سلطنت کے انصرام میں حد درجہ انہماک اور صوبہ کے تمام سیاسی حالت پر کڑی نظر رکھنے میں ہم نے اس عربی نوجوان سے زیادہ اور کوئی شخص کسریٰ نوشیروان کا ہم مرتبہ اور ہم بلہ نہیں پایا“

جس وقت زیادہ فارس میں آیا تو سب سے پہلے اس نے وہاں کے سیاسی حالات کا بظرف غائر مطالعہ کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ اہل فارس کو اپنے ڈھب پر گانے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہاں باشندوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر ان کی متحدہ قوت کو توڑ دیا جائے۔ اس طرح ان پر نہایت آسانی سے قابو پایا جائے گا۔ چنانچہ اس نے وہاں کے تمام رؤسا اور سرداروں کو اپنے حضور میں طلب کیا جن سرداروں کے متعلق اسے یقین ہو گیا کہ انہیں آسانی سے اپنے ڈھب پر لایا جاسکتا ہے ان سے تو اس نے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس کی مدد کریں گے تو وہ بھی ان کا لحاظ و خیال رکھے گا اور انہیں ان کے دشمنوں اور مخالفوں سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن جن سرداروں کے متعلق اسے معلوم ہوا کہ ان کے

دوبوں میں مخالفت اور بغاوت کے جراثیم بدستور پرورش پا رہے ہیں نہیں اس نے شدید دھمکیاں دینی اور تارکج و عواقب سے خبردار کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اپنے سوچے ہوئے منصوبہ پر عمل کیا یعنی ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے خفیہ منصوبے اور راز بتا کر ایک دوسرے کے خلافت پر برسرِ پیکار کر دیا اور اس طرح انہیں کمزور کر کے ان کی طاقت کو زائل کر دیا تاکہ وہ آئندہ کے لئے سر اٹھانے اور بغاوت کرنے کے قابل نہ رہیں۔

جس وقت اُسے عراق بھیجا گیا اُس وقت عراق بھی آتش فشاں پہاڑ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ لیکن یہاں بھی اس نے اپنی حکمت عملی کی بدولت تمام ناموافق حالات پر قابو پا لیا اور یہاں کے باشندوں کو کامل طور پر حکومت بنو امیہ کا مطیع و فرمانبردار بنا دیا۔

زیاد ہی تھا۔ جس نے سب سے پہلے لگان وغیرہ کی تحصیل کیلئے نبرد اوردوں کا تقرر کیا اور بند و بست اراضی اور لگان کو منضبط کرنے کے لئے دفتر قائم کئے۔ جب وہ باہر نکلتا تھا تو چوہ دار اس کے آگے آگے چلتے تھے۔ اس نے اپنی حفاظت کے لئے مساجد میں مقصورے بھی تعمیر کرائے۔ وہ فوجوں کی نیاری اور فراہمی سے بھی غافل نہ تھا۔ کوثر

میں ستر ہزار اور بصرہ میں اسی ہزار فوج ہر وقت تیار
 رہتی تھی۔ وہ فوجیوں کو تنخواہیں دینے میں کبھی تاخیر نہ کرتا تھا۔ تنخواہیں
 تقسیم کرنے کا جو دن مقرر تھا اسی روز لازماً تمام تنخواہیں ادا کر دی جاتی تھیں۔

زیاد کو معلوم ہوا کہ ایک شخص ابوالخیر بہت عقلمند، باخبر اور جنگجو ہے
 لیکن وہ خارجی عقائد رکھتا ہے۔ اُسے بلایا اور چار ہزار درہم مقرر کر کے غیشا پور
 کی ولایت اس کے سپرد کر دی۔ اس ترکیب سے ابوالخیر رام ہو گیا۔ بعد میں
 وہ کہا کرتا تھا کہ "امیر کی اطاعت کرنے اور جماعت میں رہنے سے بہتر اور کوئی
 چیز نہیں ہے۔"

کافی عرصہ تک ابوالخیر ولایت کے عہدہ پر سرفراز رہا لیکن بالآخر اس
 میں اور زیادہ میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ زیاد نے اُسے قید کر دیا۔ یہاں تک کہ
 قیدی میں اُس کا انتقال ہو گیا۔

چہرہ بارعب، صورت پر ہیبت، رخسار سرخ، آنکھیں شرمیلی،
 داڑھی سفید اور محروٹی لباس معمولی اور سادہ۔ یہ تھا زیاد بن ابیہ۔

زیاد اور مغیرہ

زیاد نے بصرہ میں جس شدت اور سختی سے کام لیا اس سے نہاں
امن و امان اور طمانینت کی فضا پیدا ہو گئی۔ خوارج پر گرفت خصوصیت
سے زیادہ تھی۔ اس لئے ان کا فتنہ مکمل طور پر دبا گیا اور ان میں زیاد
کے رعب و داب کی وجہ سے سلطنت کے خلاف اٹھنے کی جرات باقی
نہ رہی۔ کوثر کا بھی یہی حال تھا۔ وہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی سیاست
اور حکمت عملی کی بدولت بہت جلد امن قائم کر دیا۔ اس طرح حضرت معاویہ
کو عراق کی طرف سے کامل اطمینان ہو گیا اور انہوں نے اپنی توجہ سلطنت
کی مضبوطی اور استحکام کی طرف مبذول کرنی شروع کی۔

زیادہ کے برعکس حضرت مغیرہ بن شعبہؓ والی کوفہ کی سیاست نرمی اور
 بردباری پر مبنی تھی۔ وہ عاقبت کوشش انسان تھے۔ جب تک خوارج
 اور شیعہ کھلم کھلا مخالفت پر نہ اتر آتے وہ ان سے تعرض نہ کرتے تھے
 اگر کوئی شخص حکومت پر تکتہ چینی بھی کرتا تھا تو خاموش رہتے تھے۔ کثر
 اوقات لوگ ان سے آکر شکایت کرتے کہ "فلاں شخص شیعہ خیالات رکھتا
 ہے" اور "فلاں شخص خارجی خیالات کا ہے" تو وہ اس کے جواب میں
 صرف یہ کہ دیتے تھے کہ "خدا تعالیٰ کی مرضی ہی یہ ہے کہ اس کے بندوں
 میں اختلاف باقی رہے۔ قیامت کے دن ہی وہ ان کے باہمی اختلافات
 کا فیصلہ فرمائے گا۔"

خوارج جب آپس میں ملتے تھے تو حکومت کے اہل کاروں کو بڑا
 بھلاکتے تھے۔ جنگ نہروان اور دیگر جنگوں میں ان کے جو لوگ قتل ہو گئے
 تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علیؓ کے علاوہ حضرت معاویہؓ پر بھی
 طعن و تیش کرتے تھے۔ لیکن حضرت مغیرہؓ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش
 رہتے تھے اور ایسے لوگوں سے مطلق تعرض نہ کرتے تھے۔ البتہ جب
 خوارج اپنی سازشوں اور سب و شتم میں حد سے بڑھ گئے اور جیسا کہ

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ انہوں نے مسلح بغاوت کے ذریعہ حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تب حضرت مغیرہ کو بھی ان کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ انہوں نے کو تو اہل شہر کو بھیج کر سازش کے بانڈیوں کو گرفتار کر لیا اور مسلح لوگوں کے مقابلہ میں لشکر روانہ کیا جس نے جاگ نہیں شکست دی اور نیند کے سرخنے مارے گئے۔ اس طرح کوفہ میں امن قائم ہو گیا اور نظم و نسق کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں۔

حضرت مغیرہ سات سال اور ایک ماہ تک حضرت معاویہ کے تحت کام کرتے رہے۔ اس تمام عرصہ میں ان کی کوشش یہی رہی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ حسن سیرت، عاقبت کو شی، صلح جوئی، ملامت اور حکمت عملی کے ذریعہ اپنا کام چلائیں۔ وہ کہا کرتے تھے۔

”میں یہ پسند نہیں کرتا کہ شہر کے لوگوں کو قتل کر کے خواہ غزاہ کی ندی اپنے سر لیں۔ وہ تو لوگوں کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں اور میں شقی اور بد بخت بن جاؤں۔ معاویہ تو دنیا میں عزت حاصل کر لیں اور مغیرہ کو قیامت کے دن ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ یقیناً میں نیک لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اور برے لوگوں سے درگزر کروں گا۔ شریف اور سلیم الطبع

لوگوں کی تعریف کروں گا اور بیوقوفوں اور نادانوں کو سمجھاؤں گا۔ یہاں تک کہ نیرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے۔ حیب انہیں دوسرے سخت حاکموں سے واسطہ پڑے گا تب وہ مجھے یاد کریں گے۔“

حضرت مغیرہؓ کی وفات ۶۶۱ھ میں ہوئی۔ جہاں تک مملکت میں امن و امان قائم کرنے کا تعلق ہے۔ اس میں زیادہ اور حضرت مغیرہؓ دونوں برابر ہیں۔ لیکن اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ حضرت مغیرہؓ نے امن و امان قائم کرنے میں بہت کم سختی اور شدت برتی اور ہمیشہ نرمی اور ملامت ہی کو کام میں لائے تو لا محالہ زیادہ کی نسبت آپ کو زیادہ مدبر اور قابل ماننا پڑے گا۔

حضرت مغیرہؓ بن شعبہ کی وفات کے بعد حضرت معاذؓ نے کوفہ کی ولایت بھی زیادہ ہی کے سپرد کر دی اس طرح وہ بصرہ اور کوفہ دونوں شہروں کا والی بن گیا۔ وہ پہلا شخص تھا جسے ان دونوں شہروں کی ولایت ایک ہی وقت میں حاصل ہوئی۔ وہ کوفہ پہنچا اور دستور کے مطابق لوگوں کو جمع کر کے جامع مسجد میں خطبہ دیا۔ مگر لوگوں نے اس پر کنکریاں پھینکی اور آواز سے

کئے شروع کئے۔ یہ دیکھ کر وہ نہایت سکون کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب کچھ
 دیر کے بعد لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اس نے اپنے خاص آدمیوں کو
 بلایا اور انہیں مسجد کے دروازوں پر متعین کر دیا۔ پھر ایک کرسی منگائی اور
 مسجد کے دروازے میں بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ چار
 چار آدمی اس دروازے سے باہر نکلیں۔ ہر ایک سے وہ قسم لیتا کہ اس
 نے کنکریاں نہیں پھینکیں۔ جو شخص قسم کھا لیتا اسے باہر جانے دیتا اور جو
 شخص قسم نہ کھاتا اسے روک لیتا۔ اس طرح تیس آدمی روکے گئے۔ زیاد
 نے ان سب کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔

اس واقعہ کے بعد اس نے مسجد میں اپنے لئے مقصودہ بنوایا۔
 شروع میں اتنی سخت سزا کا یہ نتیجہ ہوا کہ پھر کسی کو اس کے سامنے
 زبان کھولنے اور اس کے خلاف شور مچانے کی جرأت نہ ہوئی۔
 زیاد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چھ مہینے بصرہ میں رہتا اور چھ مہینے کوفہ
 میں۔

حضرت حسنؓ کی (حضرت سہادینہؓ کے حق میں) خلافت سے دستبرداری

کی وجہ سے اگرچہ اہل کوفہ کے دلوں میں شیعیت کی روح بچھ گئی تھی۔
 لیکن حضرت علیؓ اور ان کے اہل بیت کو منبروں پر برا بھلا کہنے کی جو
 رسم پڑ گئی تھی۔ اُسے دیکھ دیکھ کر شیعہوں کے دل غمگین ہوتے تھے
 وائی کوفہ حضرت مغیرہؓ کو بھی حضرت معاویہؓ کے دباؤ کے باعث منبر پر چڑھ
 کر حضرت علیؓ کی مذمت اور حضرت عثمانؓ کی تعریف کرنی پڑتی تھی۔ ایک
 دن وہ اسی طرح خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص حبر بن عدی کھڑا ہوا
 اور کہنے لگا۔

”جیسے آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں نصیحت کا وہی مستحق ہے اور جسے
 آپ پاک و صاف سمجھتے ہیں وہی مذمت کے قابل ہے؛
 حضرت مغیرہؓ نے اس کا جواب صرف یہ دیا۔

”اے حبر! تم سلطان کے غضب اور اس کی سطوت سے ڈرو کیونکہ
 کبھی سلطان کا غضب تم جیسے لوگوں کو ہلاک دیتا ہے۔“

غلہ آگے چل کر مؤلف کتاب ہذا نے ثابت کیا ہے کہ حضرت علیؓ کو برسر
 منبر برا بھلا کہنے کی رسم کے موجد حضرت معاویہؓ نہیں تھے۔ بلکہ یہ بدعت قرآن
 بن حکم کی جا رہی کہ وہ تھی۔ (مترجم)

مگر اس زبانی تنبیہ کے علاوہ انہوں نے اس کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ اور حجر حضرت مغیرہؓ کی وفات تک بنو امیہ کے خلاف سرگرم عمل رہا۔

حضرت مغیرہؓ کے بعد جب کوفہ کی ولایت زیاد بن ابیہ کے ہاتھ میں آئی تو اس نے بھی حضرت علیؓ کو برا بھلا کہنے اور حضرت عثمانؓ کی تعریف کر لے کی رسم جاری رکھی۔ حجر اور اس کے ساتھیوں کو یہ بات سخت ناگوار لگتی تھی اور وہ خفیہ مجالس منعقد کر کے حضرت معاویہؓ اور ان کے عمال پر سب و شتم کرتے اور بنو امیہ کی سیاست اور پالیسی پر تنقید اور اعتراض کیا کرتے تھے۔

جب ان اجتماعات کی خبر زیاد کو پہنچی تو وہ بصرہ سے کوفہ آیا اور منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ جس میں اس نے کہا:

باد رکھو کہ سرکشی اور بغاوت کا نتیجہ نہایت خراب ہوتا ہے تم میں سے بعض فتنہ پرداز لوگوں نے حکومت کی مخالفت پر کمر باندھی ہے اور مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ اپنی خفیہ مجالس میں بغاوت کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں پس باد رکھو کہ اگر تم سیدھے نہ ہوئے تو میرے پاس ایسے ذرائع ہیں جن

سے کام لے کر میں تمہارا کس بل نکال دوں گا۔ میرا نام زیادہ نہیں ہے
 اگر میں کو ذہ میں حجر کو رہنے دوں اور اُسے دوسرے لوگوں کے لئے
 عبرت بنا کر نہ چھوڑوں۔“

اس کے بعد زیادہ نے حجر کو بلانے کے لئے اپنا ایک آدمی بھیجا
 لیکن اُس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر زیادہ نے پولیس کے کچھ جوان
 اسے گرفتار کرنے کے لئے بھیجے جب یہ لوگ حجر کی قیام گاہ پر پہنچے تو
 اُس کے ساتھیوں اور حامیوں نے انہیں گالیاں دیں اور انہیں ناکام
 واپس آنا پڑا۔ اس پر زیادہ نے پھر اہل کو ذہ کو جمع کیا اور کہا۔

”تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک ہاتھ سے اپنا سر زخمی کرتے ہو
 اور دوسرے ہاتھ سے اس کی مرہم پٹی کرنے لگتے ہو۔ تمہارے جسم میرے
 ساتھ ہیں لیکن دل احمق حجر کے ساتھ۔ اس منافقت سے تمہاری نذر مرنی
 گندگی ظاہر ہوتی ہے۔ خدا کی قسم یا تو تم اپنے عمل کے ذریعے حکومت
 کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دو ورنہ میں ایسی تو تم پر مسلہ کر دوں گا
 جو تمہیں بالکل سیدھا کر دے گی۔“

زیادہ کی ان دھمکیوں سے اہل کو ذہ مرعوب ہو گئے اور کہنے لگے۔

معاذ اللہ! ہم آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی کر سکتے ہیں؛ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم بہر حال حکومت کے وفادار ہیں۔“
زیاد نے جواباً کہا۔

”اگر ایسا ہے تو ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو، جو حجر کے ساتھ ہیں، اس کی ہمدردی اور اعانت کرنے سے روک دے۔“
چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور حجر کے ساتھیوں کی ایک کثیر تعداد اس سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد زیاد نے کو تو ال شہر کو حکم دیا کہ۔۔
”حجر کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ اگر وہ انکار کرے تو طاقت کا استعمال کرو اور اس کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے فوراً میرے سامنے حاضر کرو۔“

چنانچہ کو تو ال گیا اور حجر کو مع اس کے ساتھیوں کے گرفتار کر کے لے آیا۔ زیاد نے انہیں قید خانہ میں ڈالنے کا حکم دیا اور حجر کے باقی ماندہ ساتھیوں کی تلاش کا حکم بھی دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو بھاگ گئے کچھ پکڑے گئے۔ گرفتار ہونے والوں کی تعداد چودہ تھی۔

اس کے بعد زیاد نے حجر کے خلاف شہادتیں جمع کرنی شروع کیں

چنانچہ بیشتر لوگوں نے آکر گراہیاں دیں کہ "حجر نے بغاوت کی تیاری کیلئے
 لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا، اس کی مجالس میں حضرت معاویہؓ کو کالیاں
 دی جاتی تھیں اور ان سے لڑنے کے لئے منصوبے بنائے جاتے تھے۔
 یہ تمام کوششیں اس لئے کی جا رہی تھیں کہ آل علیؓ کو دوبارہ سینے کا
 موقع مل سکے اور حجر کے ساتھ جو دوسرے لوگ گرفتار کئے گئے ہیں وہ
 اس کے زبردست مددگاروں میں سے تھے۔"

زیاد نے یہ تمام شہادتیں قلم بند کر کے انہیں حجر اور اس کے ساتھیوں
 کے ہمراہ حضرت معاویہؓ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ حضرت معاویہؓ انہیں لے کر
 دمشق کے قریب ایک مقام "مرج عذرا" میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر
 ان میں سے آٹھ آدمیوں کے قتل کا حکم دیا۔ باقی چھ جہنوں نے حضرت
 علیؓ سے بیزاری کا اظہار کیا چھوڑ دئے گئے۔

اس طرح عراق اور کوفہ میں شیعوں کی سرگرمیاں بالکل ختم ہو گئیں
 اس کی وجہ زیادہ تیز بھی تھی کہ شیعہ خوارج کی طرح ہتھیار نہ اٹھاتے تھے
 اور اپنے مخالفین کے مقابلہ میں مسلح بغاوت اور کھلم کھلا لڑائی سے کنارہ
 کش رہتے تھے۔

جہاں تک نظم و نسق کو خوبی کے ساتھ چلانے اور قلمرد میں امن و امان
 قائم کرنے کا سوال ہے زیادہ کی گراں قدر کوششوں میں کوئی شبہ نہیں لیکن
 امن و امان کے قیام کے لئے اس نے جو ظالمانہ طریقے استعمال کئے ان
 کی ہم کسی طرح حمایت نہیں کر سکتے۔ قتل و غارت کا جو سلسلہ اس نے شروع
 کیا تھا اس کی وجہ سے نہ صرف اس کی عزت لوگوں کی نظروں میں گر گئی بلکہ
 یہ چیز بنو امیہ کی سیاست کے لئے بھی مہلک ثابت ہوئی۔ ہر جگہ ابن زیاد
 اور بنو امیہ کے دشمن پیدا ہو گئے اور دلوں میں ان کے خلافت نفرت و خفا
 کے جذبات ابھرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب زیاد کی ولایت ختم
 ہوئی اور حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو بغاوت کے شعلے پھر ک اٹھے
 اور ہر شہر سے فتنہ و فساد سر اٹھانے لگا۔

معلوم ہوتا ہے کہ زیاد و فارس کی امارت کے زمانہ میں ایران کے
 قدیم شاہی نظام سے بہت متاثر ہوا تھا۔ چنانچہ جب اسے حضرت معاویہ
 نے بصرہ کا حاکم بنا کر بھیجا تو اس نظام کی بہت سی باتوں کو اس نے
 وہاں بھی رائج کیا۔ جب وہ شہر کی گلیوں میں چلتا تھا تو اس کے آگے پیچھے
 اس کے محافظوں کی ایک فوج ہوا کرتی تھی۔ اس کے محل کے دروازے

پہلے از کم پانچ سو مسیح سوار پہرہ دیا کرتے تھے۔

یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہؓ نے جتنے اعمال مقرر کئے زیادہ نشان و شوکت، بہادری و شجاعت اور جرات و بہت میں ان سب سے بڑھ کر تھا۔ مشرق میں اس کی حکومت ہندوستان سے لے کر خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی اور عراق کا تمام علاقہ اس کے زیرِ نگیں تھا۔ لیکن اس نے وسیع علاقے کی امارت پر بھی وہ قانع نہیں تھا۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں اس نے حضرت معاویہؓ سے درخواست کی تھی کہ اسے حجاز کا والی بھی بنا دیا جائے۔ نہ معلوم حضرت معاویہؓ کا جواب کیا ہوتا۔ لیکن زیاد کی عمر نے زیادہ دیر تک وفانہ کی اور اٹھارہ دن برس کی عمر پا کر ۵۳ھ میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

زیاد کی وفات کے بعد ۵۵ھ میں حضرت معاویہؓ نے اس کے بیٹے کو (جو ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے) اس کی جگہ عراق کا والی بنا دیا۔ اُس نے اپنے زمانہ حکومت میں خوارج پر اس قدر سختی کی جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ خوارج کی اٹھارہ بڑی بڑی جماعتوں کو اس نے موت کے

گھاٹ اتار دیا۔ خوارج کے مشہور و معروف سردار ابو بلال بن مرداس بن ادیہ
کا بھائی عروہ بن ادیہ بھی اُسی کے ہاتھ سے قتل ہوا۔

یہ واقعہ اس طرح وقوع پذیر ہوا کہ ایک مرتبہ ابن زیاد گھوڑوں پر
دیکھنے کے لئے شہر سے باہر نکلا۔ وہ بیٹھا ہوا گھوڑوں پر دیکھ رہا تھا اور کچھ
لوگ اُسی کے پاس جمع تھے۔ جن میں عروہ بن ادیہ بھی تھا۔ وہ ابن زیاد
شک کے قریب آیا اور کہنے لگا۔

”پانچ باتیں جو پہلی امتوں میں پائی جاتی ہیں ہم میں بھی پائی جاتی
ہیں۔ یہ کہہ کر اُس نے یہ آیت پڑھی۔“

اتبنون بكل ربيع آية تعبتون، وتخذون مصارع
لعلم تخلدون، واذا بطستم بطستم جبارين

(کیا تم ہر بلند و بالا مقام پر بلا ضرورت اپنی یا دیگر میں تعمیر کرتے
ہو اور اس خیال سے عظیم الشان عمل بناتے ہو کہ تم دنیا میں برسرِ اقتدار
رہو گے۔ اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو اُسے ایسی سختی سے پکڑتے
ہو جیسے نہایت ظالم اور جابر لوگ پکڑتے ہیں)

ان تین خصائل کے علاوہ دو خصلتیں اور بیان کیں جس پر ابن زیاد

نے خیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ کوئی مضبوط جماعت ہے۔ صحیح تو وہ اس قدر جرات سے اُس سے کلام کر رہا ہے۔

یہ خیال کر کے وہ فوراً گھوڑو ڈر کے میدان سے واپس چلا گیا اور عہدہ کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا۔ کچھ دن تک تو عہدہ روپوش رہا لیکن آخر ایک دن زیاد کو اس کی خفیہ رہائش گاہ کا پتہ چل ہی گیا۔ اور اُس نے فوراً رہا بھی بھیج کر گرفتار کرالیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر اس کے سامنے آیا تو اُس نے اس کے ہاتھ اور پیر کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اُس سے پوچھا۔
”اب تمہاری کیا رائے ہے؟“

عہدہ نے جواب دیا۔

”میرا خیال ہے کہ تم نے میری دنیا برباد کی اور اپنی آخرت“

ابن زیاد نے اُسے اور اس کی بیٹی کو قتل کرا دیا۔

یہ ماجرا دیکھ کر عہدہ کا بھائی مرداس چالیس آدمی اپنے ہمراہ لیکر اہواز کی جانب چلا گیا۔ ابن زیاد نے ابن حصن تمیمی کی زیر قیادت دو ہزار آدمیوں کا لشکر اس کی گرفتاری کے لئے روانہ کیا۔ مرداس نے اپنے چالیس ساتھیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اسے شکست فاش دی۔ اس

کے بعد ابن زیاد نے عباد بن اخضر کی سرکردگی میں تین ہزار کا ایک اور لشکر
 مرداس کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ فارس کے ایک شہر "توج" کے قریب
 اس لشکر کی مٹھ بھڑمرزا اس سے ہوئی۔ جمعہ کے روز فریقین میں مقابلہ
 شروع ہوا۔ جب جمعہ کی نماز کا وقت آیا تو خوارج نے عباد سے کہا کہ
 اس وقت تک کے لئے جنگ بند کر دی جائے جب تک ہم نماز ادا نہ
 کر لیں۔ عباد راضی ہو گیا اور خوارج اطمینان سے نماز میں مشغول ہو گئے۔
 لیکن نماز پڑھنے کے دوران ہی میں عباد نے ان پر حملہ کر کے سب کو قتل
 کر ڈالا اور ان کے سر ابن زیاد کے پاس بھیج دئے۔ ابن زیاد نے وہ سر
 کوفہ کے بازاروں میں لٹکانے کا حکم دیا۔

ایک عرصہ تک عباد بڑے اطمینان کی زندگی بسر کرتا رہا۔ خوارج
 پر فتح پانے کی وجہ سے ابن زیاد کے دل میں اس کی بڑی قدر و منزلت
 تھی۔ آخر خوارج ہی کی ایک جماعت نے سازش کر کے ایک روز وقت
 حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔

جب ابن زیاد کو کوفہ میں یہ خبر پہنچی تو اس نے بصرہ میں اپنے

نائب کو حکم بھیجا کہ وہ ان تمام لوگوں کو جن پر خارجی ہونے کا شبہ ہو فوراً گرفتار کر لے اور اس کی آمد کا انتظار کرے۔ چنانچہ اس کے نائب نے ایسا ہی کیا۔ ۶۸۰ھ میں ابن زیاد بصرہ آیا اور تمام گرفتار شدہ خوارج کو قتل کرادیا۔

عبید اللہ بن زیاد حضرت معاویہؓ کی وفات تک بصرہ کا والی رہا۔

جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں مصر کے والی حضرت عمرو بن العاص تھے اور اپنی وفات تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ ۶۶۳ھ میں ان کی وفات کے بعد حضرت معاویہؓ نے ان کے لڑکے کو مصر کا والی مقرر کر دیا۔ لیکن بعد میں اسے معزول کر کے کسی اور شخص کو وہاں کا والی بنا دیا۔ حجاز کی ولایت کلیۃً یزید امیہ کے ہاتھوں میں رہی۔ مدینہ کی ولایت مروان بن حکم اور سعید بن العاص کے درمیان چلے کھاتی رہی۔ کبھی مروان حاکم ہو جاتا اور کبھی سعید بن العاص۔ مدینہ کا والی ہی امیر حج کے فرائض بھی سرانجام دیتا تھا۔ کیونکہ حضرت معاویہؓ حج کے لئے صرف دو مرتبہ تشریف لائے۔ ایک مرتبہ ۶۶۳ھ میں اور دوسری مرتبہ ۶۶۵ھ میں۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ حضرت معاویہؓ کی سیاست حجاز میں عراق سے بالکل مختلف تھی۔ عراق میں آپ اُن عمال کو بھیجتے تھے جو جرات دلی اور بہادری میں اپنی نظیر آپ ہوتے تھے۔ آپ انہیں مکمل اختیار دیدیتے تھے کہ اس شورش انگیز خطہ میں امن برقرار رکھنے کے لئے وہ جو تدابیر مناسب سمجھیں اختیار کریں۔ لیکن حجاز اگرچہ حضرت امیر معاویہؓ کی مخالفت میں عراق سے کم نہ تھا تاہم بغاوتوں اور شورشوں کی کثرت میں اس کا مقابلہ عراق سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے حضرت معاویہؓ اس علاقہ میں نسبتاً نرم آدمی والی بنا کر بھیجتے تھے۔

ایک اور امر بھی قابل ذکر ہے اور وہ یہ کہ حضرت معاویہؓ نے حجاز میں صرف اُن ہی اشخاص کو والی مقرر فرمایا جو قریش میں سے تھے کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ اہل حجاز کے لئے صرف ایسے ہی والی بھیجے جائیں جن سے وہ اچھی طرح مانوس ہوں اور جو ان کے عادات و خصائل اور سیرت و ہر شے سے بخوبی واقف ہوں۔ اہل حجاز پر اچھی اشخاص کو والی بنا کر بھیجا آپ نے مناسب خیال نہ کیا۔ یہ سیاست واقعی عقل مندی پر مبنی تھی اور اس دوران مدیسی نے حضرت معاویہؓ کو بہت فائدہ پہنچایا۔

حضرت معاویہؓ کے عہد کی فتوحات

حضرت معاویہؓ کے عہد میں اگرچہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے بیرونی فتوحات کا دائرہ کچھ زیادہ وسیع نہیں ہوا تاہم مغربی جانب عربی و قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لئے بھی گئیں اور بحر متوسط (بحیرہ روم) کے جزائر قبرص اور رودس پر قبضہ کیا گیا۔

مشرق میں بھی جنگی سرگرمیاں محدود پیمانہ پر جاری رہیں۔ عبداللہ بن مسوار عبیدی نے جو سندھ کی سرحد پر متغین تھا دو مرتبہ "قیقان" پر حملہ کیا۔

لے رلعاناب بڈانے لکھا ہے کہ قیقان، خراسان سے متصل ہندوستان کا ایک شہر تھا لیکن یہ درست نہیں۔ "قیقان" کا وجود نام قلات ہے جو کچھ عرصہ قبل تک بلوچستان کی ریاست قلات کا دارالحکومت تھا۔ (تاریخ سندھ مؤلفہ میرانا سید ابوظفر ندوی صفحہ ۲۶)

قلات اور خراسان کے درمیان زبردست فاصلہ ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مصنف خاران کی بجائے رجو قلات کے قریب ہے، فلطی سے خراسان لکھ گیا ہے۔ (مترجم)

دوسرے حملہ کے دوران میں اپنی قیقان نے اپنے (ترک) مددگاروں کی ایک جماعت کی مدد سے عید اللہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد مہلب بن ابی صغزہ ازوی نے سندھ پر حملہ کیا اور لاہور تک پہنچ گیا۔ یہاں دشمن نے بھاری جمعیت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا۔ قیقان میں مہلب کا سامنا اٹھارہ ترک سواروں سے ہوا۔ انہوں نے بڑی بہادری سے اسلامی فوج کا مقابلہ کیا لیکن آخر تانکے بھڑی دیر کی لڑائی کے بعد تمام ترک مارے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی توجہ عرب کے شمال مغرب میں واقع رومی مملکت کی طرف زیادہ مبذول رہی۔ حضرت معاویہؓ کے

سے یہ لاہور مغربی پاکستان کا دار الحکومت نہیں بلکہ افغانستان کے علاقہ میں کابل کے قریب ایک قصبہ ہے۔ مہلب سندھ سے ہوتا ہوا افغانستان گیا اور اس قصبہ تک پہنچا۔ (مترجم)

۱۳۱ رومی سلطنت اس وقت دو بڑے حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ مغربی رومی سلطنت مشرقی رومی سلطنت۔ مغربی رومی سلطنت کا دار الحکومت اٹلی کا شہر روما تھا۔ اور مشرقی رومی سلطنت کا دار الحکومت قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ کے علاوہ شام کے شہر انطاکیہ میں بھی اکثر سکونت رکھتا تھا۔ (مترجم)

عمد میں روم میں دو بادشاہ سریر آرائے سلطنت ہوتے۔ پہلے ہرقل کا بیٹا
 کانٹائٹز دوم برسر اقتدار آیا۔ اس کا دور حکومت ۶۶۱ء سے ۶۶۸ء
 تک ہے۔ اس کے بعد کانٹائٹن چہارم سریر آرائے سلطنت ہوا جو
 پوناگوناٹوس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا زمانہ حکومت ۶۶۸ء سے
 ۶۸۵ء تک رہا۔

چونکہ رومی برابر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے اور اسلامی علاقوں
 پر حملے کرتے رہتے تھے۔ اس لئے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے حضرت
 معاذؓ نے بری اور بحری فوجیں مرتب کیں۔ بحری فوجوں کے لئے زبردست
 جنگی بیڑے تیار کئے۔ جن کے لئے فلکی لبنان کے گھنے جنگلات سے
 حاصل کی جاتی تھی۔ بیڑے کے جہازوں کی تعداد سترہ سو تھی جو پوری طرح
 جنگی ساز و سامان سے لیس ہوتے تھے۔

ان جنگی جہازوں کا وجود مسلمانوں کے لئے نہایت سود مند ثابت
 ہوا اور ان کے ذریعہ جزیرہ قبرص، جزیرہ رودس اور چند دیگر یونانی جزائر

لے کانٹائٹز دوم نے اپنے بھائی تھیوڈوسی کو جس نے چند روز ہی حکومت کی تھی۔ قتل کر
 ڈالا تھا اور بلا شرکت غیر سے سلطنت کا مالک بن گیا تھا۔ (مترجم)

مسلمانوں نے فتح کئے۔ ان فتوحات میں اسلامی فوجوں کی کمان جناوہ بن ابی امیہ ازدی کے ہاتھ میں تھی۔

حضرت معاویہؓ سے پہلے مسلمانوں کی بحری طاقت بہت کمزور تھی ان کی جوا کا ڈگا کشتیاں سمندر میں چلا کرتی تھیں۔ انہیں ہر وقت رومیوں سے خطرہ رہتا تھا۔ کہ کہیں بے خبری میں وہ ان پر نہ اڑیں اور انہیں اڑا کر نہ لے جائیں۔ لیکن ان مضبوط بیروں کی وجہ سے مسلمانوں کے لوں سے رومیوں کے اچانک حملوں کا ڈر بالکل جاتا رہا۔ بلکہ خود انہوں نے بڑھ چڑھ کر رومی علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ پہلے رومی مسلمانوں کی کشتیاں چھین لے جاتے تھے۔ اب مسلمانوں نے رومیوں کے جہازوں کو اپنے قبضہ میں کرنا شروع کیا۔ اور رومی ہر وقت مسلمانوں کے خوف سے لڑاں و ترساں رہنے لگے۔ سمندر میں جو فوجیں کام کرتی تھیں حضرت معاویہؓ ان کی نگہداشت کی طرف خاص توجہ دیتے تھے اور انہیں برابر دوا و دوش سے نوازتے رہتے تھے۔

خشکی کے لئے بھی حضرت معاویہؓ نے دو فوجیں "شواتی" اور "صوائف" تیار کیں۔ "شواتی" وہ فوجیں تھیں جو موسم سرما میں مقابلہ کرنے کے لئے نکلتی

تھیں اور "صوائفت" وہ لشکر تھے جو گرمیوں میں سرگرم عمل رہتے تھے
 ان فوجوں نے دشمن کے علاقہ پر پے در پے حملے کر کے انہیں نہایت رعب
 مرعوب کر دیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں دشمنوں کے ماتحت تاراج
 سے بالکل محفوظ ہو گئیں۔

عربوں نے جب سے شام فتح کیا تھا قسطنطنیہ کو تسخیر کرنے کا خیال
 بار بار ان کے دلوں میں چٹکیاں لے رہا تھا۔ کیونکہ وہ اس وقت ^{سلطنت} بیزنٹینی
 کا دارالحکومت تھا۔ اگر مسلمان اپنی ابتدائی فتوحات میں قسطنطنیہ کو بھی
 فتح کر لیتے تو یقیناً اسی زمانہ میں تمام شمالی یورپ پر بھی ان کا تسلط ہو جاتا
 اور تاریخ بالکل مختلف ہوتی لیکن حضرت عثمانؓ کے زمانہ تک مسلمانوں کو
 قسطنطنیہ فتح کرنے کا خیال پیدا نہ ہوا۔ ۶۵۳ء میں حضرت معاویہؓ نے جبکہ
 وہ حضرت عثمانؓ کی طرف سے شام کے والی تھے (طرابلس الشام میں
 قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے ایک بھری بیڑا تیار کرایا اور بسربن ابی ارقطاة
 کو امیر البحر بنا کر رومیوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کر دیا۔ یہ بیڑہ بڑی لاش
 سے رومی دارالحکومت کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں اس کا مقابلہ رومی
 بیڑے سے ہوا جس میں رومیوں کو شکست فاش اٹھانی پڑی لیکن بعض جہاز

کی بنا پر یہ بڑا قسطنطنیہ تک نہ پہنچ سکا۔

۶۶۲ھ میں جبکہ خلافت حضرت معاویہؓ کے ہاتھ میں آچکی تھی آپ نے بسر بن ابی ارطاةؓ ہی کی امارت میں ایک اور بحری بیڑا قسطنطنیہ روانہ کیا، جو طبری کی روایت کے بموجب وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے بعد فضالہ بن عبید نے خلیفہ وزیر پر لشکر کشی کی جو آبائے باسفورس کے قریب واقع ہے۔ اس جگہ اُسے یزید بھی مل گیا جسے حضرت معاویہؓ نے لشکر کی امداد کے لئے بھیجا تھا۔

بعض مورخین عرب ذکر کرتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ نے ۶۶۸ھ میں قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لئے برمی اور بحری دونوں راستوں سے فوجیں روانہ کیں۔ لشکر کی کمان سفیان بن عمروؓ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بھی اس لشکر کے ہمراہ جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباسؓ۔ حضرت عبداللہؓ بن عمرؓ حضرت عبداللہؓ بن زبیرؓ اور حضرت ابوالیوب انصاریؓ جیسے جلیل القدر

مورخ یوفان نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ ۶۶۱ھ میں ہوا تھا۔ لیکن بعض دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ۶۶۲ھ میں کیا تھا۔

صحابہ بھی اس شکر میں تھے۔

اناصول کے راستے پر شکر قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوا اور اس کی فصیلوں کے سامنے جا کر ڈیرے ڈال دیئے۔ عربوں کے بحری جہاز بحیرہ مارمورہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ پھیل گئے اور اپریل اور ستمبر کے درمیانی عرصہ میں قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا۔ لیکن اسے فتح نہ کر سکے۔ ہر مئی کا موسم شروع ہو جانے پر انہیں مجبوراً ایشیائے کوچک کے شمال مغرب میں "فیرقیا" کی طرف واپس آنا پڑا۔

موسم بہار کی ابتداء میں مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا دوبارہ محاصرہ شروع کر دیا۔ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسلمان سات سال تک محاصرہ کئے پڑے رہے۔ آخر کار جب فتح کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو مجبوراً واپس ہونا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ناکامی کا بڑا سبب "آتش یونان" تھی۔ جس نے مسلمانوں کے بحری بیڑے کے ایک بیڑے حصہ کو آگ لگا کر تباہ کر دیا اور جب مسلمان واپس

۱۔ ایک تشبیہیہ موضح سید ذاکر حسین دہلوی اپنی تاریخ اسلام جلد اول کے صفحہ ۲۲ پر بحوالہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسینؑ بھی اس فوج میں شامل تھے۔ (مترجم)

ہونے لگے تب بھی آگ برسا کر باقی ماندہ جہازوں کو سخت نقصان پہنچایا۔
 گودامی اور عربی تاریخوں میں اس طویل جنگ کا ذکر ضرور آتا ہے۔
 لیکن وہ اس محاصرہ کے متعلق کئی مفصل اور واضح بیان ہمارے سامنے
 پیش نہیں کرتیں۔ تاہم اغلب گمان یہ ہے کہ اس لشکر نے جو خشکی کی راہ سے
 حملہ آور ہوا تھا، قسطنطنیہ کا محاصرہ ۶۶۷ء میں شروع کیا اور ۶۷۴ء میں
 عربی پٹرا وہاں سے واپس ہوا۔

محاصرہ کے دوران ہی میں حضرت ابو ایوب خالد بن سید انصاریؓ
 کی وفات ہو گئی۔ آپ ہی وہ خوش قسمت بزرگ ہیں جنہیں ہجرت کے وقت
 رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی میزبانی کا ثمر نصیب ہوا۔ آپ کو قسطنطنیہ
 کی فصیل کے نیچے سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ مزار اب تک مرجع خاص و عام ہے
 بعد میں اس کے متصل ایک مسجد بھی بنا دی گئی۔ تمام عثمانی سلاطین کی تاجپوشی
 کی تقاریب اسی مزار پر نہایت شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا کرتی تھیں۔

لے یہ تاریخی مسجد آج بھی موجود ہے اور جامع ایوب کہلاتی ہے۔ (مترجم)

یہ ایک زبردست غلطی تھی جو ابوالمہاجر سے سرزد ہوئی۔ صرف
 ابوالمہاجر پر ہی موقوف نہیں۔ آج تک بھی مسلمانوں میں یہی ذہنیت کا رفرما
 ہے کہ بعد میں آنے والے حاکم اپنے پیشروؤں کے تجربات سے فائدہ
 اٹھانے کی بجائے ان کی تحقیر اور تذلیل کرنے کی کوششوں میں لگے
 رہتے ہیں تاکہ پہلوں کی وقعت لوگوں کے دلوں سے کم کر کے اپنے نام کو
 چمکا سکیں۔ لیکن اس طرح وہ بجائے فائدہ کے نقصان اٹھاتے ہیں۔
 اور اپنی کوتاہ اندیشی کی بدولت ایک ایسی قوت سے جو ان کے لئے
 فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی، محروم ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح پہلا افسر بھی کوشش کرتا ہے کہ بعد میں آنے والے
 حاکم سے ہر وہ بات چھپائے جو اس کے لئے کسی طرح سود مند ثابت
 ہو سکتی ہو۔ اس کی غرض بھی یہی ہوتی ہے کہ صرف اسی کا نام روشن ہے
 کسی اور کا نام نہ چمک سکے۔ لیکن جس قوم کا انداز فکر اس قسم کا ہوتا ہے
 اُسے دنیا میں کبھی ترقی نصیب نہیں ہو سکتی۔

لبنان میں حراجہ کی سرگرمیاں

رومیوں کو شام کی طرف سے غفالت برتنے کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ جب عرب شام کی فتح سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے ایشیا کوچک میں رومی سلطنت پر حملے شروع کر دیے تو رومیوں نے اپنے بچاؤ کی یہ تدبیر سوچی کہ مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں میں رہنے والی بعض مضبوط جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر انہیں مسلمانوں کے خلاف نیرو آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ جماعتیں مختلف علاقوں میں اسلامی لشکروں پر پے درپے حملے کر کے اور مقبوضہ علاقوں میں جنگ و جدل کے شعلے بھڑکا کر آہستہ آہستہ ان کی طاقت زائل کر دیں۔ اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ اس

طرح مسلمانوں کی تمام تر توجہ اندرونی علاقوں میں امن وامان قائم کرنے
 اور بغاوت کے شعلے بجھانے کی طرف مبذول رہے گی اور انہیں رومی
 حدود پر حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ دریں اثنا رومی اپنی حالت
 درست کر کے اپنی قوتوں کو مجتمع اور فوجوں کو از سر نو تیار کر سکیں اور ان
 بدترین واقعات کا اعادہ نہ ہونے دیں گے جو یرمیک، اجنادین، فلسطین
 اور مصر کے میدان ہائے جنگ میں انہیں قبل ازیں پیش آچکے تھے۔
 ابن خلدون اپنے مقدمہ میں ذکر کرتے ہیں کہ اسلامی فتوحات
 کے دوران میں عرب اپنے قدم صرمت میدانی علاقوں میں جما سکے تھے۔
 پہاڑی علاقوں میں ان کا اثر و نفوذ بہت کم تھا۔ چنانچہ ابتدائی زمانہ
 میں اہل علاقوں کے رہنے والے بہت حد تک آزادی سے بہرہ ور
 تھے اور عربی فوجیں ان سے چنداں تعرض نہ کرتی تھیں۔
 شمالی جانب عربی ملیغارا انطاکیہ تک جا کر روک گئی تھی۔ چنانچہ
 دراز تک عربوں کو جبال طوروس پر چڑھائی کرنے کا موقع نہ مل سکا
 اور اموی خلفاء کے زمانہ میں یہی سلسلہ ہائے کوہ اسلامی شام اور
 رومی ایشیا کے کوچک کے درمیان حد فاصل بنا رہا۔

پہاڑوں کے اس سلسلے میں ایک قوم آباد تھی جس کا نام مروہ تھا۔ اس کا پیشہ لوٹ مار اور قزاقی تھا اور یہ لوگ بڑی آزاد زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ دشوار گزار اور سخت کھٹن پہاڑی علاقوں میں رہنے کی وجہ سے رومیوں کو بھی ان کے جذبہ معریت کا مجبوراً احترام کرنا پڑتا تھا۔ اور وہ شہنشاہ سے ان کی بھی اطاعت کے اقرار ہی کو کافی سمجھتے تھے۔ بنی نطنی شہنشاہیت تک یہی حالت قائم رہی۔ رومی شہنشاہوں نے ان کی اندرونی خود مختاری کو قائم رکھا۔ اور ان کے بعض لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے اور ان کی لفظی اطاعت کے اقرار کو بہت غنیمت سمجھا۔

عربی فتوحات کے دوران میں جب ہر قتل کو شکست فاش اٹھا کر قسطنطنیہ کی طرف لپ پاپوٹا پڑا اور عربوں کا انطاکیہ تک کے تمام علاقے پر قبضہ ہو گیا تو جراحہ نے عربوں سے مصالحت کر لینے ہی میں اپنی خیر سمجھی اور بڑی خوشی کے ساتھ مسلمانوں کی یہ بات قبول کر لی کہ وہ عربوں

لے عرب مروہ قوم کو "جرجوما" شہر کی مناسبت سے (جس میں ان کی رہائش تھی اور جوان کا سب سے بڑا شہر تھا) جراحہ کے نام سے پکارتے تھے۔

لے عیشال السوری جلد ۱ صفحہ ۲۵۵۔

کی طرف سے جبالِ طور و س کی محافظت اور وہ میوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کے فرائض سرانجام دیں۔ نیز مسلمانوں نے وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے جنگوں میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تو انہیں بھی غنیمتوں میں سے حصہ دیا جائے گا۔

اصل بات یہ ہے کہ جراحہ پر اس وقت بدوی زندگی غالب تھا انہیں موٹے دوسری اقوام سے لڑنے بھڑنے اور اموال و غنائم حاصل کرنے کے اور کوئی کام نہ تھا۔ ان کی زندگی کا تمام تر لطف ان ہی چیزوں میں تھا۔

جراحہ کے اس طرزِ عمل پر جو ”ارٹوڈکسی“ عقیدے کے مسیحی بینر لٹینیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تائید و حمایت پر مبنی تھا، بعض مسیحی مورخین نے بڑی ناراضگی اور غصہ کا اظہار کیا ہے۔ ان کا قول ہے کہ ”چونکہ جراحہ ”ارٹوڈکسی“ نہیں تھے۔ بلکہ ”کاتھولک“ عقیدے کے پیرو تھے اسی لئے انہوں نے ”ارٹوڈکسی“ مسیحیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی حمایت و نصرت کرنے کو ترجیح دی۔“

تاہم اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جراحہ مسلمانوں کے کامل فرزند

بن گئے تھے اور بڑے اخلاص سے اُن کی اطاعت کر رہے تھے۔ آپ
 یہ تھی کہ جہاں وہ بعض اوقات ان کی قرار واقعی مدد کرتے تھے وہاں اکثر
 وہ بنی نطینیوں کے ساتھ مل کر اور ان کے حامی بن کر مسلمانوں کو سخت
 نقصان بھی پہنچاتے تھے۔ اس صورتِ حال سے لبنان کی سیاست میں
 ایک اضطراب برپا تھا۔

جب عرب بری اور بحری راستوں سے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کیلئے
 کھڑے ہوئے تو بنی نطینیوں نے یہنا سب خیال کیا کہ اس وقت جراحہ
 کو عربوں سے بھڑا دیا جائے اور انہیں اسلامی حدود پر حملے کرنے کیلئے
 تیار کیا جائے تاکہ عربوں کی توجہ رومیوں سے ہٹ کر جراحہ کی طرف
 منعطف ہو جائے۔ اور وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنے نظام کو
 درست کر لیں اور جنگی لحاظ سے مضبوط ہو جائیں۔ چنانچہ شہنشاہ کانستانتائن
 چہارم نے ۶۶۶ء کے قریب جراحہ سے تعلق پیدا کیا اور انہیں بہت
 کچھ سز باغ دکھا کر اور بعض بنی نطینی دستوں کو ان کے ساتھ کر کے
 انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اسلامی سوا حل پر حملے شروع کر دیں۔

جراجمہ شہشاہ کی باتوں میں آگئے۔ اور جبال لبنان تک پہنچ کر شام
 کے ساحل پر جو جبال طوروس سے فلسطین تک پھیلا ہوا تھا۔ حملے شروع
 کر دیئے۔

اس جنگی چال کو ناکام بنانے کے لئے حضرت معاویہؓ کے سامنے
 دورا ہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ پوری طاقت سے جراجمہ پر حملہ کیا جائے اور
 انہیں ان علاقوں سے نکال باہر کیا جائے۔ جہاں بیچھ کر وہ شامی
 سواحل پر حملے کر کے سمندر کے راستے دمشق اور باقی اسلامی سلطنت
 کا تعلق منقطع کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ دوسرا طریق کار یہ تھا
 کہ فی الحال غزوات کے سلسلہ کو روک کر بیزنطینیوں سے صلح کر لی جائے
 اور پھر جراجمہ پر حملہ کر کے ان کی قوت و طاقت کو نابود کر دیا جائے۔ حضرت
 معاویہؓ نے بہت سوچ سوچ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنے کو ترجیح دی اور
 رومیوں کو کہلا بھیجا کہ وہ ان سے صلح کرنے کو تیار ہیں۔ بشرطیکہ رومی اس
 بات کی ضمانت دیں کہ وہ جراجمہ کی حمایت سے دست کشی اختیار کر لیں
 گے اور انہیں کسی قسم کی مدد نہیں پہنچائیں گے۔

خود غرض رومیوں نے اس پیش کش کو خوشی سے قبول کر لیا۔

کیونکہ اس صلح سے انہیں وقتی طور پر اپنے علاقوں کی سلامتی کی طرف سے اطمینان کی ایک شکل نظر آ رہی تھی

مادیہ نے اس دوران میں لبنان میں جراحہ پر پُر زور حملے کر کے ان کی قوت و طاقت کو ختم کر دیا اور ان کے بکثرت لڑ جوان موت کے گھاٹ اتار دئے۔ جو تھوڑی سی تعداد باقی بچی وہ عبدالملک بن ان کے زمانہ تک پہاڑوں میں پناہ گزیں رہے۔

اس طرح حضرت معاویہؓ اپنی زندگی کے آخری ایام نہایت سکون و آرام سے گزارنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اپنی اس عظیم الشان سلطنت کے استحکام کی طرف سے کامل اطمینان ہو گیا جو مغرب میں بحیرہ روم کے مشرقی جزائر تک اور مشرق میں سندھ اور ہندوستان کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔

لے رومی تاریخیں ناقل ہیں کہ معاویہؓ اور بنی نسطینوں میں ان تین شرائط پر صلح ہوئی تھی۔ اول یہ کہ معاویہؓ رومی شہنشاہ کو تین ہزار سونے کے ٹکڑے دیں گے۔ دوم یہ کہ آٹھ ہزار رومی قیدیوں کو رہا کریں گے۔ سوم یہ کہ پچاس عربی گھوڑے رومی شہنشاہ کو بھیجیں گے۔ لیکن عربی تاریخوں میں ان تفصیلات کا ذکر نہیں ہے۔

یزید کی ولی عہدی

مؤرخین عرب لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کو سب سے پہلے جس شخص نے یزید کی ولی عہدی کا مشورہ دیا وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ۵۶ھ میں حضرت معاویہؓ نے حضرت مغیرہؓ کو کوفہ کی ولایت سے معزول کر کے اُن کی جگہ سعید بن عاص کو مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت مغیرہؓ کو بھی کسی طرح اس کا پتہ لگ گیا اس پر وہ فوراً شام روانہ ہوئے اور سعید سے یزید کے پاس پہنچ کر اس سے کہنے لگے۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہؓ اور قریش کے تمام

معتز اور سربراہ اور وہ اشخاص وفات پا چکے ہیں۔ اب ان کی اولاد باقی رہ گئی ہے۔ آپ حبیب و نسب، بالغ نظری، اصابت رائے بہادری و شجاعت، عقل و دانش، علم و فضل اور سیاسی سوجھ بوجھ میں ان سب سے بڑھ کر ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ امیر المومنین کو آپ کی ولی عہدی کی بیعت لینے میں کیا تامل ہو سکتا ہے؟

یزید نے حیران ہو کر پوچھا: "کیا یہ بات ممکن ہو سکتی ہے؟"
حضرت مغیرہؓ نے کہا: "کیوں نہیں؟"

چند روز اسی طرح گذر گئے۔ اس دوران میں یزید نے اس معاملہ پر اچھی طرح سوچا اور تمام نتائج و عواقب پر غور کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے پاس آیا اور حضرت مغیرہؓ والی گفتگو کا ان سے ذکر کیا۔ حضرت معاویہؓ نے حضرت مغیرہؓ کو بلایا اور یزید نے جو باتیں ان سے کہی تھیں وہ ان کے سامنے دہرا کر ان کی رائے دریافت کی۔ حضرت مغیرہؓ نے کہا:

"امیر المومنین! حضرت عثمانؓ کے بعد جو خوزیری ہوتی اور جس طرح اختلاف برپا ہوا وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ یزید آپ کا بیٹا ہے اور آپ

کی جانشینی کے فرائض بخوبی بجالاسکتا ہے۔ آپ اسے دلی عہد مقرر کر دیجئے تاکہ اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ مسلمانوں کے لئے پشت پناہ ثابت ہو اور آپ کی جانشینی کے فرائض بحسن و خوبی سرانجام دے سکے۔ اس طرح خوزری اور فتنہ و فساد کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔

معاویہؓ نے یہ سن کر کہا:-

”لیکن اس بات کا کیا ذمہ ہے کہ کام سکون و اطمینان سے انجام پاجائے گا۔“

حضرت مغیرہؓ نے جواب دیا:-

”اہل کوفہ کا ذمہ تو میں لیتا ہوں۔ اہل بصرہ کو ہمارا کرنے کا کام زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے۔ جب ان دونوں شہروں کے باشندے یزید کی دلی عہدی قبول کر لیں گے تو اور کسی شخص کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس تقرر کی مخالفت کر سکے۔“

کتب سیر میں لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت معاویہؓ نے حضرت مغیرہؓ کو معزول کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنے وعدہ کے مطابق کوفہ جا کر یزید کی دلی عہدی کے لئے لوگوں کو آمادہ کریں

اس قرارداد کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ کو فہ گئے اور وہاں یزید کی بیعت کے لئے کوشش کرنے لگے۔ جس پر امویوں کے مددگاروں نے خوشی سے یزید کی بیعت کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ دیکھ کر آپ نے ان میں سے دس آدمیوں کو حضرت معاد بن جندبہ کے پاس بھیجا، جنہوں نے جا کر تمام اہل کوفہ کی طرف سے بڑے اصرار کے ساتھ یہ بات کہی کہ یزید ہی کو ولی عہد بنایا جائے۔ اس پر حضرت معاد بن جندبہ کے عزم میں مضبوطی ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئے کہ مغیرہ اس اہم کام کو کامیابی کے ساتھ پائیہ تکمیل کو پہنچا سکیں گے اور کوفہ والے بڑی خوشی سے یزید کی ولی عہدی قبول کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔

کوفہ کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد حضرت معاد بن جندبہ نے بصرہ کی طرف توجہ کی اور وہاں کے حاکم زیاد کو اس سلسلہ میں ایک خط لکھ کر اس کی رائے دریافت کی۔ زیاد کی رائے اس کے موافق نہ تھی۔ اس نے جواباً لکھا کہ اس معاملہ میں جلدی نہ کیجئے اور خوب سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھائیے کیونکہ یزید میں خلافت کی شرائط نہیں پائی جاتیں۔ اس نے اپنے خط میں لکھا کہ "یزید میں سنسختی اور کاہلی بے حد ہے اور وہ سلطنت کے

یزید کی
بیعت کی
فہم

امور میں دلچسپی لینے کی بجائے سیر و شکار میں اپنا وقت زیادہ صرف
کرنا ہے۔

حب دیا و کا فائدہ مشت پہنچا اور یزید کو زیادہ کی رائے سے آگاہ
کیا تو یزید نے ان باتوں کو، جن کی نشاندہی زیادہ نے کی تھی، ترک کر
شرع کیا اور اپنی حالت درست کرنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مگر حب حضرت
معاویہؓ کو زیادہ کا خط ملا تو آپ نے حاکم عراق کے مشورہ کو قبول کر لیا
اور اس معاملہ میں دلچسپی یعنی چھوڑ دی۔

دن گزرتے رہے اور اس معاملہ میں بالکل خاموشی رہی۔ اسی
دوران میں زیادہ کا انتقال ہو گیا۔ انیس برس اور پندرہ مہینے بہت ضعیف ہو گئے
تھے اور انہیں اپنے جسم میں بے حد کمزوری محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ حالت
دیکھ کر آخر کار آپ نے یزید کی ولی عہدی کے بیعت لینے کا ارادہ کر لیا
لیا اور سب سے پہلے عامل مدینہ مروان بن حکم کو یہ خط لکھا:-
”میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے قوی کمزور ہو گئے
ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ میری وفات کے بعد کہیں امت میں اختلاف

تہ پیدا ہو جائے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں اپنے جانشین کا تقرر کر جاؤں۔ اس کے لئے مجھے لوگوں کا مشورہ درکار ہے۔ تم لوگوں کو جمع کر کے یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھو اور ان کی آراء سے مجھے مطلع کرو۔

یہ خط پہنچنے پر مروان نے انصار اور حضرت معاویہؓ کے حامیوں کو بلایا اور حضرت معاویہؓ کا خط انہیں پڑھ کر سنا دیا۔ اس پر سب لوگوں نے حضرت معاویہؓ کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ ”ہاں ضرور جانشینی کا مسئلہ حل ہو جانا چاہئے۔“ چنانچہ مروان نے آپ کو اس کی اطلاع دے دی۔

کچھ دنوں کے بعد حضرت معاویہؓ کا جواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ مروان نے مسجد میں یہ خط منجھ عام میں پڑھ کر سنا دیا۔

یہ سن کر لوگوں میں پہچان و اضطراب برپا ہو گیا۔ عبدالرحمن بن ابوبکرؓ نے اٹھ کر کہا:

تم لوگوں کے پیش نظر امت محمدیہ کی بھلائی اور خیر خواہی نہیں ہے

بلکہ تم یہاں قبیری نظام قائم کرنا چاہتے ہو کہ جب ایک قبیر مر جائے تو اس کی جگہ اس کا بیٹا تخت پر بیٹھے۔“

حضرت امام حسینؑ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے بھی اٹھ کر یزید کو ولی عہد بنانے کی مخالفت میں تقریریں کیں۔ اس طرح ایک جماعت یزید کی ولی عہدی کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ لیکن حضرت معاویہؓ نے اس مخالفت کی پروانہ کی اور اپنے عمال کو لکھا کہ وہ لوگوں سے یزید کیلئے بیعت لیں اور فوراً پروانہ کریں۔ جو یہاں آکر اعلان کریں کہ رعایا یزید کی ولی عہدی پر راضی ہے۔

چنانچہ یہ وفود دمشق آئے اور ان کی طرف سے ضحاک بن قیس فہری نے حضرت معاویہؓ سے درخواست کی کہ ان سے یزید کے لئے بیعت لے لی جائے حضرت معاویہؓ نے اطمینان کا سانس لیا اور ان وفود کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں اسلام اور خلافت کا ذکر کیا۔ یزید کی فضیلت اور اس کے سیاسی تدبیر کا ذکر کیا اور بتلایا کہ اس کی بیعت کر لینے سے مسلمان مستعد رہیں گے جس کے باعث تمام مملکت میں امن قائم رہے گا۔ خطبہ دینے کے بعد حضرت معاویہؓ نے یزید کے لئے بیعت لی

تاہم یہ بیعت عام نہیں تھی بلکہ خاص خاص آدمیوں اور دوسرے
لی گئی تھی۔

✓ اس وقت لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ پہلے گروہ نے
تو بیعت کرنے سے کھلم کھلا انکار کر دیا تھا۔ البتہ دوسرا گروہ خوف اور
طمع کے باعث بیعت کرنے پر رضا مند ہو گیا تھا۔ اس صورت حال
کی تصویر احنف بن قیس کی ایک گفتگو سے منظر عام پر آتی ہے جب
حضرت معاویہؓ نے اس بارہ میں ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے کہا۔
✓ "اگر ہم سچ بات کہتے ہیں تو آپ کی ناراضگی کا ڈر ہے اور اگر جھوٹ
بولتے ہیں تو خدا تعالیٰ کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین! آپ کو یزید
کی زندگی، اس کے دن رات کے مشاغل اور اس کے خفیہ اور اعلانیہ
افعال کا اچھی طرح پتہ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کو اپنا جانشین
مقرر کرنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہو سکیں گے اور اس
کے ولی عہد ہونے میں درحقیقت امت کی بھلائی مضمربے تو آپ کو
ہم سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو یزید کو
ولی عہد مقرر کر کے اپنی عاقبت نہ بگاڑیے۔ ہم تو بہر حال آپ کے خادم

ہیں۔ وہی کریں گے جس کا آپ ہمیں حکم دیں گے۔"

لیکن حضرت معادؓ نے زید کو ولی عہد بنانے کا نتیجہ کر چکے تھے۔ ان پر کوئی مشورہ کارگر نہ ہو سکا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے عہد میں مملکت کے حالات پر سکون ہو چکے ہیں۔ داخلی اور خارجی طور پر مکمل امن قائم ہو چکا ہے اور ان کی سلطنت مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی ہے۔ اس لئے زید کو ان کے بعد اہم خطرات سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا اور وہ اطمینان سے کاروبار حکومت چلا سکے گا۔ باقی رہے اس کے ذاتی اخلاق و عادات تو وہ ان کی وسیع و عریض مملکت کے انصرام کی راہ میں چنداں حائل نہیں ہو سکیں گے۔ ساتھ ہی ان کے دل میں یہ خیال بھی پوری سختی کے ساتھ جاگزیں ہو چکا تھا کہ صرف زید ہی ان کا جانشین ہونے اور اس سلطنت کا وارث بننے کا حق دار ہے۔ جس کی بنیادیں اس کے باپ کے ہاتھوں خوب اچھی طرح مضبوط ہو چکی ہیں۔

حضرت معادؓ نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ مختلف تدابیر لوگوں کو رام کرنے کے لئے اختیار کیں۔ آپ ہر شخص سے خواہ وہ آپ کا کتنا ہی شدید دشمن اور مخالف کیوں نہ ہوتا، مدارات اور نکتہ صفت سے

پیش آئے اور اسے کثیر العوام و اکرام سے نوازتے۔ اس حسن سلوک کا اثر یہ ہوا کہ اکثر لوگوں نے یزید کی ولی عہدی کے لئے بیعت کر لی۔

جب اہل شام اور اہل عراق کی بیعت ہو چکی تو آپ بیعت لینے

مدینہ تشریف لائے۔ وہاں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ، حضرت امام حسینؓ

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ملاقات ہوئی۔ لیکن انہوں نے آپ کو

کوئی امید افزا جواب نہیں دیا۔ اس پر وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ

کے پاس گئے اور ان سے ان لوگوں کی شکایت کی کہ یہ لوگ یزید کی

ولی عہدی کی راہ میں روڑے اٹکارہے ہیں۔ ساتھ ہی دھمکی بھی دی

کہ اگر یہ اپنی کارروائی سے باز نہ آئے اور یزید کی ولی عہدی کی بیعت

نہ کی تو انہیں ان کے خلاف سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ حضرت عائشہؓ

نے انہیں نرمی رتنے اور معاملہ کو صلح و آشتی کے ساتھ حل کرنے کی تلقین

کی۔ اس پر حضرت معاویہؓ پھر ان تینوں حضرات سے ملے اور بہت کچھ بدایا

اور تحفے پیش کئے۔ زان بعد حرف مطلب زبان پر لائے۔ اس پر حضرت

ابن زبیرؓ بولے۔

”ہم چاہتے ہیں کہ آپ تین باتوں میں سے ایک بات قبول کر لیں۔“

حضرت معاویہؓ نے کہا: "وہ باتیں بیان فرمائیے۔"

ابن زبیرؓ نے کہا: "وہ تین باتیں یہ ہیں کہ:-"

(۱) آپ اس معاملہ میں وہی کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے کیا تھا،

(۲) اگر یہ منظور نہیں تو وہ کیجئے جو حضرت ابوبکر صدیقؓ نے

نے کیا تھا۔

(۳) اگر یہ بھی منظور نہیں تو حضرت عمرؓ کا طریقہ کار استعمال

کیجئے۔"

حضرت معاویہؓ نے پوچھا: "ان بزرگوں نے کیا کیا تھا؟"

ابن زبیرؓ نے کہا: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانشین مقرر

کئے بغیر وفات پا گئے۔ آپ کے بعد لوگوں نے بطور خود حضرت ابوبکر صدیقؓ

کو خلیفہ منتخب کر لیا۔"

حضرت معاویہؓ نے جواب دیا: "آج کل ابوبکرؓ جیسے لوگ کہاں

ہیں؟ اگر میں نے اپنی زندگی میں اپنے جانشین کا تقرر نہ کیا تو بعد میں

سخت اختلاف کا اندیشہ ہے۔"

ابن زبیرؓ نے کہا: "آپ سچ فرماتے ہیں۔ اس لئے وہ کیجئے جو حضرت ابو بکرؓ نے کیا تھا۔ انہوں نے قریش کے ایک شخص کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ جو ان کے بیٹوں یا عزیزوں میں سے نہ تھا۔ لیکن اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ کیجئے جو حضرت عمرؓ نے کیا تھا۔ انہوں نے خلیفہ کے انتخاب کے لئے چھ آدمیوں کی ایک مجلس شوریٰ مقرر کر دی تھی۔ جس میں نہ ان کا کوئی بیٹا تھا اور نہ کسی بیٹے کا بیٹا۔"

حضرت معاویہؓ نے پوچھا: "کیا ان صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت بھی ممکن ہے؟"

ابن زبیرؓ نے جواب دیا: "نہیں۔"

حضرت معاویہؓ نے کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر حضرت حمینؓ اور حضرت عبدالعزیز بن عمرؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: "آپ صاحبان کیا کہتے ہیں؟"

انہوں نے کہا: "ہمارا بھی وہی خیال ہے جو ابن زبیرؓ نے آپ سے کہا ہے۔"

اس پر حضرت معاویہؓ نے کہا: "میں اس وقت آپ صاحبان سے

ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے ایک لفظ بھی اس معاملہ کے متعلق اپنی زبانوں سے نکالا تو ہماری گردنیں تن سے جدا کر دی جائیں گی۔
 اس طرح لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی اور خلافت اسلامی جمہوریت سے موروثی بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔

۶

✓

۱۔ مولف کتاب بڑا کاہر بیان کچھ بہت عجیب سا معلوم ہوتا ہے کیونکہ۔

(۱) اس طرح ان جلیل القدر صحابہ پر بزدلی کا الزام عائد ہوتا ہے خصوصاً حضرت امام حسینؑ جیسے غیور اور شجاع انسان پر۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ حسینؑ جنہوں نے حق کی خاطر کربلا میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس موقع پر تلوار کے ڈر اور جان کے خوف سے کلمہ حق کہنے میں سکوت اختیار کر لیتے؟

(۲) پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حبیب اہل مدینہ دیکھ رہے تھے کہ ان تین بزرگوں کے سر پر دو دو آدمی تلواریں لئے کھڑے ہیں تو انہوں نے کس طرح یقین کر لیا کہ انہوں نے بھنا دہنیت کر لی ہے؟ اگر بالفرض انہیں یقین آجھی گیا تھا تو بعد میں جب انہیں اصل واقعات کا پتہ چلا اس وقت انہوں نے اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی؟ (مترجم)

حضرت معاویہؓ کی سیاست

حضرت معاویہؓ کی شخصیت گونا گوں صفات کی حامل تھی۔ آپ ایک اعلیٰ ترین سیاست دان، بہت بڑے مدبر، بے حد حلیم، نہایت بردبار اور بے نظیر عقل و دانش کے مالک تھے۔ یہ صفات ایسی ہی جو شاہِ ذوالنورین کسی فردِ واحد میں جمع ہوتی ہیں۔

خلافت حاصل ہونے سے قبل بھی ایک لمبے عرصہ تک آپ کو مختلف قوم و اربابِ تقویٰ کی جاتی رہیں۔ جن سے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو اجاگر کرنے میں کافی مدد ملی۔ اس طویل تجربہ سی کا نتیجہ تھا کہ خود مختاری ملنے پر حکومت کے نظم و نسق کو کامیابی کے ساتھ چلانے میں آپ کو کوئی

وقت پیش نہیں آئی۔ اور آپ نے اپنے عہد میں مملکت کا انتظام
نہایت عمدگی اور خوبی کے ساتھ سنبھالے رکھا۔

اسلام لانے کے بعد امیر معاویہؓ کی ترقی و عروج کی ابتداء اس
وقت سے ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا
کاتب و حی مقرر فرمایا۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کے بعد حب اسلامی لشکر شام اور عراق کی طرف بھجے جانے لگے تو آپ کے
بھائی زید بن ابوسفیان کو شامی افواج کا سپہ سالار اور فتوحات کے بعد
وہاں کا والی مقرر کیا گیا۔ زید کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ نے امیر معاویہؓ
کو شام کا والی مقرر فرمایا اور وہ کابل میں سال تک وہاں کے حاکم رہے۔
شام کا ملک حضرت معاویہؓ کے لئے بہترین تربیت گاہ ثابت ہوا۔
جہاں انہوں نے سیاست اور نظم و نسق کے طریقوں سے اعلیٰ درجہ کی قنیت
حاصل کی۔ ایرانیوں اور رومیوں کے میل جول سے آپ کے سامنے فکر و
نظر کے نئے نئے میدان کھل گئے اور خیالات میں نہایت وسعت پیدا
ہوئی۔ جس تدبیر سے آپ نے حکومت کی اور جن تدابیر سے کام لے کر
آپ نے مخالف حالات کا مقابلہ کیا۔ اس کی پیاقت آپ میں دراتنا موجود

تھی۔ آپ کے والد ابو سفیان (جن کا شمار قریش مکہ کے بڑے بڑے
 شراذم میں ہوتا تھا) اکثر تجارتی قافلوں کے ہمراہ مختلف ملکوں میں جایا
 کرتے تھے۔ انہیں وہاں جا کر ان ممالک کے باشندوں کے طور و طریق ان
 کے افکار و خیالات اور وہاں کی طرز حکومت کے مطالعہ کا بہترین موقع ملتا
 تھا، جس سے ان کی سیاسی عقل نہایت تیز ہو گئی تھی۔ یہی لیاقت حضرت
 معاویہؓ کو ورثہ میں ملی۔

حضرت معاویہؓ میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے، ان کی ہمدردیاں
 حاصل کرنے اور ان کے غیظ و غضب اور جوش و خروش کو نرمی و برابری
 اور عطایا و صلوات سے فرو کرنے کا بڑا ہنر تھا۔ ان کی نرمی اور بردباری اپنے
 عیان و انصار اور مخالفین سب کے ساتھ یکساں تھی، اپنے عہد میں تلوار
 کا استعمال انہوں نے بہت کم کیا۔ جب تک انہیں کامل یقین نہ ہو جاتا۔
 کہ اگر مخالفین پر سختی نہ برتی گئی تو یہ چیز ان کی سلطنت کے لئے سخت خطرہ
 بن جائے گی، اُس وقت تک وہ تلوار کو میان سے نہ نکالتے تھے۔ آپ
 کی نرمی اور بردباری ضرب المثل بن چکی تھی۔ آپ نے اپنے مخالفین سے
 رحم کا سلوک کر کے آئندہ آنے والے حکام کے لئے سیاست میں ایک نئی

مثال قائم کر دی اور آپ کی شخصیت فرما زواؤں کے لئے آج تک
ایک روشن عینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس سے حکام وقت اپنے لئے
راہ عمل متعین کر سکتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے :-

”میں اُس وقت تک اپنی تلوار نہیں اٹھاتا۔ جب تک

میرا ورہ کام دیتا رہتا ہے۔ اور میں اُس وقت تک اپنے

دُرسے کو استعمال نہیں کرتا۔ جب تک میری زبان کام سے

سکتی ہے۔ اگر میرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان بال

برابر بھی تعلق قائم ہو تو وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب

لوگ اُسے کھینچیں گے تو میں اُسے ڈھیلا چھوڑ دوں گا۔ اور

جب وہ اُسے ڈھیلا چھوڑیں گے تو میں اُسے کھینچ لوں گا۔“

ایک مرتبہ لوگوں نے شکایت کی کہ آپ نے سختی سے کام لینا شروع

کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا :-

”میں اُس وقت تک لوگوں اور اُن کی زبانوں کے درمیان حائل

نہیں ہوتا۔ جب تک وہ میرے اور میری حکومت کے درمیان حائل

نہیں ہوتے۔“

وراصل یہ کہنے سے آپ کا مقصد حجاز بن عدی اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے واقعے کو جائز ٹھہرانا تھا۔ آپ ابتدا میں ان لوگوں سے انتہائی درگزر سے پیش آتے رہے لیکن جب معاملہ بیان تک پہنچ گیا کہ انہوں نے عوام کو کھلم کھلا آپ کے خلاف بغاوت پر اکسانا اور اہل بیت کی خلافت کا زور شور سے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ تب آپ کی بھی طاقت احتساب حرکت میں آئی اور آپ نے انہیں قتل کرادیا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت معاویہؓ اس وقت تک لوگوں کے خیالات اور عزائم سے تعرض نہ کرتے تھے۔ جب تک انہیں بغاوت کے پھوٹ پڑنے اور فتنہ کے پھیل جانے کا ڈر نہ ہوتا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اکثر لوگ اپنی زبانوں سے ایسی ایسی باتیں نکالتے اور اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جنہیں پورا کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی تمام لوگوں کی رضا اور خوشنودی کا حصول بھی ناممکنات میں سے ہے۔ اس لئے جب تک معاملہ باتوں تک محدود رہتا اور اس سے بغاوت اور فتنہ انگیزی کا اندیشہ نہ ہوتا، اس وقت تک آپ لوگوں کو خیالات و افکار کی آزادی سے بہرہ ور کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب معاملہ اس حد تک بڑھ

جانا کہ لوگ اپنے باغیاں ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لئے طاقت کے
 استعمال کو ضروری خیال کرنے لگتے اور ملک میں ایک عام فساد اور شورش
 برپا کر دیتے، تب آپ یقیناً سختی کا سلوک کرتے تھے اور ایسے لوگوں کی
 طاقت و قوت کو بزور کچل کر رکھ دیتے تھے۔ تاہم آپ تمام حالات پر کڑی
 نظر رکھتے تھے اور برابر اپنے مشیروں سے ملکی معاملات کے متعلق مشورہ کرتے
 رہتے تھے۔ اگر کسی شخص کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ وہ آپ کے دشمنوں سے
 تعلقات بڑوت رکھتا ہے یا ایسی باتیں اپنے منہ سے نکالتا ہے جو آپ کے
 خلاف ہوتی ہیں یا ایسی رائے دیتا ہے جو آپ کی رائے کے برعکس ہوتی
 ہے۔ تب بھی آپ اسے کوئی اہمیت نہ دیتے تھے اور جیسا کہ لکھا جا چکا
 ہے۔ جب تک وہ کھلم کھلا بغاوت پر آمادہ نہ ہو جاتا تھا اس سے تعرض
 نہ کرتے تھے۔ حضرت معاویہؓ نے اپنی سلطنت کے استحکام اور اپنی سیاسی
 دعوت کو کامیاب بنانے کے لئے کئی موثر طریقے استعمال کئے آپ نے مساجد
 اور مذہبی چھاؤنیوں میں مقررین اور واعظین کا تقرر کیا جو لوگوں کے سامنے
 آپ کی تعریف و توصیف، حکومت کی شان و شوکت اور آپ کے کارناموں
 کی داستانیں بیان کیا کرتے تھے۔ اس طریقہ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ

حضرت علیؑ نے صفین سے واپسی پر نمازوں میں اپنی فتح کے لئے دعائیں مانگنی اور اپنے مخالفین کے لئے بددعا میں کوئی شروع نہیں کیا۔ حیب حضرت معاویہؓ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے بھی اسی طریقہ پر عمل کرنا چاہا۔ چنانچہ آپ نے بعض لوگوں کو اس غرض کے لئے جانا اور انہیں حکم دیا کہ وہ صبح اور مغرب کی نمازوں کے بعد ان کی اور اہل شام کی تعریف و توصیف بیان کریں جس سے لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہوں۔ دمشق کے علاوہ مملکت کے دیگر شہروں میں بھی آپ نے یہی طریقہ رائج کروایا۔

اس طرح باججا مجالس کا سلسلہ شروع ہو گیا، جن میں یہ مقررین لوگوں کو غلط نصیحت کرنے، اپنی تقریروں کے ذریعے انہیں حکومت کا مطیع و فرمانبردار بننے اور سلطنت کے استمکام کے لئے ہر قسم کی فریبانی پیش کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ طریق کار یہ تھا کہ صبح کی نماز کے بعد امام سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف منکر کے بیٹھ جاتا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد حضرت معاویہؓ آپ کے خاندان اور آپ کے لشکروں کی تعریف و توصیف شروع کر دیتا اور آپ کی کامیابی اور آپ کے

و دشمنوں اور مخالفوں کی ناکامی کے لئے دعائیں مانگتا۔ بعض واعظین نے تقریر اور دعا کے وقت اپنے ہاتھ بھی اٹھالیتے مثلاً سلیم ابن عترہ جو حضرت عمرؓ بن الخطاب کے زمانہ میں آپ کی فوج میں اسی غرض کے لئے مقرر تھا، ہاتھ اٹھا کر لمبی دعائیں مانگا کرتا تھا۔

تاریخ سے صرف اسی قدر ثابت ہے کہ واعظین اور مقررین اپنی تقریر میں حضرت معاویہؓ کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے اور آپ کی کامیابی اور آپ کے مخالفین کی ناکامی کے لئے دعائیں مانگا کرتے تھے لیکن جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ حضرت معاویہؓ نے ہر خطبہ کے بعد حضرت علیؓ کو برا بھلا کہنے اور آپ پر لعن طعن کرنے کی رسم جاری کی یہ بالکل بے بنیاد ہے اور تاریخ سے اس کا کوئی واقعی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ رسم دراصل مردان بن حکم نے جاری کی تھی۔ حضرت معاویہؓ اس الزام سے قطعی طور پر بری ہیں۔ البتہ

۱۴۰۰ اپنے دشمنوں کو ہر عام برا بھلا کہنے کی رسم جو پہلی صدی ہجری میں شروع ہو چکی تھی۔ آج بھی اپنے مخالفین کا مقابلہ کرنے اور ان سے انتقام لینے کا ایک آسان ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ رسم تیرہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی بنو زاسی طرح برقرار ہے اور مختلف طبقوں کی طرف سے خلفائے راشدینؓ نیز امویوں اور عباسیوں پر بدستور لعن و طعن جاری ہے بعض لوگ تو سب شتم

(رقیبہ حاشیہ صفحہ ۱۴۰۰)

حضرت علیؑ اپنے خطبوں اور تقریروں میں امویوں کو برابر برا بھلا کہتے رہتے تھے جس کا نتیجہ آپ کی توقعات کے بالکل برعکس نکلا اور لوگوں کے دلوں میں اندر ہی اندر خود آپ ہی کے خلاف ناراضی کے جذبات پڑ رہے گئے۔

(لقبہ ہاشمیہ صفحہ ۱۰۰) کو اپنے مذہب کا ایک جزد سمجھتے ہیں بعض کی دیدہ نہی اس حد تک چلی ہے کہ انہوں نے شیخینؒ کو لغو و بالہ "بائن قریش" کا لقب لے رکھا ہے یہ ان کی پاکباز اولاد پر بھی طعن و تیش کرنے سے باز نہیں رہتے۔ عباسیوں کے زمانہ میں یہ رسم شدت سے جاری تھی جو شخص ان کے اقتدار اور حکومت کی مخالفت کرتا وہ ان کے لعن طعن سے بچ نہ سکتا تھا معتقد نے حسب سابق معاویہؓ کو برسرِ منبر برا بھلا کہنے کا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا۔ لیکن اپنے وزیر کے متنبہ کرنے پر کہ اگر یہ سلسلہ بدستور جاری رہا تو بالآخر عوام بھڑک اٹھیں گے۔ وہ باز آگیا۔ معتقد نے مصر اور شام کی ولایت پر قبضہ کر لینے کی وجہ سے ابن طولون کو بھی منبروں پر برا کہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ چنانچہ بغداد اور تمام عراق کی مسجدوں میں اس کے خلاف رت و دشم کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے جواب میں ابن طولون بھی مصر کی تمام مسجدوں میں معتقد پر لعنت و ملامت کرایا کرتا تھا۔ اسلامی نقطہ نظر سے اگر اس مسئلہ کو دیکھا جائے تو سوائے کفار پر لعنت بھیجنے کے اور کسی پر لعنت بھیجنی جائز نہیں ہے۔ (مؤلف)

حضرت علیؑ کی طرح حضرت معاویہؓ سے بھی ایک زبردستی سیاسی غلطی سرزد ہوئی اور وہ یہ کہ آپ نے اپنی مردوجہ سیاست کے بالکل برعکس (چوڑھی اور بربادی پر مبنی تھی) عراق میں زیادہ کو کھلی چھٹی سے وی کہ وہ وہاں کے لوگوں سے جیسا برتاؤ چاہے کرے۔ اس کے نتیجہ میں وہاں کے لوگوں میں حضرت معاویہؓ کے خلاف نفرت کے جذبات ابھرنے لگے۔ حالانکہ آپ کو چاہئے تھا کہ عراق میں اپنی سیاست کو دوسرے علاقوں میں رائج کر دے سیاست سے ہم آہنگ رکھتے۔

لعن و طعن کا یہ سلسلہ اس قدر وسیع ہوا کہ حضرت علیؑ کے حامی اپنی جگہ امویوں پر کھلم کھلا سب و شتم کرنے لگے اور اموی حضرت علیؑ کے حامیوں کو لعنت و ملامت کے تیروں کا نشانہ بنانے لگے۔ چنانچہ ایک ہزار ماہ تک حضرت علیؑ کو سبروں پر بڑا بھلا کہا جاتا رہا۔ بالآخر حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز نے اپنے عہد میں اس بدعت کو ختم کیا جس آیت سے سے آپ نے استدلال کر کے اس فعل شنیع کو روکا وہ یہ تھی **دینا اغفرنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان** و اے ہمارے پروردگار! ہم پر اور ہمارے ان بھائیوں پر اپنی معفرت نازل فرما جو ہم سے پہلے

ایمان لائے) ایک اور روایت کے بموجب آپ نے اس آیت سے
 استدلال کیا تھا۔ ان اللہ یا مر بالعدل والاحسان وایتاء
 ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر ویقیناً اللہ تعالیٰ عدل
 واحسان اور قریبی عزیزوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نیز فحش اور
 نامعقول باتوں سے روکتا ہے)

جہاں اموی منبروں پر چڑھ کر حضرت علیؑ اور علویوں کو برا بھلا کہتے
 تھے۔ وہاں علوی بھی ہر نماز کے بعد بنو امیہ پر لعنت بھیج کر اپنے دلوں
 کو ٹھنڈا کرتے تھے۔

حضرت معاویہؓ حضرت عمرؓ بن الخطاب کی طرح اپنی رعیت کے
 احوال جاننے کے بڑے خواہشمند تھے تاکہ ان کی نکالیف کو دور کیا جائے
 آپ ہی کی پیروی میں زیاد بن ابیہ، عبد الملک اور حجاج نے بھی یہی
 طریقہ اختیار کیا تھا۔

جہاں تک حضرت معاویہؓ کے اپنے خاندان (بنو امیہ) کے ساتھ
 تعلق کا سوال ہے بغیر کسی شک و شبہ کے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ

آپ نے انہیں ڈھیل دینے اور اس طرح فتنہ فساد کو بھڑکانے کی مدد کی
 نہیں کی۔ مگر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آپ نے اپنے قریبی
 عزیزوں کی خدمات سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن آپ نے انہیں کبھی عراق
 جیسے اہم علاقے کی ولایت سپرد نہیں کی۔ کیونکہ اس طرح وہاں شورش
 اور بد نظمی کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ انہوں نے بنو امیہ کو زیادہ تر حجاز جیسے
 پرسکون علاقوں کی ولایت سپرد کرنے پر ہی اکتفا کی۔ جب کبھی اپنے
 خاندان کے کسی شخص کو آپ حاکم بنانا چاہتے تو سب سے پہلے اسے
 طائف کا والی بناتے۔ اگر وہ وہاں اپنا کام حسن و خوبی کے ساتھ انجام
 دیتا اور وہاں کے باشندے اس سے مطمئن ہوتے تو مکہ کی ولایت بھی اس
 کے سپرد دیتے۔ اگر ان دونوں شہروں میں وہ اپنا کام تسلی بخش طور پر
 انجام دیتا اور حضرت معاویہ کی توقعات کو بہتر طریقے سے پورا کرتا تو طائف
 اور مکہ کے علاوہ اُسے مدینہ کا والی بھی بنا دیتے۔ لیکن ان والیوں کو
 برابر متنبہ کرتے رہتے تھے کہ ان کے مستقبل کی بہتری اور اُسند ترقی کا
 مدار صرف اس بات پر ہے کہ وہ کس حد تک خلیفہ کی سچی فرمانبرداری اور
 خدمت گزاری کرتے ہیں۔

حضرت معاویہؓ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اپنے قریبی عزیزوں کی فروگذاشتوں اور کسی حد تک خود سری کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہؓ کو خوف تھا کہ اگر انہیں بڑھیل دی گئی تو کہیں وہ اپنے علاقہ میں اپنے قدم مضبوطی سے نہ جما لیں۔ کیونکہ بنو امیہ میں سے ہر شخص اس بات کا بخوبی پتہ تھا کہ معاویہؓ کے بعد وہی خلافت کا حق دار ہے اور آپ کے بعد سلطنت کا تاج اسی کے سر پر رکھا جانا چاہئے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امویوں نے ہر موقع پر حضرت معاویہؓ کی زبردست اعانت کی تھی اور انہی کی امداد کے بل بوتے پر آپ خلافت کی گدی پر تمکن ہو سکے تھے۔ اس لئے طبعی طور پر حکومت میں ان کا زیادہ حق ہونا چاہئے تھا۔ لیکن آپ نے انہیں اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ آپ ملکی اقتدار حکومت کا غلبہ اور خلافت کی نشان دہی شکست اپنے بیٹے اور بنو صفیان کی اولاد میں ہی دیکھنا چاہتے تھے آپ کے اسی انداز فکر کے باعث مروان اور دیگر امویوں میں آپ کے خلافت غنیط و غضب کے جذبات مشتعل ہونے لگے تھے۔

حضرت معاویہؓ نے بنو امیہ کو پدایا اور تحالف دینے میں کبھی سخیل

سے کام نہیں لیا۔ بلکہ اس معاملہ میں نہایت فرارخ ولی برقی اور انہیں ہمیشہ
 گراں قدر و طاقت سے نوازا۔ لیکن ان پیش قرار عطا یا اور بخششوں کے
 باوجود انہیں کبھی مملکت کے امور میں زیادہ اثر اور رسوخ بڑھانے کی
 اجازت نہیں دی اور عراق جیسے اہم علاقوں کی ولایت سے انہیں بالکل
 محروم رکھا۔ البتہ آپ کے بھائی عقبہ (جنہیں آپ نے مصر کا حاکم بنایا)
 اور عبداللہ بن عامر (جنہیں بصرہ کی ولایت سپرد کی) اس قاعدہ سے
 مستثنیٰ تھے۔ آپ نے ان دونوں کو بعض خاص سبب کی بنا پر بامرِ مجبوری
 ان علاقوں کا حاکم مقرر کیا تھا۔

اس ذیل میں حضرت معاویہؓ کی ایک عجیب عادت کا تذکرہ ہے۔ محل
 نہ ہوگا۔ وہ عادت یہ تھی کہ آپ اکثر اوقات سپاسی جوڑ توڑ کے ذریعہ اپنے
 ان اقارب کے درمیان نفرت کے جذبات پیدا کروا کرتے تھے۔ جن
 کے متعلق آپ کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں وہ اپنے اثر و رسوخ کے ذریعہ زید
 اور اس کی اولاد کے لئے خطرہ کا باعث نہ بن جائیں۔ اس سلسلہ میں
 مردان بن حکم اور سعید بن عاص کی طرف سے آپ کو خاص طور پر اندیشہ لگا
 رہتا تھا۔ مردان بن امیہ کا نہایت معزز فرد تھا اور سعید بن عاص بھی بڑا مہم

میں زبردست اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا۔

۶۴۴ھ میں حضرت معاویہؓ نے سعید بن عاص کو مدینہ کی ولایت سے معزول کر کے اس کی جگہ مروان کو واپس لایا اور اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ نے سعید بن عاص کو لکھا کہ "وہ مروان کا گھر منہدم کر دے، اس کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لے اور فدک کی جو جاگیر اسے دی گئی تھی۔ اس سے واپس لے لے۔" لیکن سعید بن عاص نے اس حکم پر عمل نہ کیا اور خاموش ہو رہا۔ حضرت معاویہؓ نے دوبارہ یاد دہانی کرائی۔ لیکن سعید پھر بھی خاموش رہا۔ مگر دونوں فرماں سنبھال کر رکھ لئے۔

جب ادھر سے کوئی جواب نہ گیا تو حضرت معاویہؓ نے ناراض ہو کر سعید کو معزول کر کے مروان کو اس کی جگہ حاکم بنا دیا اور لکھا کہ سعید بن عاص کا مال و اسباب ضبط کر لیا جائے اور اس کے گھر کو منہدم کر دیا جائے۔ مروان نے حکم کی تعمیل کرنی چاہی اور سعید کے گھر کو منہدم کرنے کیلئے موقع پر پہنچ گیا۔ سعید نے اس سے کہا:

"اے ابو عبد اللہ! کیا تم میرا گھر منہدم کر دو گے؟"

مروان نے جواب دیا: "بیشک! امیر المومنین نے مجھے ایسا کرنے کے لئے لکھا ہے۔ اگر وہ تمہیں میرا گھر منہدم کرنے کا حکم دیتے تو تم بھی ضرور حکم کی تعمیل کرتے۔"

سعید نے کہا: "میں تو ایسا نہ کرتا۔"

مروان نے جواب دیا: "میں کس طرح یقین کر لوں؟"

اس پر سعید نے اپنے غلام سے حضرت معاذؓ کے خطوط لانے کو کہا۔ چنانچہ وہ دروازوں خط لے آیا۔ جب مروان نے انہیں پڑھا تو اسے بڑا تعجب ہوا اور اس نے سعید سے پوچھا کہ "جب امیر المومنین نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا تو تم نے حکم کی تعمیل کیوں نہ کی اور مجھے اس سے مطلع کیوں نہ کیا؟"

سعید نے کہا: "بات دراصل یہ ہے کہ امیر المومنین نے ہم دونوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے کے لئے یہ طریق استعمال کرنا چاہا تھا۔ ان کی سوائے اس کے اور کوئی غرض نہ تھی۔ تمہیں مطلع کرنے کے لئے میں موقع کا منتظر تھا جو اب آ گیا ہے۔"

مروان نے کہا: "عدا کی قسم! تم مجھ سے بہتر ہو۔" یہ کہہ کر وہ بغیر

حکم کی تعمیل کئے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سعید حضرت معاویہؓ کو حسب ذیل خط لکھا:-

”امیر المؤمنین نے باوجود درجہ علیم اور بار بار ہونے کے ہم قرابت داروں میں لفاق اور بھپوٹ ڈالنے، قطع رحمی کرنے اور بیماری ادلا دوں میں بھی ایک دوسرے سے نفرت و عداوت کے جذبات پیدا کرنے کی جو کوشش کی ہے۔ اس سے مجھے بے حد تعجب ہوا۔ خدا کی قسم! اگر ہم ایک باپ کی اولاد نہ ہوتے تو ہم امیر المؤمنین خلیفہ منلذیم کی حمایت کیلئے کبھی جمع نہ ہوتے۔ اس اتحاد و اتفاق کا یہ تقاضا تھا کہ امیر المؤمنین بھی اس کی نگہداشت کرتے اور اسے مضبوط کرنے کے لئے ہر امکانی کوشش کرتے۔“

اس کے جواب میں حضرت معاویہؓ کا مہذرت کا خط آیا اور آپ نے اُندہ ان سے حسن سلوک کرتے رہنے کا وعدہ کیا۔ اس واقع کے بعد ایک مرتبہ سعید حضرت معاویہؓ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے مردان کے متعلق پوچھا، اس نے بہت اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کیا جس پر آپ کہنے لگے:-

”اس امر کی کیا وجہ ہے کہ تمہارے اور مروان کے درمیان مخالفت

نہیں ہوئی؟“

اس نے جواب دیا۔

”میں ڈرتا تھا کہ چونکہ مروان کو نوا مبیہ میں بڑی مضبوط پوزیشن حاصل

ہے۔ اس لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر سختی کرنے سے لینے کے دینے

پڑ جائیں۔ دوسری طرف مروان کو کبھی میری پوزیشن کا احساس تھا۔ اس لئے

اس نے بھی مجھ سے سختی نہیں برتی۔“

حضرت معاذؓ نے پوچھا۔ ”اب تمہارا اس کے ساتھ حسن سلوک کیا

ہے۔“

سعید نے جواب دیا۔ ”میں ہر آن اس کی خیر خواہی چاہتا ہوں اور

اس سے روت سے پیش آتا ہوں۔“

حضرت معاویہؓ کے مددگار

حضرت عمرو بن العاص، حضرت منیر بن شعبہ اور زیاد بن ابیہ کے علاوہ حضرت معاویہؓ کے سات بہترین مددگار اور بھی تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔ (۱) عبدالرحمن بن خالد بن ولید (۲) حبیب بن مسلمہ (۳) لیسر بن ابی ارطاة (۴) ضحاک بن قیس (۵) ابوالاعور سلی (۶) حمزہ بن مالک (۷) شرجیل بن سمط کندی۔ یہ لوگ حضرت معاویہؓ کے ان زبردست معاونین میں سے ہیں جن پر آپ کو پورا اعتماد تھا۔ لہذا آپ مطمئن تھے کہ ان لوگوں کے سپرد جو کام بھی کیا جائے گا وہ اسے نہایت عمدگی اور خوبی کے ساتھ انجام دیں گے۔

ان لوگوں سے امیر معاویہؓ کا تعلق حاکم و محکوم سے زیادہ دوست
 اور محب کا تھا۔ ان پر جو اعتماد آپ کو تھا وہ زیادہ مغیرہؓ، مروان بن حکم
 اور سعید بن عاص پر بھی نہ تھا۔ زیاد اور امیر معاویہؓ کا رابطہ محض سیاسی
 مصالحت کی بنا پر تھا۔ امیر معاویہؓ کو زیاد کی ضرورت تھی اور زیاد کو حضرت
 معاویہؓ کی۔ لیکن مندرجہ بالا لوگوں کا شمار آپ کے دلی دوستوں اور نہایت
 فخلص ساتھیوں میں تھا۔ ان میں سے اکثر اہلی شباب کی منزلیں طے کر
 رہے تھے کہ شام کی ابتدائی جنگوں میں اسلامی افواج کے ساتھ بھیج دئے
 گئے۔ بعض نے حضرت معاویہؓ کے بھائی زید بن ابوسفیان کے ماتحت قابل
 قدر کارنامے سرانجام دئے۔ زید کے بعد جب حضرت معاویہؓ شام کے
 حاکم مقرر کئے گئے تو ان لوگوں نے آپ کی ماتحتی میں کام کرنا شروع کیا
 اور ہر اڑھے وقت میں آپ کی دل و جان سے خدمت کی۔ اس سے ان
 کے اس تعلق اور اخلاص کا پتہ چلتا ہے جو انہیں حضرت معاویہؓ کے ساتھ
 تھا۔

حضرت معاویہؓ نے (اور آپ کی تقلید میں آپ کے بعد آنے والے
 اموی سلاطین نے بھی) یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ اپنے فخلص اور مضبوط

والیوں کو ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں تبدیل نہ کرتے تھے بلکہ انہیں
 جس جگہ مقرر کرتے تھے، آخر تک انہیں وہیں رکھتے تھے۔ یہ طریقہ حضرت
 معاویہؓ کے اقتدار کی مضبوطی اور ان کی سلطنت کے استحکام میں انتہائی
 عمدہ و معاون ثابت ہوا۔ کیونکہ عمال کے تبدیل کر دینے سے نظم و نسق کی
 مضبوطی میں فرق آجاتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے حکومت کی ہیبت جاتی
 رہتی ہے۔ خصوصاً اس موقع پر جب کہ کسی والی کا تبدیلی لوگوں کے اصرار پر
 عمل میں آئے۔

حضرت معاویہؓ ان باتوں کو خوب سمجھتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے
 زیادہ کو اس وقت تک بصرہ کا حاکم مقرر کئے رکھا۔ جب تک زیادہ کو آسمان
 سے بلاوانہ آیا۔ حضرت مغیرہؓ کو اس وقت تک کو فہ میں رکھا۔ جب تک ان
 کی وفات نہ ہو گئی۔ حضرت عمرو بن العاصؓ اس وقت تک مصر کے حاکم رہے
 جب تک ان کا انتقال نہ ہو گیا۔ اسی قسم کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔
 لیکن حجاز میں حضرت معاویہؓ کی سیاست اس کے برعکس تھی۔ اس
 کی وجہ یہ تھی کہ حجاز کے حالات اس بات کے مقتضی تھے کہ وہاں والیوں
 میں تبدیلی اور تخریب سے کام لیا جائے۔ بایں ہمہ حجاز میں بھی حضرت معاویہؓ

کے مقرر کردہ والیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وہاں ولایت میں دو بدلی
 عموماً اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے والی کے بعد دوسرا والی اور دوسرے کے
 بعد پہلا والی مقرر کر دیا جاتا۔

حضرت معاویہؓ صرف اسی شخص کو والی مقرر کرتے تھے جس کے متعلق
 انہیں یقین ہوتا تھا کہ وہ ان کی سلطنت کی مضبوطی کے لئے ہر دم کوشاں
 رہے گا۔ اور کسی وقت بھی ان کی حمایت ترک کر کے اپنے قدم پیچھے نہ
 ہٹائے گا۔ لیکن ہمارے اس بیان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پیش نظر
 محض اپنے اقتدار کی مضبوطی تھی۔ اور رعایا کی ضروریات اور تکالیف کا
 آپ کو احساس نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی علاقہ کا حاکم مقرر
 کرتے وقت آپ اس بات کا بھی اچھی طرح اندازہ کر لیتے تھے کہ آیا یہ شخص
 رعایا کی خیر خواہی اور بھلائی میں کوشاں رہے گا؟ لوگوں کے حالات سے
 آگاہی حاصل کرے گا؟ ان کی تکالیف دور کرے گا یا اور ایسے طریقے
 اختیار کرے گا جن سے رعایا کو سکون اور آرام پہنچے گا؟ اس اندازہ کے
 بعد بھی اگر والی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہتا تو آپ اُسے

سی دوسری جگہ تبدیل کر دیتے تھے۔ آپ ایک حقیقی عامل چاہتے تھے۔
 جو اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھائے۔ ایسا عامل نہیں جو آپ کو صرف
 دولت اکٹھی کر کے دے۔ اس ذیل میں یہ واقعہ پڑھنے کے قابل ہے۔
 ایک مرتبہ زیاد نے والی خراسان کو خط لکھا کہ ”وہ مالِ غنیمت میں حاصل
 ہونے والا سونا اور چاندی فوج میں تقسیم نہ کرے بلکہ حضرت معاویہؓ کو بھیج
 دے کیونکہ اُن کے تازہ خط سے اُن کا یہی منشا معلوم ہوتا ہے۔“ اس پر
 والی خراسان نے جواب بھیجا کہ ”آپ نے اپنے رقعہ میں امیر المومنین کے
 خط کا ذکر کیا ہے لیکن میں ہمیشہ کتاب اللہ کو امیر المومنین کے احکام پر مقتدا
 سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس گستاخی کی پاداش میں مجھے مصائب جھیلنے
 پڑیں۔ لیکن میرا اعتقاد ہے کہ اگر کسی بندے پر زمین و آسمان بھی پھٹ پڑیں
 لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی
 کا سامان خود بخود مہیا فرما دے گا۔ والسلام۔“

یہ خط بھیجنے کے بعد والی خراسان نے تمام سونا چاندی لوگوں میں
 تقسیم کر دیا اور خلیفہ کے احکام کی پروا نہ کی۔ کیونکہ اس کے سامنے جو ضرورت
 تھیں۔ وہ حضرت معاویہؓ اور زیاد کے سامنے نہ تھیں۔

اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہؓ کے زمانہ میں ایمان دار اور
متدین عامل کو آزادی حاصل تھی کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لئے جو طریقہ چاہے
اختیار کرے۔ خواہ اسے ایسا کرنے میں خلیفہ کے احکام کی خلاف ورزی
ہی کرنی پڑے۔

زیاد بیان کرتا ہے کہ "امیر المؤمنین نے صرف ایک مرتبہ مجھ پر غلبہ
حاصل کیا۔ ہوا یہ کہ میں ایک شخص کو سزا دینی چاہتا تھا لیکن وہ بھاگ کر
حضرت معاویہؓ کے پاس چلا گیا۔ حضرت معاویہؓ نے اسے کچھ نہ کہا اور
دار الخلافہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس پر مجھے بڑا غصہ آیا اور
میں نے انہیں لکھا کہ اگر مجرم لوگ میرے پاس سے بھاگ بھاگ کر آپ کے
پاس پناہ گزیں ہوتے رہے تو اس طرح میرے کام میں سخت خلل واقع ہوگا
اس کے جواب میں حضرت معاویہؓ کا یہ خط آیا:-

"یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم دونوں عام لوگوں کے لئے ایک ہی سیاست
استعمال کریں۔ ہم میں سے ہر شخص کا مقام علیحدہ ہے اور اسے اپنے
مناسب مقام پر ہی کھڑا ہونا چاہئے۔ ہمارا مقام سختی اور شدت کا ہے
تم لوگوں سے سختی برتو۔ میرا مقام نرمی اور رحم والی کا ہے۔ میں لوگوں سے

زرمی اور رحم دلی برتوں گا۔ ایسی طرح لوگ ہمارے ہاتھوں آرام حاصل کر سکتے ہیں۔“

حضرت معاویہؓ کی یہ بات یقیناً بڑی دوراندیشی اور عقل مندی پر مبنی

ہوتی۔

روایات میں آتا ہے کہ اس زمانہ میں چار آدمیوں کا شمار چوٹی کے عقل مندوں میں کیا جاتا تھا (۱) حضرت معاویہؓ کا غور و فکر اور تدبیر میں جب نہ تھا۔ (۲) حضرت عمرو بن العاص کو بدیہہ گوئی میں کسال حاصل تھا۔ (۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ سیاست کی لائیکل گفتنیوں کو سلجھانے میں اپنی نظیر آپ تھے اور (۴) زیاد ہر کام کو نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے میں ماہر تھا۔

مورخین لکھتے ہیں کہ عرب کے عقل مند ترین صاحب الرائے اور ماہرین سیاست اشخاص یہ تھے (۱) حضرت معاویہ (۲) عمرو بن العاص (۳) مغیرہ بن شعبہ (۴) زیاد (۵) قیس بن سعد اور (۶) عبداللہ بن بدیل بن ورقارہ۔ ان میں اول الذکر چار اشخاص حضرت معاویہؓ کے ساتھ تھے اور انہوں نے آپ کی حکومت مضبوط کرنے میں کوشش کا کوئی وقت نہیں باقی

ہمیں چھوڑا۔ مود خذالذکر ودا شخاص حضرت علیؑ کی جماعت میں شامل تھے۔

حضرت معاویہؓ جہاں تک ممکن ہوتا تلوار استعمال کرنے کی بجائے
دوسرے طریقوں سے اپنا کام نکال لیتے تھے لیکن جب دوسرے تمام
طریقے ناکام ہو جاتے تھے تب تلوار استعمال کرنے اور سختی برتنے میں بھی
آپ کو باک نہ ہوتا تھا۔ مصر پر آپ نے حضرت عمرو بن العاص جیسے مدبر
اللسان کو حاکم بنایا تھا۔ کیونکہ مصر والے حضرت عثمانؓ کی شہادت میں
پیش پیش تھے اور انہیں مطیع کرنے کے لئے حضرت عمرو بن العاص جیسے
والی ہی کی ضرورت تھی۔ حضرت عمرو بن العاص کی وفات کے بعد آپ نے
اپنے بھائی عتبہ بن ابوسفیان کو وہاں کا والی مقرر کیا جو حضرت عمرؓ کے
زمانہ میں طائف کے والی اور وہاں کے صدقات کی وصولی کے نگران
تھے۔ عتبہ بہت فصیح البیان مقرر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ میں ان جیسا
کوئی خطیب پیدا نہیں ہوا۔ وہ اہل مصر سے بہت سختی کے ساتھ پیش آئے
اور اپنا رعب و داب، ہیبت اور خوف ان پر طاری کر دیا۔ ذیل میں ان کے
خطبات کے بعض نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔ جن سے ان کے خصائل

کا بنجی اندازہ ہو جائے گا اور یہ بھی علم ہو جائے گا کہ ان کی سیاست بھی
حضرت معاویہؓ کی سیاست سے کتنی مشابہ تھی۔

ایک خطبہ میں انہوں نے کہا:-

”اے اہل مصر! تمہاری زبانوں پر حق کی تعریف بہت کم سننے میں
آتی ہے کیونکہ تمہیں حق سے کوئی واسطہ ہی نہیں اور باطل کی مذمت
کبھی تمہاری زبانوں سے سننے میں نہیں آتی۔ کیونکہ تم تو ہو ہی باطل پرست
تمہاری مثال اس گدھے کی سی ہے جو اپنی پیٹھ پر کتابیں لئے جا رہا ہو اور
بوجھنے اُسے تھکا دیا ہو۔ اُسے ان کتابوں کا علم کوئی فائدہ نہیں دیتا
خدا کی قسم! میں تمہاری بیماری کا علاج تلوار سے نہیں کروں گا۔ میں اُس
وقت تک تلوار نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا کوڑا مجھے کافی ہو گا اور اُس
وقت تک کوڑا استعمال میں نہیں لاؤں گا جب تک میرا تسمہ کام دیتا ہے گا
میں اسی شخص سے مقابلہ کروں گا جو میرا مقابلہ کرے گا۔ وہ شخص جو مجھ سے
ڈرے گا مصیبتوں سے بچا رہے گا۔ اس لئے فضول باتیں نہ کہ کر دو اور
میری مخالفت کر کے اپنے لئے مصیبت مول نہ لو۔“

اس کے باوجود جب اہل مصر شرارتوں سے باز نہ آئے تو انہوں نے پھر

خطبہ دیا جس میں کہا :-

”میں نے ایک لمبے عرصہ تک تم لوگوں سے چشم پوشی اختیار کی اور
تمہاری خیر خواہی میں لگا رہا لیکن تمہاری مفسدہ پرواز طبیعتوں نے اس کی
قدر نہ کی اور تم برابر سلطنت کے خلاف سازشوں اور بزرگانِ سلف کی
تغنیوں میں مشغول رہے۔ اس لئے میں تمہیں متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اب
زمی کا وقت جاتا رہا ہے۔ میں کوڑے کو بڑی طرح تمہاری پٹیوں پر بڑوں
گا۔ اگر اس سے بھی تمہاری بیماری کا علاج نہ ہو سکا تو تلوار کی دھار سے تمہارا
فصیدہ کیا جائے گا۔ ہم نے تمہیں حکمت کی باتیں سنائیں لیکن تمہارے
دلوں نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تمہیں وعظ و نصیحت کی گئی مگر
تم نے اس پر مطلق دھیان نہ دیا۔ لہذا اب جبکہ تم سرکشی پر تلے ہوئے ہو،
تو میں بھی سزا دینے میں کمی نہ کروں گا۔ تاہم میں مایوس نہیں ہوں۔ خدا
کرے کہ تم سیدھی راہ اختیار کرو جس کے اختیار کرنے میں سراسر تمہارا
ہی فائدہ ہے۔“

ایک مرتبہ عقبہ و مشق آئے اور اپنے پیچھے کسی شخص کو اپنا نائب
پنا گئے۔ اس شخص نے لوگوں پر سختی کرنی شروع کی جس پر لوگوں نے بھی اس

سے تعاون کرنا چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر اُس نے عقبہ کو تمام حالات سے اطلاع دی۔ عقبہ فوراً مصر پہنچے اور مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے یہ خطبہ دیا۔

”اے اہل مصر! تم لوگوں کا غدر یہ ہے کہ میرے نائب کے مظالم کی وجہ سے تم نے اس سے تعاون ترک کر دیا۔ لیکن اس نے جو کچھ کہا تھا پورا کر دکھایا۔ پہلے اُس نے تمہیں ہاتھ سے سیدھا کرنا چاہا۔ لیکن جب تم سیدھے نہ ہوئے تو تمہیں سیدھا کرنے کے لئے اسے تلوار استعمال کرنی پڑی بہر حال جو کچھ ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب تم سے بیعت لی جائے گی۔ تم پر ہماری اطاعت واجب ہوگی اور ہم پر عدل و انصاف۔ البتہ جو شخص بد عہدی سے کام لے گا اُس کی ذمہ داری ختم سمجھی جائے گی۔“

اس پر چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ ”ہم اطاعت قبول کرتے ہیں۔ ہم فرما تیر داری اختیار کرتے ہیں۔“ عقبہ نے بھی جواب میں اُن کو یقین دلایا کہ وہ اُن سے عدل و انصاف کا سلوک کرے گا اور رحم و مروت سے پیش آئے گا۔

اس طرح عقبہ نے نہایت ہوشیاری سے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ انہوں نے اہل مصر کو دھمکی دے کر اطاعت کرنے پر بھی مجبور کر دیا اور وعظ

و نصیحت کے ذریعہ فتنہ کو بھی دور کر دیا۔

۱۲۱ھ میں حضرت حسنؓ سے صلح ہونے کے بعد جب حضرت معاویہؓ تمام مملکت اسلامیہ کے بلا شرکت غیرے مالک بن گئے تو عتبہ نے حج کے موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں لوگوں کو وہ پیشگوئی یاد دلانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کے متعلق ارشاد فرمائی تھی پھر کہا: "اے لوگو! اب ہم اس شہر کے حاکم ہو گئے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو ڈگنا اجر دیتا ہے اور برائی کا ارتکاب کرنے والے کو بگنی سزا کا مستحق بناتا ہے۔ اس لئے تم ہماری نافرمانی کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو اور اپنی نظریں ہمارے علاوہ اور کسی کی طرف نہ جھکاؤ۔ کیونکہ اس میں سراسر تمنا رہی نقصان ہے۔ بعض اوقات موت کی آرزو کرنے والا موت کے پنجہ میں گرفتار ہو ہی جاتا ہے۔ اس لئے اپنے واسطے عافیت کوشی کی راہ اختیار کرو۔"

ان اقتباسات کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ کے عمال نے کس طرح نئے نئے اسلوب بیان اختیار کر کے ان لوگوں کو جو فتنہ کی آخری حدود بھی پار کر چکے تھے، اپنی طرف مائل کیا۔ عتبہ اور ان جیسے

دیگر عمال نے اتھائی کاوش کے ساتھ عوام کی عقلوں اور دلوں کو اپنی طرف پھیرا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ سیاست میں دخل اندازی ترک کر دیں تاکہ ملکی نظم و نسق آسانی کے ساتھ چلایا جاسکے۔

ان عمال کی سیرت و کردار پر غور کرنے سے ایک عجیب انکشان ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ یہ لوگ رعایا کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور اپنے دشمنوں کو خوش کر کے اپنا مطیع و فرمانبردار بنانے کے لئے تو بے حساب خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن خود نہایت تنگی ترشی سے گزارہ کیا کرتے تھے اور کبھی اپنے لئے اموال جمع نہ کرتے تھے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ صفین میں حضرت معاویہؓ کی مدد کرنے کے صلہ میں جب حضرت عمرو بن العاصؓ کو دوبارہ مصر کی ولایت سپرد کی گئی تو آپ نے وہاں مالی لحاظ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔

حضرت عمرو بن العاصؓ مصریوں کے ساتھ عتبہ کی طرح سختی سے پیش نہ آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمرو بن العاصؓ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ لیکن عتبہ ادھیڑ عمر میں سے گزر رہے تھے۔ یہ طبعی بات ہے کہ بوڑھے لوگ حکومت کرتے وقت جوانوں کی طرح اپنی رعایا

پر سختی نہیں برتتے۔ بلکہ عموماً زمی سے پیش آتے ہیں۔

حضرت معاویہؓ کے دوسرے عمال بھی حسبِ حال اپنے اپنے طریقوں پر قائم تھے۔ بعض عتبہ کی طرح سختی سے کام لیتے تھے اور بعض حضرت عمرو بن العاص کی طرح خاموشی اور زمی سے کاروبارِ حکومت چلاتے تھے۔

حضرت معاویہؓ کا نظم نسق

پروفیسر نکلسن اپنی کتاب ہسٹری آف عربک لٹریچر
(HISTORY OF ARABIC LITERATURE) میں حضرت معاویہؓ کا ذکر
کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”حضرت معاویہؓ ایک تجربہ کار اور مدبّر سیاست دان تھے اپنی مملکت
کو متحد کرنے، مخالفین کو فرو کرنے، رعایا کے دلوں کو مسخر کرنے اور لوگوں
کے براہینگنہ جذبات کو سرد کرنے میں آپ مشہور فریبسی سیاست دان
”ریشیڈ“ کے ہم پلہ تھے۔ آپ کو انسانی طبائع کی معرفت اتنا عبور حاصل
تھا کہ آپ اپنی تمام مخالف جماعتوں کے اعتدال اور صائب الرائے

اشخاص کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔“

اس عبارت کے پہلے حصہ کے درست ہونے میں تو کوئی کلام نہیں
لیکن جہاں تک آخری جملہ کا تعلق ہے وہ واقعات سے پورے طور پر
منطقی نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرت معاویہؓ کا اپنی مخالفت جماعتوں کے تمام
اعتدال پسند لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لینا تاریخی حقائق کے برخلاف ہے
یہ تو درست ہے کہ آپ نے ان پر تسلط حاصل کر کے انہیں خاموش کر دیا
اور بظاہر وہ آپ کی حکومت پر راضی ہو گئے۔ لیکن ان کے دل بدستور آپ
کے خلاف تھے اور خفگی و ناراضگی کے جذبات ان کے سینوں میں برابر
بھڑکتے رہے۔ سلطنت پر آپ کے غلبہ و اقتدار کے باعث وہ زبانوں
سے تو اپنی دلی نفرت کا اظہار نہ کر سکتے تھے۔ لیکن بڑی بے صبری سے
اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مروج پاکر وہ دوبارہ سراٹھائیں
اور شور و شغب، فتنہ و فساد اور سرکشی و بغاوت کے شعلے بھڑکا سکیں۔
حضرت معاویہؓ نہایت عاقل، عالم، حلیم، عزم و ارادہ کے پکے
بحر سیاست کے مشاوری، میدانِ جہاننابی کے شہسوار اور دنیوی امور میں
ہر امر کے متعلق اسی کے موافق تدبیر کرنے والے انسان تھے۔ نرمی کے

موقعہ پر زمی اور سختی کے موقعہ پر سختی برتنا ان کا شیوہ تھا۔ لیکن بہر حال
 زمی ان پر غالب رہتی تھی۔ سخاوت میں آپ کا ہم پلہ اور کوئی نہ تھا۔
 آپ کے خزانے کے دروازے دشمنوں اور دوستوں دونوں کے لئے یکساں
 طور پر کھلے ہوئے تھے۔ داؤد شہس اور انعام و اکرام کے ذریعہ آپ لوگوں
 کی تسخیر کرتے۔ کینیوں اور عداوتوں کو دور کرتے اور لوگوں کو مملکت کی فرمانبرداری
 رعایا بناتے تھے۔ آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت عبدالرحمنؓ
 بن ابوبکرؓ، ابان بن عثمانؓ بن عثمان جیسے سرکردہ قریشی اور آل ابوطالب
 اکثر آیا کرتے تھے۔ آپ ان کی غایت درجہ مہمان نوازی اور عزت و تکریم
 کرتے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے تھے
 ان میں سے بعض لوگ آپ سے نہایت سختی سے بھی بات چیت کرتے
 تھے اور آپ کے منہ پر آپ کو برا بھلا کہتے تھے۔ لیکن آپ کبھی اس کی
 پروا نہ کرتے تھے اور منہیں کر ٹال دیتے تھے۔ کوئی شخص بھی انعام و اکرام
 حاصل کے بغیر آپ کے دربار سے واپس نہ جاتا تھا۔

ایک دن تیس بن سعد بن عباد، جو حضرت علیؓ کے بہت بڑے

دو گاروں میں سے تھے۔ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے کہا:

”اے قیس! میری خواہش ہے کہ میرے اور علیؓ کے درمیان جنگ
بند ہو جائے۔ کیا تمہارے زندہ ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا؟“
قیس نے جواب دیا:

”میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ جنگ اس وقت تک برابر جاری رہے
جب تک آپ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہنا ترک نہ کریں۔“
بطحاہر یہ ایک غصہ دلانے والی بات تھی۔ مگر معاویہؓ نے یہ سن کر بالکل
خاموش ہو گئے اور قیس کو کچھ نہ کہا۔

صرف یہی ایک مثال نہیں۔ اسی قسم کی اور بھی بیسیوں مثالیں اس
ضمن میں پیش کی جا سکتی ہیں۔

حضرت معاویہؓ نے اپنے دور حکومت میں کئی چیزیں ایسی ایجاد کیں
جو ان کے پیشروں نے کبھی استعمال نہیں کی تھیں :-
آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خلفاء کی حفاظت کے لئے باڈی گارڈ
کا تقرر کیا۔ آپ کے باڈی گارڈ اپنے ہاتھوں میں نیزے لئے آپ سے
آگے آگے چلتے تھے۔

آپ ہی نے سب سے پہلے مقصورہ بنوایا جس میں خلیفہ لوگوں سے

بالکل الگ ہو کر نماز پڑھایا کرتا تھا۔

آپ ہی سب سے پہلے مسلمان فرمانروا ہیں۔ جنہوں نے بیڑوں کے ذریعہ بحری لڑائیوں کا آغاز کیا اور جنگی جہاز بنانے کے لئے صور، عکہ اور طرابلس میں کارخانے قائم کئے۔ اس بیڑے کے ذریعہ آپ نے رومن مقبوضات پر پے درپے اور بھرپور حملے کئے۔ قبرص اور رودس کی فتح کے وقت آپ کے پاس سترہ سو جنگی جہاز تھے۔

ان آیات کے علاوہ آپ نے لشکروں کی تنظیم کی طرف بھی خاص توجہ کی۔ سپاہیوں کی تنخواہیں پہلے کی نسبت دوگنی کر دیں اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لئے ایک دن مقرر کر دیا۔

خوش قسمتی سے آپ کو کارکن بھی ایسے مل گئے جنہیں نظم و نسق کا وسیع تجربہ حاصل تھا۔ ان میں سب سے بڑھ کر زیاد تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، ضحاک بن قیس، ابوالاعول سلیمی، مسلم بن عقبہ، بصر بن عقبہ، بصر بن ابی اخطا، اور حبیب بن مسلمہ تھے۔ بعض اوقات آپ کے خاندان کے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ غلو ہیں اور نبوا شتم پر بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں اور انہیں کثرت سے

اپنی داد و دہش سے نوازتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا چاہئے۔ لیکن آپ کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں جو رقم فی الحال ان پر خرچ کر رہا ہوں جنگ کی صورت میں اس سے کہیں زیادہ رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ ڈاک کا انتظام بہتر بنانے میں بھی آپ نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ آپ نے ایرانی زمینداروں اور واقف کاروں کو جمع کیا اور ان سے ڈاک کی ترسیل کے سلسلہ میں مشورے طلب کئے۔ ان کے مشوروں کے مطابق ہی محکمہ ڈاک کی تشکیل کی گئی، جس سے تمام اطراف مملکت کی خبریں بہت قلیل عرصہ میں دارالخلافہ میں اور دارالخلافہ کی اطلاعات اطراف مملکت میں پہنچنے لگیں۔ ڈاک لانے لیجانے کا کام خچروں کے ذریعہ انجام پاتا تھا۔

”آپ نے دیوان خاتم نام کا بھی ایک محکمہ قائم کیا، جس میں تمام فرامین کی نقلیں رکھی جاتی تھیں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ شاہی فرمانوں میں ردوبدل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ دفتر قائم ہوا اور فرامین کی نقلیں رکھی جانے لگیں ردوبدل اور تحریف کا کوئی اندیشہ نہ رہا۔ دیوان خاتم یا نگران آپ نے عبداللہ بن اوس غسانی کو بنایا۔

آپ نے مملکت کے ہر شہر میں خید لوگ مقرر کر رکھے تھے جو ہر روز
 باشندگان شہر کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے کہ کیا ان کے ہاں کوئی
 بچہ پیدا ہوا ہے؟ یا کوئی مہمان آکر آتا ہے۔ جو شخص بتاتا کہ اُس کے ہاں
 یا اس کے جاننے والوں میں سے کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو
 وہ اس کا نام لکھ لیتے۔ اس طرح جو شخص کسی مہمان کا نام بتاتا تو مہمان کا
 نام وغیرہ بھی لکھ لیا جاتا۔ اس کے بعد وہ تمام نام سے مختصر کوائف کے رجسٹر
 میں درج کر دئے جاتے۔ اس طرح حکومت کو باشندگان شہر کی تعداد
 اور ہر قسم کے لوگوں کی نقل و حرکت کی خبریں برابر ملتی رہتی تھیں۔

حضرت معاویہؓ نے کاروبار سلطنت انجام دینے کے لئے عیسیٰ
 کو ملازم رکھنے میں بھی کوئی تامل نہیں کیا۔ حضرت عمرؓ اس معاملہ میں بہت سخت
 تھے۔ اور وہ عموماً کسی عیسیٰ کو حبیب تک وہ اسلام نہ لے آتا ملازم نہ لکھتے
 تھے۔ حضرت معاویہؓ نے شام کے ایک عیسیٰ سرجون بن منصور کو حکمہ مال

سہ بعض غیر مسلم حضرت عمرؓ کے دماغ میں بھی سرکاری ملازم تھے چنانچہ کوفہ میں حضرت عمرؓ
 کے حکم سے خزائن کے لئے جو بیت المال بنایا اس کی تعمیر کا مہتمم اعلیٰ درجہ نامی ایک مشہور عجمی
 تھیں جن کی زیر نگرانی تمام عمارتیں تیار ہوئی (الفاروق جلد دوم صفحہ ۶۰) (مترجم)

گزاری کا افسر مقرر کیا ہوا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ عہدہ آپ نے
 اس کے بیٹے منصور بن سرجون کے حوالے کر دیا۔ سرجون کا والد منصور فرات
 اسلامیہ سے پہلے ہرقل کی طرف سے شام میں محکمہ مال گزاری کا افسر تھا اور
 اس نے رومیوں سے جنگ کے دوران میں مسلمانوں کی عجیب طرح مڈکی تھی
 اس نے بادشاہ کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ "ہمیں اپنی فوج میں معتد بہ کمی کر دینی
 چاہئے۔ کیونکہ عینی زیادہ فوج ہوگی اخراجات بھی اتنے ہی زیادہ ہونگے
 اور دمشق کے خزانہ میں اتنا مال نہیں جو اتنے عظیم الشان لشکر کی ضروریات
 کا مکمل ہو سکے۔" یہ لکھنے سے دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ جب سپاہ یہ
 سنے گی کہ دمشق کے خزانہ میں اتنا مال نہیں جس سے انہیں تنخواہیں دی
 جا سکیں تو وہ مجبوراً تتر بتر ہو جائیگی اور مسلمان اس شہر پر آسانی سے قبضہ کر سکیں گے۔
 حضرت معاویہؓ ہر اس ہستی اور ہر اس طاقت سے فائدہ اٹھانے کیلئے
 تیار ہو جاتے تھے۔ جس کے متعلق انہیں خیال ہوتا تھا کہ وہ ان کی سلطنت
 کے استحکام میں مدد و معاون ہو سکے گی۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں غسان
 سلطنت سے قبل شاہان روم کی طرف سے آل حبشہ عرب شام کے
 اور شاہان کسریٰ کی طرف سے آل نصر عراق عرب کے عامل تھے۔

کا بادشاہ جلد بن ایم اپنے اوپر حد لگنے کے خوف سے روم بھاگ گیا تھا
 اور وہاں جا کر اپنے ارتداد کا اعلان کر دیا تھا حضرت معاویہؓ نے اپنے عہد
 میں اُسے دوبارہ مسلمان ہونے اور شام واپس آنے کی دعوت دی اور
 وعدہ کیا کہ اگر وہ واپس آجائے گا تو اُسے "غوطہ" کی جاگیر بخش دی جائیگی۔
 خلافت راشدہ میں دمشق کی حیثیت صرف شام کے صدر مقام کی
 تھی لیکن حضرت معاویہؓ کے عہد میں جب اُسے عروج نصیب ہوا اور
 آپ نے اسے اپنا دار الحکومت بنا لیا۔ تب اسلامی سلطنت کی سیاست
 بھی مدینہ سے وہیں منتقل ہو گئی۔ اہل شام پر حضرت معاویہؓ کی بہت
 زیادہ نظر عنایت تھی اور یہاں کے بیشتر لوگ کاروبار مملکت میں
 آپ کے شریک تھے صرف مسلمانوں پر ہی موقوف نہیں بلکہ ذمیوں کا
 قابل عنصر بھی کاروبار سلطنت میں آپ کا شریک تھا۔ حکومت اور
 سیاست کا محور ہونے کے باعث اطراف مملکت سے لوگ آ آ
 کر شام میں آباد ہونے لگے تھے۔ ان میں عرب بھی تھے
 اور عیسائی بھی، مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔
 نصارے کی اکثریت تو پہلے ہی سے شام میں آباد تھی۔

بصرہ سے قوم زط کے افراد آکر ساحلی علاقوں میں آباد ہو گئے اور کچھ نے انطاکیہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ فارس سے کچھ قبائل آکر بعلبک، حمص اور انطاکیہ سے لے کر سواحل اردن اور صوتز تک بس گئے۔ بصرہ اور کوفہ سے اسادرہ قبائل کی ایک جماعت آکر بعلبک اور حمص سے انطاکیہ تک پھیل گئی۔ ان کے علاوہ عربوں کے بھی بے شمار قبائل نے شام آکر سکونت اختیار کر لی۔ اور اصلی آبادی میں گھل مل گئے۔ غرض شام کا ساحلی علاقہ عربی اور عجمی آباد کاروں سے پٹ گیا۔

عربوں، ایرانیوں اور شام کے اصلی باشندوں کے ایک جاہلے کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ قومی منافرت نمودر آئی اور ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کا حریف بن گیا۔ جس وقت جزیرہ قبرص فتح ہوا تو وہاں کے باشندوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ خواہ وہ شام میں سکونت اختیار کر لیں خواہ رومی سلطنت میں چلے جائیں۔

حضرت معاویہؓ کے عہد میں جہاں دمشق اسلام کا سیاسی مرکز

ملے "زط" اور اصل سندھ کے باشندے تھے یہ لوگ سیاہ نام ہوتے تھے۔

لے اسادرہ کا شمار عجمی قوموں میں ہوتا تھا۔ یہ قبائل مدت سے بصرہ میں آباد تھے۔

بن گیا تھا۔ وہاں مدینہ دینی لحاظ سے عروج پر تھا۔ تمام بڑے بڑے
 جلیل القدر صحابہ اور فقیہہ وہیں مقیم تھے اور اپنے نور سے تمام عالم اسلام
 میں ضو ثانی کر رہے تھے آپ نے دمشق کو دار الخلافہ اس لئے بنایا تھا
 کہ آپ کو وہاں کے باشندوں کے اخلاص کی طرف سے کامل اطمینان
 تھا۔ اپنے طویل عہد امارت میں آپ وہاں کے لوگوں کے عادات و خصال
 اور ان کی سرشت سے اور وہاں کے لوگ آپ کی طبیعت سے اچھی طرح
 واقف ہو گئے تھے۔ ان کی طبائع میں امیر کی اطاعت کوٹ کوٹ کر
 بھری ہوئی تھی۔

دمشق کو دار الخلافہ بنانے کی ایک اور وجہ بھی تھی وہ یہ کہ دمشق
 حجاز کی نسبت بلا و اسلامیہ کے وسط میں واقع تھا۔ شام اپنے قدرتی
 وسائل کی فراوانی کے لئے مشہور تھا۔ صنعتی میدان میں اس کے ہمایہ
 ملک اس کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔ لشکر کی ضروریات کی ہر چیز یہاں
 سے پامسانی مہیا ہو سکتی تھی۔ فوجی حکام اور اہل کار کے لئے شام ایک
 بہترین تربیت گاہ تھا۔ اسی لئے دمشق کی حیثیت حضرت معاویہؓ اور
 آپ کے بعد آنے والے خلفاء کے عہد میں ایک ایسے مدرسہ کی سی رہی

جس سے سپہ سالار، امراء اور شکر تربیت پا کر نکلتے تھے۔

رائے عامر کو مسخر کرنے اور اس پر اثر ڈالنے کے لئے آپ نے کئی شاعروں کی خدمات بھی حاصل کیں، شعراء کی حیثیت اُس زمانہ میں ایسی ہی تھی جیسی آج کل صحافیوں کی ہے سلطنت کے استی کام اور عربی وطنیت کے قیام میں آپ نے شعراء سے بے حد کام لیا اور قبائل کی سرکھنے کے ناپسندیدہ کام سے ہٹا کر انہیں ایک اچھے کام کی تکمیل میں لگا دیا۔ حضرت معاویہؓ نے سلطنت کے دوسرے مشاغل میں مصروف ہو کر زراعت کی ترویج کی طرف سے غفلت نہ برتی۔ حجاز میں آپ نے خصوصیت سے اس جانب توجہ کی بخیر و معینوں کو آباد کیا اور انہیں سیراب کرنے کے لئے جا بجا کنوئیں کھدوائے اور جہاں ممکن ہو سکا بند بندھولائے۔ آپ کے اہل خاندان اور معاصرین بھی اس معاملہ میں آپ کے نقش قدم پر چلے اور حجاز نے اس زمانہ میں ایسی ترقی کی کہ بعد میں اسے کبھی ایسی ترقی نصیب نہ ہو سکی۔ آپ اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ اہل حجاز کا گزارہ محض عطایا، صدقات اور حج پر ہی رہے۔ کیونکہ آمدنی کے یہ ذرائع سرکار

غیر طبعی ہیں اور ان پر مستقل زندگی کی بنیادیں کبھی بھی استوار نہیں کی جاسکتیں۔
 حضرت معاویہؓ نے رومیوں سے اس شرط پر صلح کر رکھی تھی کہ رومی
 ایک مقررہ رقم بطور خراج ان کی خدمت میں سال بسال بھیجتے رہیں گے
 آپ نے بطور بریغمال چند معزز رومی بھی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔
 جو بعلبک میں مقیم تھے۔ ایک مرتبہ رومیوں نے معاویہ کی خلافت و رومی کی
 اور خراج ادا نہ کیا۔ حضرت معاویہؓ نے چاہتے تو اس کے بدلے بڑی آسانی
 سے ان رومیوں کو قتل کر سکتے تھے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہیں
 آزاد کر کے واپس جانے کی اجازت دے دی اور فرمایا: "بد عہدی کے
 بدلے وعدہ کو وفا کرنا بد عہدی کرنے سے اچھا ہے۔"

جس طرح حضرت عمرؓ نے خلافت راشدہ کے قیام میں گراں قدر
 خدمات سرانجام دی تھیں اسی طرح حضرت معاویہؓ نے دولت امویہ کے
 قیام میں بہت بڑا کام کیا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ سے حضرت معاویہؓ کے
 زمانہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا:-

"اُس زمانہ میں لوگوں کی حالت ان غلاموں کی سی تھی جو انصاف

یہ قطعی محروم ہوں اور ظالم اُن پر ظلم کرنے سے باز نہ آئے۔“

اُن بزرگ کا منشا، دراصل یہ تھا کہ حضرت معاویہؓ کا زمانہ ایسا نہیں تھا۔ جیسا حضرت عمرؓ کا تھا۔ لیکن انہوں نے یہ امر نظر انداز کر دیا کہ ہر زمانہ کے لوگ اور طریقے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور یہ امید رکھنا کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے زمانہ کے لوگوں کی کامل تقلید کریں گے، بغیر دل کو خوش کرنے والی بات ہے اور کچھ نہیں۔

حضرت معاویہؓ کے متعلق غلط فہمیاں زیادہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ کے حالات پر اچھی طرح غور نہیں کیا گیا۔ یہ طبعی بات ہے کہ کسی چیز کو دوسرے دیکھنے والا شخص اس چیز کے متعلق اتنا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا، جتنا قریب سے دیکھنے والا شخص لگا سکتا ہے۔ اگر اُن حالات پر جب حضرت معاویہؓ کو پیش آئے، اچھی طرح غور و خوض کیا جائے اور اُن کی نظرِ تعمق جانچ پڑتال کی جائے تو ہمیں معلوم ہو گا کہ حضرت معاویہؓ نے اپنے عہد میں جو کچھ کیا وہ اس کے کرنے کے لئے مجبور تھے۔

لوگ اس بات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ عدل و انصاف

کے قیام اور سلطنت کی بہبودی کا سارا دار و مدار محض خلیفہ اور اس کے
 نائبین و عمال کے احکامات و توجہ ہی پر نہیں بلکہ سلطنت کے احوال
 کی اصلاح میں خود عوام کی کوششوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ اگر
 عوام سیدھے رہیں گے تو وہ خلیفہ اور اس کے عمال کو بھی سیدھا بننے
 پر مجبور کر دیں گے اور اگر عوام میں کجی آجائے گی تو خلیفہ میں بھی لامحالہ
 کجی پیدا ہو جائے گی :-

حضرت معاویہؓ کے شب و روز

مشہور شیعہ مؤرخ اور جغرافیہ نویس علامہ مسعودی حضرت معاویہؓ کے پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”حضرت معاویہؓ صبح کی نماز پڑھتے ہی سلطنت کا کام شروع کر دیتے تھے۔ پہلے وہ تمام رپورٹیں سننے جو اطراف ملک سے آئی ہوتیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ تلاوت کے بعد بعض ضروری احکامات دے کر گھر چلے جاتے۔ وہاں جا کر اشراق کی نماز پڑھتے اس کے بعد باہر آکر دربار منعقد کرتے جس میں خاص خاص اشخاص آپ کے مشیران کار اور وزراء کو آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ آپ ان سے

سلطنت کے مختلف امور کے متعلق مشورے لیتے اور دن بھر کے ضروری
 کاموں کے بارہ میں تبادلہ خیالات کرتے۔ اس کے بعد کھانا تناول فرماتے
 یہ کھانا عموماً رات کے بچے ہونے ٹھنڈے گوشت یا چوزے یا اسی قسم
 کی کسی اور چیز پر مشتمل ہوتا تھا۔ پھر آپ گھر آتے اور کچھ دیر آرام کر کے
 مسجد میں تشریف لاتے اور غلام کو حکم دیتے کہ کرسی مسجد میں لے کر
 چلو۔ چنانچہ وہ کرسی مسجد میں لے جاتا۔ اور آپ مقصورہ کی ٹیک لگا کر
 کرسی پر بیٹھ جاتے۔ یہاں دربار عام منعقد ہوتا تھا جس میں چھوٹے بڑے
 ضعیف و کمزور بچے بوڑھے، عورتوں اور غلاموں کو آنے کی عام اجازت
 ہوتی تھی۔ آپ کے سامنے مقدمات پیش ہوتے۔ کوئی کہتا مجھ پر ظلم ہوا
 ہے۔ آپ حکم دیتے کہ اس کی داد رسی کی جائے۔ کوئی کہتا مجھ پر زیادتی
 ہوئی ہے۔ آپ فرماتے اس کے ساتھ کسی کو تحقیقات کے لئے بھیجو۔
 تیسرا کہتا میرے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے۔ آپ فرماتے اس کے معاملہ کی
 تفتیش کرو۔ جب تمام یہ جوہر الوقت لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ ہو جاتا
 تو پھر ایک خاص محفل منعقد کرتے۔ خود تخت پر بیٹھ جاتے اور فرماتے "مغزین
 کو علی قدر مراتب آنے کی اجازت دو۔" چنانچہ لوگ آنے شروع ہوتے

السلام علیکم کہتے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے جب سب لوگ آچکے تو
 آپ فرماتے: "اے لوگو! تمہیں اشراٹ اس لئے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس
 مجلس میں آنے کا ثرٹ حاصل ہے۔ اس لئے ان لوگوں کی ضروریات
 میرے سامنے بیان کرو جو اس مجلس میں حاضر نہیں، کوئی کتنا فلاں شخص شہید
 ہو گیا۔ آپ فرماتے اس کے بیٹوں کے لئے وظیفہ مقرر کرو۔ کوئی کتنا فلاں
 شخص اپنے اہل و عیال سے غائب ہے اور اس کا پتہ نہیں چلنا۔ آپ
 فرماتے: "اس کے اہل و عیال کی خبر گیری رکھو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو
 اور سرکاری نمبر اس آدمی کی تلاش کریں۔" اس کے بعد کھانا حاضر کیا جاتا
 آپ کا کاتب (پرائیویٹ سیکرٹری) آپ کے برابر کھڑا ہو جاتا اور بار بار
 ہونے والوں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا جو شخص
 آتا آپ اُس سے کہتے "بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ" وہ شخص بیٹھ جاتا اور ہاتھ بڑھا کر
 دو تین لقمے کھا لیتا۔ دیریں اتنا کاتب اس کی عرضداشت آپ کو پڑھ کر
 سناتا عرضداشت سن کر آپ اُس کے بارہ میں اپنا حکم صادر کرتے۔ اگر
 کے بعد دوسرا شخص حاضر ہوتا۔ اس کے بعد تیسرا۔ اسی طرح تمام لوگ
 بھگت جاتے۔

بعض اوقات اتنے لوگ آجاتے کہ کھانا ختم ہو جاتا تب آپ کہتے کہ باقی لوگ کل حاضر ہوں چنانچہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ آپ بھی اپنے گھر چلے جاتے۔ اور کچھ آرام کرتے پھر کی نماز کے وقت باہر آتے اور مسجد میں چار رکعت نماز ادا کرتے۔ اس کے بعد پھر مجلس منعقد کرتے جس میں خاص خاص لوگ شریک ہوتے۔ اسی وقت آپ تاشتمہ کرتے۔ اگر سردی کا موسم ہوتا تو خشک حلوا، دودھ اور مٹھاس میں گندھی ہوئی میدے کی ٹکیاں۔ بسکٹ اور خشک پھل تناول کرتے اور اگر گرمی کا موسم ہوتا تو صرف موہی پھلوں پر اکتفا کرتے۔ اس دوران میں اپنے وزراء سے مختلف امور کے متعلق مشورہ کرتے رہتے۔ یہ مجلس عصر تک رہتی عصر کے وقت آپ مسجد میں آتے اور نماز پڑھا کر واپس چلے جاتے اور اس وقت کسی شخص کو بار بار بیانی کا موقعہ نہ دیتے۔

مغرب سے کچھ پہلے گھر سے برآمد ہوتے اور تخت پر بیٹھ جاتے لوگ بھی علی قدر مراتب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے۔ اسی وقت رات کا کھانا حاضر کیا جاتا۔ مغرب کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ مغرب کی اذان سننے ہی دسترخوان لپیٹ دیتے اور مسجد میں آکر نماز پڑھتے نماز پڑھنے

کے بعد چار رکعت علیحدہ پڑھتے اور ہر رکعت میں پچاس آیات تلاوت
 کرتے۔ کبھی بالجہر اور کبھی آہستہ۔ اس کے بعد گھر آتے اور عشر کی
 نماز تک وہیں رہتے۔ عشر کی نماز کے بعد خاص الخاص لوگوں، وزراء
 اور اپنے حاشیہ نشین لوگوں کی مجلس منعقد کرتے۔ پہلے وزراء سے امور
 سلطنت کے بارہ میں مشورہ کرتے پھر تہائی رات تک عرب کے تدبیر
 بادشاہوں کے حالات اقوام عالم کی تاریخ اور سیاسیات پر بحثیں ہوتی
 رہتیں۔ اسی اثنا میں آپ کی بیویوں کی طرف سے کوئی عظیمی چیز آپ کے
 سامنے پیش کی جاتی۔ اس کے بعد آپ آرام کرنے کے لئے تشریف لے
 جاتے۔ رات کا ایک تہائی حصہ باقی ہوتا تھا کہ اٹھ بیٹھتے۔ اس وقت
 آپ کی خدمت میں کتابیں پیش کی جاتیں۔ جن میں گذشتہ بادشاہوں کی
 سیرت، ان کی سیاست کے تذکرے، ان کے عہد کے واقعات اور جنگوں
 کی تفصیل ہوتی تھی۔ دو غلام باری باری یہ کتابیں آپ کو سنا تے۔ رات
 کے آخری حصہ تک آپ ان ہی کتابوں کے سننے میں مشغول رہتے۔ فجر کی
 اذان ہوتی تو دو رکعت پڑھ کر آپ مسجد میں چلے جاتے اور اگلے روز کے
 لئے پھر وہی پروگرام شروع ہو جاتا۔

مسعودی شیعہ ہونے کے باوجود حضرت معاویہؓ کے رحم و کرم اور حسن سیرت سے انکار نہیں کر سکے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں :-

”حضرت معاویہؓ کی سیاست آپ کے اخلاق، آپ کی نیکی اور سخاوت اور بے پایاں احسانات نے لوگوں کے دلوں کو یہاں تک موہ لیا تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور عزیزوں کے مقابلہ میں آپ کو ترجیح دیتے تھے آپ کے بعد بھی عبدالملک بن مروان اور بعض دیگر شاہان بنو امیہ نے حضرت معاویہؓ کی تقلید کرنے کی کوشش کی۔ لیکن نہ وہ آپ کے علم کو پہنچ سکے نہ آپ کی سی سیاست برت سکے، نہ لوگوں سے ان کے مرتبہ کے مطابق سلوک کر سکے۔ نہ آپ جیسی نرمی اختیار کر سکے اور نہ امور سلطنت کو اس خوبی سے انجام دے سکے۔ جس طرح آپ سرانجام دیا کرتے تھے“

حضرت معاویہؓ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مطلب براری کے لئے حیلہ جوئی، جوڑ توڑ اور فضول خرچی سے کام لیا۔ آپ قبائل عرب کو اپنا مطیع بنانے کے لئے بے دردی سے سلطنت کا خزانہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سیم و جواہر کے ذریعہ انہیں خرید کرتے تھے۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ آپ نے قبائل عرب اور ہر کہ وہ لوگوں کو اپنی

طرف مائل کرنے کے لئے بے حد روپیہ خرچ کیا۔ لیکن جس طور پر خرچ کیا وہ قابل اعتراض نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ روپیہ آپ نے محض اپنی سلطنت کے استحکام کے لئے خرچ کیا اور سلطنت کے استحکام کے لئے روپیہ خرچ کرنے پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ ہر زمانے میں سلطنت ایسا کرتی رہی ہے۔

جس فراخ ولی سے آپ لوگوں پر روپیہ خرچ کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوئی شخص آپ سے روپیہ لے کر آپ کو دھوکا نہیں دے سکتا تھا۔ اور نہ ہی آپ پر کسی اور شخص کو ترجیح دے سکتا تھا۔

طبری نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک سردار ابو منازل کو آپ نے ستر ہزار درہم دئے اور بعض ایسے لوگوں کو جو اس کے مرتبے کو نہیں پہنچتے تھے ایک لاکھ درہم دئے۔ اس پر ابو منازل کہنے لگا:

”آپ نے مجھے قبیلہ تمیم میں ذلیل کر دیا۔ کیا میرا حسب و نسب صحیح نہیں ہے؟ کیا میں سن رسیدہ نہیں ہوں؟ اور کیا میرے قبیلے میں میری بات مافی نہیں جاتی؟“

حضرت معاویہؓ نے جواب دیا: **یقیناً**۔

ابو سنازل نے کہا: "تب آپ نے مجھے دوسرے لوگوں سے کم

کیوں دیا؟"

آپ نے جواب دیا: "میں نے ان لوگوں سے ان کا دین خرید لیا ہے۔ لیکن چونکہ تم حضرت عثمانؓ کے بارہ میں اچھی رائے رکھتے ہو اور اس طرح ہمارے بھائی ہو۔ اس لئے میں نے تمہیں دین ہی کے ٹیپر دیا ہے۔"

ابو سنازل کہنے لگا: "تب آپ مجھ سے بھی میرا دین خرید لیجئے۔" حضرت معاویہؓ اسے اور اسے بھی ایک لاکھ درہم دینے کا حکم دیا۔ حضرت معاویہؓ کی نظر بڑی دور رس تھی۔ اسی دور رس کے باعث آپ مخالف کمیپ کے کمزور مقامات کو بڑی آسانی سے تاڑ لیا کرتے تھے۔ اور اس طرح اپنے دشمن کو ایسی مشکلات میں مبتلا کر دیا کرتے تھے۔ جس سے نکلنا اس کے لئے آسان نہ ہوتا تھا۔ اگر انہیں اپنے رشتہ داروں سے بھی یہ ڈر ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے مل کر ان کی زندگی میں یا ان کے بعد ان کے بیٹے کے عہد میں سلطنت کے لئے خطرہ کا باعث ہوں گے تو وہ جوڑ توڑ سے کام لے کر ان میں

پھوٹ ڈلوا دیا کرتے تھے۔ یہ امر آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ اور آپ کی ہوشیاری و بالغ نظری پر دلالت کرتا ہے۔ اپنی کامیابی اور اپنی مملکت کی تاسیس کے لئے آپ جو دوسرے ذرائع استعمال کرتے تھے ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یعنی مختلف طبقات کے درمیان عصبی منافرت پیدا کر کے انہیں کمزور کر دینا اور داد و دہش کے ذریعہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لینا۔ چنانچہ العام واکرام کے ذریعہ آپ نے اکثر اوقات سخت ترین مخالفین تک کے منہ بند کر دئے ہیں۔

حضرت معاویہؓ خود اپنی کامیابی کے اسباب بیان کرتے ہوئے

کہتے ہیں:-

”علی بن ابی طالب مجھ سے چار خصائل کی وجہ سے مات کھا گئے۔“

(۱) وہ اپنا بھید کسی سے چھپاتے نہیں۔ لیکن میں اپنا ناز کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔

(۲) جب تک مصیبت اُن پر ہر چار طرف سے نہ ٹوٹ پڑے وہ اُس سے بچاؤ کی فکر نہیں کرتے۔ لیکن میں پہلے سے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہتا ہوں۔

(۳) انہیں بدترین ساتھیوں سے پالا پڑا ہے۔ جو کبھی اُن کی بات

نہیں مانتے۔ لیکن میرا لشکر نہایت مطیع و فرمانبردار ہے۔

(۴) انہیں نسبتاً قریش کی زیادہ حمایت میسر نہیں لیکن مجھ ان

کی پوری حمایت حاصل ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بنو امیہ میں حضرت معاویہؓ جیسا زیرک و
دانا انسان اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ بنو امیہ کے مروان بن الحنفی نے
آپ کی قدر و منزلت کم کرنے اور آپ کے مرتبہ کو گھٹانے کی بہت کوشش
کی لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مروان بن الحنفی نے حضرت معاویہؓ
سے ناراضی کی بڑی وجہ یہ لہتی کہ وہ آپ کے بعد خود خلیفہ بننے کا خواہشمند
تھا اور دلیل یہ پیش کرتا تھا کہ وہ بنو امیہ کا بزرگ ترین فرد اور حضرت عثمانؓ
کا معتد علیہ تھا۔ یزید کی بیعت اس نے با مجبوری اس لئے کی تھی کہ اسے
یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس وقت یزید کی بیعت نہ کی گئی تو سرے سے
بنو امیہ کا اقتدار ہی ختم ہو جائے گا اور بعد میں اس کے اور اس کی
اولاد کے لئے خلافت حاصل کرنے کا کوئی موقعہ باقی نہیں رہے گا۔

حضرت معاویہؓ بھی مروان کے ارادوں اور خواہشات سے بے خبر

نہیں تھے۔ انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ مروان کے دل میں اپنی خلافت کے متعلق کیا کیا منگیں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے اس پر یہ بات ظاہر نہ ہونے دی کہ انہیں اس کے ارادوں کا پتہ ہے وہ بظاہر اس سے خذہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے رہے۔ لیکن اندر ہی اندر اس کے اور دیگر بنو امیہ کے درمیان بھپوٹ ڈلوانے اور مروان کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش میں مصروف رہے۔ حضرت معاویہؓ کی پالیسی یہ تھی کہ اپنے حریف رشتہ داروں سے زلودہ سختی کا برتاؤ کرتے تھے اور نہ انہیں اتنے قرب کا موقودیتے تھے جس سے وہ معذور ہو جائیں۔

حضرت معاویہؓ کو خلافت ملنے کا سب سے زیادہ رنج اور افسوس بنو امیہ میں مروان کو ہوا۔ کیونکہ بنو امیہ کا سب سے زیادہ سن رسیدہ شخص ہونے کی وجہ سے اس کا خیال تھا کہ خلافت کا حق صرف اس کا ہے۔ لیکن حضرت عثمانؓ کے حالات شورش کا سب سے زیادہ فائدہ حضرت معاویہؓ کو پہنچا۔ اس لئے مروان اپنی مخالفت کا اظہار برملا کرتا تھا۔ حضرت معاویہؓ کو اپنے حاربوں کے ذریعہ یہ تمام خبریں باقاعدگی سے بلا کسی تاخیر کے پہنچتی رہتی تھیں۔ ان جاسوسوں کی۔ جن کا جال تمام مملکت میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ کوشش

ہوتی تھی کہ قاصدوں کے ذریعہ تمام خیریں لیسرت تمام حضرت معاویہؓ
 تک پہنچتی رہیں تاکہ وہ مملکت کے تازہ ترین واقعات و حوادث سے
 پوری طرح باخبر رہ سکیں۔

مورخین حضرت معاویہؓ اور ان کے تین حبل القدر عمال کو عرب
 کے عقلمند ترین لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ ایک مورخ کا قول ہے:۔
 "میں نے حضرت معاویہؓ سے زیادہ حلیم و بربور، حضرت عمرو بن العاصؓ
 سے زیادہ لوگوں پر اثر ڈالنے والا اور زیادہ سے زیادہ اپنے راز کو مخفی
 رکھنے والا اور کوئی شخص نہیں دیکھا۔"

حضرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق یہ مورخ لکھتا ہے:۔
 "اگر مغیرہؓ کسی ایسے شہر میں ہوں جس کے آٹھ دروازے ہوں اور مغیرہؓ
 کسی سخت تدبیر کے کسی دروازہ میں سے بھی نکلنا ممکن نہ ہو تب بھی مغیرہؓ
 اپنی حیرت انگیز دانشمندی اور ہوشیاری کی بدولت ان آٹھوں درازوں
 سے نکل آئیں گے۔"

انعام و اکرام دینے اور لوگوں کو داود و ہش سے نوازنے کی عادت
 حضرت معاویہؓ کو اسی وقت سے پڑی ہوئی تھی۔ جب وہ خلفائے راشدین

کے عہد میں شام کے حاکم تھے۔ جب انہیں خود خلافت حاصل ہو گئی تو
 اس داد و پیش میں اور زیادتی ہو گئی۔ آپ بنو ہاشم پر خصوصیت سے
 بہت زیادہ مال و دولت خرچ کرتے تھے۔ تاکہ ان کے دلوں میں خلافت
 ہاتھ سے نکل جانے کے باعث جو کدورت اور عداوت ان کے خلاف
 بھری ہوئی ہے۔ وہ اگر بالکل نہ نکل سکے تو کچھ کم ضرور ہو جائے۔ چنانچہ
 جب بھی بنو ہاشم میں سے کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو آپ اس کی
 تعظیم و تکریم میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرتے اور جس ضرورت کیلئے
 وہ شخص حاضر ہوتا بلا تامل وہ ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی
 مجلسوں میں وہ لوگ اکثر خلافت پر اپنے حق لکھا کرتے تھے اور صاف
 صاف کہہ دیتے تھے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان سے خلافت چھین کر
 رہیں گے۔ لیکن حضرت معاویہؓ یہ تمام باتیں خوشی سے سنتے اور سکوڑتے
 رہتے اور انہیں کچھ نہ کہتے تھے۔

شان و شوکت اور رعب و دبدبہ قائم رکھنا حضرت معاویہؓ نے
 رومیوں سے سیکھا تھا۔ جس وقت آپ بازار میں نکلتے یا مسجد میں تشریف
 لاتے تو نیزہ بردار نیزہ لئے ہوئے آپ کے آگے آگے چلتے تھے اپنے

لئے آپ نے ایک محل تعمیر کرایا تھا جس کے ساتھ ایک تخت بھی بنوایا تھا
 محل کے دروازے پر سائب و روز دربان پر سے دیا کرتے تھے۔ مسجد میں
 آپ کے لئے ایک مقصورہ بنا ہوا تھا۔ جب آپ نماز کے لئے تشریف
 لاتے تو اسی مقصورہ میں نماز پڑھتے۔ ریشم اور دیباچ پہننے میں بھی آپ
 نے رومیوں ہی کی تقلید کی تھی۔

دہلی کی جامع مسجد میں مقصورہ تعمیر ہوتے وقت لوگوں میں زبردست
 شور و شغب برپا ہوا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا کرنا صریحاً دین
 کے احکامات کی خلاف ورزی اور خانہ خدا میں عام لوگوں پر اپنے
 آپ کو ترجیح دینے کی ایک نئی مثال ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں مقصورہ
 بنانے میں آپ حق بجانب تھے۔ اصل سبب یہ تھا کہ حضرت معاویہؓ کو
 خوارج اپنے دیکر مخالفین کی طرف سے حملہ کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا
 خصوصاً جب کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ پچھلے چار خلفاء میں سے تین خلفاء
 حفاظت کا نا کافی انتظام ہونے کی وجہ سے شہید کر دئے گئے تھے۔
 اس صورت حال کی موجودگی میں دورانہ لشی اور عقل مندی کا تقاضا

یہ تھا کہ آپ ایسے انتظامات کرتے جن کی وجہ سے آپ کی ذات کو
خطرہ لاحق نہ رہتا۔

آپ اپنی جان کی حفاظت کے لئے اس قدر انتظامات کرنے
کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ بلکہ یہ بھی حکم دیا کہ مسجد میں نماز پڑھاتے
وقت آپ کے پہرہ دار آپ کے سامنے کھڑے رہیں اور لوگوں کی
نگرانی کرتے رہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسلام میں یہ ایک بالکل نئی
چیز تھی۔

ایک اور بات بھی حضرت معاویہؓ نے نسی کی۔ وہ یہ کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے
لیکن حضرت معاویہؓ نے یہ سنت بدل دی۔ اور بیٹھ کر خطبہ دینے لگے
اس امر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ پر فارسی اور پرتگیزی
رسوم کا گہرا اثر پڑا تھا۔

بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ گذشتہ زمانہ میں مسجدوں میں منبروں
کی وہ شکل نہیں تھی جو آج کل ہے۔ اور ان کا استعمال بھی آج کل کے
زمانہ سے بالکل مختلف تھا۔ موجودہ زمانہ میں منبر نماز جمعہ کے موقع پر

خطیب کے خطبہ دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن ایام گذشتہ
 میں منبر اس نشست کو کہتے تھے جو عام لوگوں کی نشستوں سے کچھ بلند
 ہوتی تھی۔ یہی بلند نشست خلافت کا منظر اور نشان ہوتی تھی۔ اسی
 مقام پر بیٹھ کر خلیفہ لوگوں سے خطاب کرتا تھا۔ یہیں لوگوں کے مقدمات
 سنا اور ان کا فیصلہ کرتا۔ یہیں ان کی بیعت لیتا تھا اور اسی جگہ پر بیٹھ
 کر باہر سے آنے والے وفد سے ملتا تھا۔

حضرت معاویہؓ پر مخالفوں کو زہر دلانے کے الزامات

حضرت معاویہؓ ان عقلمند ترین سیاست دانوں میں سے ہیں جن کی قابلیت کا لوہا مستشرقین تک مانتے ہیں۔ ان کی نظروں میں ایک عقل مند فرمانروا کی تعریف یہ ہے کہ وہ ۱۔

(۱) سیاسی امور کا ماہر ہو اور ہر قسم کی پریسکریپشن کو اپنے ناخن تدبیر سے حل کر سکتا ہو۔

(۲) اعلیٰ درجہ کا منتظم ہو۔

(۳) جلد بازی سے کام لینے والا نہ ہو۔

(۴) کسی کام کے کرنے کا اس وقت تک ارادہ نہ کرے جب

ہم اس میں کامیابی کا پورا پورا وثوق نہ ہو۔

(۵) اپنے مافی الضمیر کو رعایا کے دلوں میں عمداً کیے کے ساتھ ذہن

نشین کر اسکے۔

(۶) اپنے مخالفوں پر اچھی طرح قابو پانے والا ہو اور

(۷) نہایت دور رس نظر رکھتا ہو

حضرت معاویہؓ میں یہ تمام صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں اور
اسی لئے مستشرقین کی نظروں میں ان کا درجہ تالیبران اور لسمارک سے
کہیں بڑھ چڑھ کر ہے کیونکہ حضرت معاویہؓ کی نظر میں جو وسعت تھی اور
سیاست میں جو بصیرت آپ کو حاصل تھی۔ وہ ان مشہور و معروف
یورپین سیاست دانوں میں موجود نہ تھی۔

ولسن کتاب ہے کہ معاویہؓ ایک عقل مند اور ذریک سیاست
دان تھے۔ نہ کسی کام میں جلد بازی سے کام لیتے تھے اور نہ بے محل
کوئی کام کرتے تھے۔ ہر شخص کو وہی مرتبہ دیتے تھے جس کا وہ حق دار
ہوتا تھا۔ ان کی سیاسی قابلیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے
شامیوں کو پورے طور پر اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ نظم و نسق میں ان کے

بے پناہ تجربہ کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ انہوں نے امور سلطنت کی انجام دہی کے لئے جن آدمیوں کا انتخاب کیا وہ اپنی عقل مندی و کاوش جرات پریمی اور انتظامی امور سے بحسن و خوبی عمدہ براہوں کے لئے موزوں ترین اشخاص تھے۔ کسی ایک آدمی پر بھی آپ کی نظر انتخاب غلط نہیں پڑی۔

آپ کے مخالفین کو بھی آپ کی ہوشیاری اور سیاست وافی کا اعتراف تھا۔ وہ ہر آن آپ سے خون کھاتے رہتے تھے کہ نہ معلوم حضرت معاویہؓ کب اور کس وقت کس حربہ سے کام لے کر ان کے لئے مشکلات پیدا کر دیں۔ چنانچہ اس کا ثبوت ہمیں اس خط سے ملتا ہے جو حضرت علیؓ نے زیاد کو اس وقت بھیجا تھا۔ جب وہ آپ کے ماتحت ایک علاقہ کا عامل تھا۔ اس خط میں حضرت علیؓ نے زیاد کو ہدایت کی کی تھی کہ وہ معاویہ کی سیاسی تدابیر سے ہر دم یا خبر رہے۔ کیونکہ وہ بہت ہوشیار آدمی ہیں۔

حضرت معاویہؓ کے عہد اور ان کی سیاست پر تبصرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ان الزامات کی تحقیق نہ کی جائے جو اپنے

مخالفین کو ذمہ دہ لو اے کے متعلق حضرت معاویہؓ پر لگائے جاتے ہیں۔
اور جنہیں کئی مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

اس ذیل میں حضرت معاویہؓ پر مندرجہ ذیل الزامات لگائے جاتے

ہیں۔

(۱) حضرت حسنؓ کو ذمہ دہ لوایا

(۲) عبدالرحمن بن خالد بن ولید کو شام میں اثر و نفوذ حاصل کرنے

کے خوف سے ذمہ دہ کے کروا ڈالا۔

(۳) حضرت علیؓ کے بہت بڑے مددگار اشتر نخعی کو اس وقت

ذمہ دہ سے ہٹا کر واہب وہ مصر کا والی بن کر جا رہا تھا۔

اگرچہ یہ درست ہے کہ حضرت معاویہؓ اپنے مخالفین کو زیر کر لے کے

لئے مختلف جنگی حربوں سے کام لینے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے

لیکن اس کے باوجود ان کی ذکاوت و فطانت، دوراندیشی اور غایت

درجہ احتیاط سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ فضائل جس آدمی میں پائے

جائیں، وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اس کے لئے آئندہ چل کر نفرت

اور بدنامی کا موجب ہو

جن روایات میں ان تین اشخاص کو زہر دینے کا ذکر آیا ہے اگر ان کی چھان بین کی جائے تو معلوم ہو گا کہ ان کی اصل کچھ بھی نہیں حضرت حسن کے متعلق آتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے ان کی بیوی کو انہیں زہر دینے کے لئے آمادہ کیا۔ اور اس نے انہیں کھانے میں زہر دے دیا۔

بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت حسنؓ کی وفات اچانک ہوئی تھی اس لئے لوگوں نے بطور خودیہ سمجھ کر کہ حضرت معاویہؓ کو حضرت حسنؓ سے برابر خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں وہ ان سے خلافت نہ چھین لیں، حضرت معاویہؓ پر ان کی وفات کی ذمہ داری ڈال دی۔

لیکن یہ روایت سراسر من گھڑت ہے۔ ہمارے پاس کوئی قرینہ بھی ایسا نہیں جو اس کی تائید کرتا ہو۔ بلکہ اس روایت کا بناوٹی ہونا خود اصل روایت ہی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر امر واقعہ اسی طرح ہوتا تو حضرت معاویہؓ کے مخالف اس بات کو لے کر آپ کی زندگی ہی میں لوگوں کو بھڑکا دیتے اور انہیں آپ کے خلاف کھڑا کر دیتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ کی زندگی میں کسی ایک شخص نے بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے

حضرت حسنؓ کو زہر دلوایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت آپ کے
 انتقال کے بعد بلکہ اقلب یہ ہے کہ حضرت حسینؓ کی شہادت کے بھی بعد
 لکھی گئی ہے۔

عبدالرحمن بن خالد بن ولید کی موت کے متعلق مستشرقین میں بہت
 کافی اختلاف ہے۔ دی غونی اس بارہ میں لکھتا ہے :-

”وہ روایت جس میں عبدالرحمن کی موت کی ذمہ داری حضرت معاویہؓ
 پر ڈالی گئی ہے۔ بڑا ضعیف ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہوا عبدالرحمن ایک
 جنگ سے بیمار ہو کر لوٹے حضرت معاویہؓ نے اپنے خاص معالج کو ان
 کے علاج کے لئے بھیجا۔ لیکن علاج سے کوئی افادہ نہ ہوا اور عبدالرحمن
 وفات پا گئے۔ حضرت معاویہؓ نے عبدالرحمن کا عہدہ ان کے بیٹے خالد
 کو سونپ دیا۔ ادھر عبدالرحمن بن خالدؓ کے ایک رشتہ دار نے اس طبیب
 کو جس نے عبدالرحمن کا علاج کیا تھا، کسی بات پر قتل کر دیا۔ اس وجہ
 سے اس نکتہ کو پھیلنے کا موقع ملا اور عوام میں یہ مشہور ہو گیا کہ ”معاویہؓ
 نے اپنے طبیب کے ذریعہ عبدالرحمن کو زہر دلوایا ہے۔“

اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا

کرتب سیر میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ "عبدالرحمن بن خالد کو شام میں دن بدن بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل ہونے لگا اور اہل شام ان کے والد حضرت خالد بن ولید کی شخصیت اور ان کی بہادری کی وجہ سے ان کے گردیدہ رہنے لگے حضرت معاویہؓ کو یہ دیکھ کر ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ انہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد کو نقصان پہنچانے کا باعث نہ بنیں۔ اس لئے انہوں نے "ابن امیال" طیب کو ان کی ہلاکت کے لئے مامور کیا۔ اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو اسے حمص کا والی بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ ابن امیال نے ان کے بعض غلاموں کے ساتھ مل کر انہیں زہرا لود شہد پلا دیا جس کے اثر سے ان کی وفات ہو گئی۔ اور حضرت معاویہؓ کو اپنے ایک بڑے حریف سے نجات مل گئی۔"

اس روایت کو بنظر نقی و یکنے سے اس کے بناوٹی ہونے کا صاف پتہ چل جاتا ہے۔ اصل قصہ صرف اس قدر ہے کہ حضرت معاویہؓ

سہ ابن امیر

عبدالرحمن کی بیماری کا حال سن کر اپنے خاص طبیب کو ان کا علاج کرنے
 لئے بھیجا۔ لیکن طبیب کامیاب نہ ہو سکا اور ان کی وفات ہو گئی۔ اگر
 حضرت معاویہؓ کو انہیں قتل کرانا ہوتا تو دورانِ اندیشی اور ہوشیاری کا تقاضا
 تھا کہ وہ اپنے خاص طبیب کو عبدالرحمن کے پاس نہ بھیجتے۔ تاکہ ان پر
 کسی قسم کا شک نہ ہو سکتا اور یہ تہمت خواہ مخواہ ان کے سر نہ منڈھ سکتی۔

اب باقی رہ جاتا ہے اشتر کے قتل کا قضیہ تو مزرحین کہتے ہیں کہ
 حضرت علیؓ نے اُسے مصر کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ لیکن ابھی وہ راستہ ہی میں
 تھا کہ حضرت معاویہؓ کو بھی خبر مل گئی۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر اشتر مصر
 والی ہو گیا تو یہ امر خود ان کے لئے سموتِ خطرہ کا باعث ہو گا۔ اس
 لئے انہوں نے مصر میں ایک خارجی جاسیتا زنامی کو یہ پیغام بھیجا کہ :-
 "اشتر کو مصر کی ولایت سپرد کی گئی ہے۔ اگر تم کسی طرح فوری
 ریزم اس کا خاتمہ کر سکو تو میں تم پر عائد کردہ تمام ٹیکس معاف کر دوں گا۔
 میں چاہئے کہ اس کے قتل کرنے کی کوئی تدبیر نکالوں۔"

جاسیتا زنامی نے حکم پا کر شہر قلازم میں آیا جو مصر کی

سرحد پر واقع ہے اور وہاں اشتر کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اشتر وہاں پہنچا تو جاہلیتار اس کے استقبال کے لئے نکلا اور اس سے مل کر کہنے لگا :-

”میری خواہش ہے کہ آپ کچھ دیر میرے پاس قیام فرمائیں میں نے آپ کی دعوت کا سامان کیا ہے۔ اگر آپ اس دعوت کو قبول فرمائیں گے تو یہ امر میرے لئے نہایت اعزاز کا باعث ہوگا۔“

جاہلیتار کے اسرار پر اشتر اس جگہ ٹھہر گیا۔ اس نے اسے نہایت پر تکلف کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد پینے کے لئے شہد دیا جس میں اس نے زہر گھول رکھا تھا۔ شہد پیتے ہی زہر اشتر کے سارے بدن میں سرایت کر گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

ادھر جاہلیتار کے جانے کے بعد حضرت معاد یہ کہنے شامیوں سے

کہا :-

”علیؑ نے اشتر کو مصر کا حاکم بنا کر بھیجا ہے تم دعا کرو کہ اللہ

اس کا خاتمہ کر دے۔“

چنانچہ اہل شام روزانہ اشتر کے لئے بد دعا کرنے لگے۔ اسی وقت

جایستار اپنا کام پورا کر کے حضرت معاویہؓ کے پاس پہنچ گیا اور اشتر کی ہلاکت کی خبر سنائی۔ یہ سن کر حضرت معاویہؓ جامع مسجد میں پہنچے اور منبر پر چڑھ کر خطبہ دینا شروع کیا۔ پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر کہا:-
 ”علی بن ابی طالب کے دو بازو تھے۔ ایک بازو صفین کے دن کٹ گیا (یعنی عمار بن یاسر) اور دوسرا آج قطع ہو گیا“ (یعنی اشتر)
 جب حضرت عمرؓ ابن العاص کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے

کہا:-
 ”خدا تعالیٰ نے شہد کے لشکر بھی ترتیب دے رکھے ہیں جو دشمنوں کی ہلاکت کا موجب ہوتے ہیں۔“

طبری کی روایت کا ما حاصل بھی تقریباً یہی ہے۔ لیکن یہ روایت کافی چھان بین، نقد و تبصرہ اور غور و فکر کی محتاج ہے۔ حضرت معاویہؓ سے ہوشیار اور ذکی انسان کے متعلق یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے ایسے ایسے ارادوں کا جامع دمشق میں علی الاعلان تذکرہ کیا ہوگا

عمر بن الخطاب - علی بن ابی طالب

اگر یہ درست ہے کہ انہوں نے جاہل تار کو اشتر کے قتل کے لئے مامور کیا تھا تو سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس راز کو صرف اپنے تک محدود رکھتے اور اہل شام سے ہرگز اشتر کے برخلاف بددعا کرنے کو نہ کہتے کیا حضرت معاویہؓ یہ موٹی سی بات بھی نہ سمجھ سکتے تھے کہ اگر انہوں نے اس وقت لوگوں کو اشتر کے خلاف بددعا کرنے کے لئے کہا اور کل اشتر کی ہلاکت کی خبر آگئی تو خواہ مخواہ لوگوں کو یہی خیال ہو گا کہ انہوں نے اسے مروایا ہے اور اس طرح شبہ یقین میں بدل جائے گا۔

پھر اشتر نہایت پوشیدہ طور پر اکیلا سفر کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اکیلا سفر کر رہا ہو وہ بہت تیزی سے سفر کی منزلیں طے کرتا ہے اگر حضرت معاویہؓ کے جاسوسوں کو اس کے سفر کا علم ہو بھی گیا تھا تب بھی انہیں یہ خبر حضرت معاویہؓ کو پہنچانے میں خاصا وقت لگتا اور اس مدت میں اشتر یقیناً صحرا قطع کر کے مصر پہنچ جاتا۔ حضرت معاویہؓ کیلئے بھی یہ بات ناممکن تھی کہ آپ اس قلیل وقت میں جاہل تار کو یہ خبر مصر بھیج سکتے اور وہ اشتر کو زہر دینے کے لئے مصر کی سرحد پر پہنچتا۔

پھر ایک اور امر بھی غور طلب ہے وہ یہ کہ اشتر اکیلا سفر کر رہا تھا

حضرت معاویہؓ کے لئے یہ بات بہت آسان تھی کہ وہ فوج کا ایک دستہ بھیج کر اُسے گرفتار کر لیتے اور قتل کر ڈالتے اور لوگوں کے سامنے قتل کی وجہ جو اذیہ پیش کرتے کہ یہ شخص فاطمین عثمانؓ میں شامل تھا اور فتنہ کے بھڑکالے میں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس لئے انہوں نے موقعہ پا کر اُسے قتل کر دیا۔ اگر وہ یہ وجہ پیش کرتے تو کسی ایک شخص کو بھی اس کے قبول کرنے میں تامل نہ ہوتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان عنعنہ اور کمزور روایات کی موجودگی میں حضرت معاویہؓ پر یہ الزام کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو زہر کے ذریعہ ہلاک کیا۔ بالکل بے بنیاد ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ اس کی تائید میں کوئی بڑی اور چھوٹی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے اپنے مخالفین کو زہر کرنے کے لئے جن طریقوں سے کام لیا دوسرے لوگوں کو ان کے جائز ہونے میں تامل ہو لیکن اپنے مخالفین کو زہر دلانے کی جتنی روایتیں ملتی ہیں ہمیں ان کے صحیح اور درست ہونے کا یقین کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ واقعات اور شواہد ان کے خلاف ہیں اور وہ روایتیں کسی حد تک بنیاد پر قائم نہیں۔

یورپ میں مستشرقین کا بھی وہی خیال ہے جو ہم نے صفحات سابق
 میں بیان کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا شمار نہ حضرت علیؑ کے حامیوں
 میں ہو سکتا ہے اور حضرت معاویہؓ کے طرفداروں میں۔ اس قضیے میں وہ
 بالکل غیر جانبدار ہیں۔ ان کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ جو تاریخی
 حقائق ان کے سامنے آئیں انہیں بلا کم و کاست بیان کر دیں۔ چنانچہ
 وہ ایمانداری کے ساتھ اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ حضرت معاویہؓ مخالفین
 کو دہرو لانے کے الزام سے بالکل پاک ہیں اور حق بھی یہی ہے کہ حضرت
 معاویہؓ کی نسبت یہ گمان کسی صورت میں بھی نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے
 اپنی مطلب براری کے لئے ایسے اوجھے ہتھیاروں سے کام لیا جو ان کی
 شان کے بھی خلاف تھے اور معصیتِ وقت کے بھی ۛ

حضرت معاویہؓ کے عہد میں سلطنت کی خوشحالی

حضرت معاویہؓ کے عہد میں سلطنت اسلامیہ خوشحالی اور آسودگی کے جس دور سے گزر رہی تھی اس کا ذکر کرنے سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانہ کے مالی امور اور اس دور کی دولت و ثروت کا مختصر سا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ بحث میں تسلسل قائم رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سلطنت کا خزانہ زیادہ تر زکوٰۃ کے اونٹوں، گھوڑوں اور بھیر بکریوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان مویشیوں کے لئے خاص چراگاہیں مقرر تھیں جہاں دوسرے لوگوں کے مویشی

نہیں چر سکتے تھے۔ زکوٰۃ کے ان مویشیوں کی تعداد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں چالیس ہزار اونٹوں اور گھوڑوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس وقت زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کا بھی کچھ مال جمع ہو جاتا تھا۔ جسے غزوات کی تیاری اور فقرا و مساکین اور دیگر حاجت مندوں کی ضروریات پر خرچ کیا جاتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تب بھی سلطنت کے خزانہ کی یہی حالت رہی اور اس میں چنداں فرق نہ آیا۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کے پاس درہم و دینار کی بہت کمی تھی۔ لیکن جب ایران اور روم کی فتوحات شروع ہوئیں تو مال غنیمت نہایت وافر مقدار میں آنے لگا۔ اس وقت حضرت عمرؓ نے اس کے انتظام اور حساب کے لئے باقاعدہ دفاتر قائم کئے اور عمال اور قاضیوں کی تنخواہیں مقرر کیں۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو مال و دولت جمع کرنے، جاگیریں حاصل کرنے اور کھیتی باڑی کرنے کی ممانعت کر دی کیونکہ تمام مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے، حتیٰ کہ ان کے غلاموں کے

سے شرح مؤطا۔

بھی روزینے بیت المال کی طرف سے مقرر کروئے گئے اور انہیں روزی
 حاصل کرنے کے لئے محنت و مشقت اور تجارت کرنے کی کوئی ضرورت
 نہ رہی تھی۔ حضرت عمرؓ کی خواہش تھی کہ مسلمان کامل طور پر جہاد اور اعلاء
 کلمۃ الحق میں مشغول رہیں۔ اسی لئے آپ کے انہیں مال و دولت جمع
 کرنے اور کھیتی باڑی کرنے سے روک دیا تھا تاکہ مال و دولت کی فراوانی
 عیش و آرام کی کثرت اور زراعت میں مشغولیت انہیں ان کے اصلی
 مقصد سے نہ روک دے۔ آپ نے اس سلسلہ میں اتنی سختی برتی کہ اگر
 مفتوحہ ممالک کے ذمی باشندوں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تھا
 تو اس کے پاس جتنی زمین ہوتی تھی۔ وہ اس سے لے لی جاتی تھی اور
 اس کے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اس کے بدلہ
 انہیں اس کے حصہ کا جزیہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ مسلمان ہونے والے شخص
 کے لئے دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح بیت المال سے وظیفہ مقرر ہو جاتا
 تھا۔ اور غیر مسلم ہونے کی حالت میں لڑائی کے وقت اس کا جو مال و مال
 غلام اور لہشی وغیرہ بطور مال غنیمت مسلمانوں کے قبضہ میں آ جاتے تھے

لے تاریخ مقریزی - لے تاریخ ابن عساکر

وہ اسے واپس کر دئے جاتے تھے۔

حضرت عمرؓ کی غرض ایسا کرنے سے یہ تھی کہ مفتوحہ ممالک کی اراضیات مسلمانوں کے فائدے کے لئے استعمال ہوتی رہیں اور جہاد اور غزوات کے سلسلہ میں جو اخراجات ہوں وہ ان زمینوں کی مال گزاریوں سے پورے ہوتے رہیں۔ اگر مسلمان جاہلوں خرید لیتے تو ان کی کوشش رہ ہوتی کہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی سے خود ہی فائدہ اٹھائیں۔ ان زمینوں کی کاشت میں مصروف ہونے کی وجہ سے جہاد میں مشغولیت اور اعلانِ کلمۃ الحق کے فرض سے غفلت کا بھی اندیشہ تھا۔ اس لئے حضرت عمرؓ چاہتے تھے کہ یہ زمینیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ آئیں بلکہ بدستور مفتوحہ باشندوں کے ہاتھوں میں رہیں۔ تاکہ انفرادی طور پر فائدہ حاصل کرنے کی بجائے مجموعی طور پر تمام قوم ان سے فائدہ اٹھائے اور مجاہدین کی ضروریات ہر وقت آسانی سے پوری ہوتی رہیں۔

تاہم حضرت عمرؓ کی مال جمع نہ کرنے کی پالیسی زیادہ دیر تک یقراً نہ رہ سکی۔ یہ پالیسی اسی وقت تک کامیاب رہی جب تک مسلمانوں پر بدوی رنگ غالب رہا اور وہ میدان ہائے کارزار میں مصروف کار رہے

لیکن فتوحات کے دوران میں عرب انہوں نے اپنے سامنے ایک نئی دنیا دکھی اور فارس و روم کی عظیم الشان باجبروت اور نہایت مالدار قوموں سے ان کا میل ملاپ ہوا تو ان کی معاشرتی حالت میں تبدیلی واقع ہونے لگی اور آہستہ آہستہ وہ بھی ان ہی قوموں کے رنگ میں رنگے جانے لگے حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے جائیدادیں خریدنی، کھیتی باڑی کرنی اور مال و دولت جمع کرنا شروع کر دیا جس کے نتیجہ میں بعض صحابہ کے پاس کثیر دولت جمع ہو گئی۔ جس سے انہوں نے جائیدادیں خریدی چنانچہ اس وقت بعض لوگوں کی آمدنی ہزار ہا درہم فی ہفتہ تک پہنچ گئی تھی۔

اس ذیل میں ایک اور امر بھی قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب مسلمانوں نے شام فتح کیا تو وہاں کی زمینیں ان کے اصلی مالکوں کے ہاتھوں ہی میں رہنے دیں۔ لیکن کافی زمینیں ایسی بھی تھیں جو رومی بطریقوں، لشکر کے سپہ سالاروں اور ان کے علاوہ ایسے کثیر القدر اور روسیوں کی ملکیت میں تھیں جو یا تو جنگوں میں قتل ہو چکے تھے یا شکست کھ کر روم کی طرف

بھاگ گئے تھے۔ اور اب وہ زمینیں خالی پڑی تھیں۔ ان زمینوں کو حکومت
 کی ملکیت میں دے دیا گیا اور ان کی آمدنی تمام کی تمام بیت المال میں
 داخل کی جانے لگی۔ جس وقت حضرت معاویہؓ شام کے والی ہوئے تو انہوں
 نے رومیوں سے کافی حد تک اثر قبول کیا اور اپنے لئے بھی اسی شان
 و شوکت کو اختیار کیا جو ان کے پیشرو رومیوں کا خاصا تھی۔ چونکہ ان کی
 تنخواہ اس شان و شوکت کی مستعمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے انہوں نے
 حضرت عثمانؓ کو لکھا کہ میرے پاس مختلف ملکوں اور شہروں سے دُود
 اور قاصد اور رومیوں کے سفیر آتے رہتے ہیں جن کی مہمانداری اور آرام
 و آسائش کے انتظام میں کافی رقم خرچ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے
 مقابلے میں میری تنخواہ کم ہے (حضرت عمرؓ نے آپ کو شام کا والی مقرر
 کرتے وقت آپ کی تنخواہ ایک ہزار دینار سالانہ مقرر کی تھی) اور ان
 اخراجات کے نکالنے کے بعد جو رقم میرے پاس باقی رہ جاتی ہے وہ
 گزارہ کے لئے نا کافی ہوتی ہے۔ شام میں بعض زمینیں ایسی موجود ہیں
 جن کے مالک یا تو لڑکر قتل ہو چکے ہیں یا رومی علاقے میں بھاگ گئے

لہ تاریخ مقریزی

ہیں پس یہ زمینیں نہ تو زمینوں کی ملکیت ہیں اور نہ ان کا شمار خراجی زمینوں میں ہوتا ہے۔ اس لئے ان کو اگر میری تحویل میں دے دیا جائے تو نہ تو خراج میں کمی آئے گی اور نہ کسی ذمی باشندے کی حق تلفی ہوگی ان زمینوں کی آمدنی سے وفود اور سفیروں کی مہمانداری کے اخراجات بہاں و جوہ پورے ہو جایا کریں گے۔

حضرت عثمانؓ نے یہ درخواست قبول کر لی اور وہ زمینیں جن کا کوئی مالک نہ تھا حضرت معاویہؓ کی تحویل میں دے دیں۔ مگر آپ نے انہیں اپنی ذاتی جاگیروں میں تبدیل کر دیا۔ اسی پر پس نہیں کی بلکہ آپ نے اپنے عہد میں حضرت عمرؓ کے مقرر کردہ قاعدہ کے برخلاف مسلمانوں کو جائدادیں خریدنے کی بھی اجازت دیدی۔

حضرت معاویہؓ کی سپردی میں ان کے عمال اور کئی صحابہ مثلاً حضرت طلحہؓ، زبیرؓ، سعدؓ، بلالؓ وغیرہم نے بھی جائدادیں خریدنی شروع کر دیں۔ بدادوں اور زمینوں کی وسیع پیمانے پر خرید و فروخت کے نتیجہ میں مال و دولت کی فراوانی درہم و دینار کی کثرت ہونے لگی۔ خود حضرت عثمانؓ نے بھی کثرت سے زمینیں خریدیں جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں جو زیادتی ہوئی اس

کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ شہادت کے وقت آپ نے تڑپ کر لاکھوں روپے
نہرا دینا اور کئی لاکھ روپے نقد اور رواد فری اور صیفین ایک لاکھ روپے کی مالیت کی جانچ اور چھوڑ دی۔

حضرت معاویہؓ کی مال و دولت جمع کرنے کی روش ہی کی وجہ سے
ان کا حضرت ابوذر غفاریؓ سے اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت ابوذرؓ حضرت
عمرؓ کی زہدانہ پالیسی کے زبردست حامی اور مال و دولت جمع کرنے کے
سمجھتی سے مخالف تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز
نہیں کہ وہ اپنے پاس ایک دن اور ایک رات سے زیادہ کی خوراک
یا کوئی ایسی چیز رکھے جسے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہو۔
وہ ہر روز شام کے وقت سہراہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے:

”اے دولت مندو اور غریبو! یا اور کھو کہ جو لوگ سونا اور چاندی
جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اسی
چاندی اور سونے سے قیامت کے دن ان کی پیشانیوں پہلوؤں اور
پیشوں پر داغ لگائے جائیں گے۔“

حضرت ابوذر غفاریؓ کے اس وعظ و نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ غریبوں

اور سکینوں کے جوصلے بڑھنے لگے اور انہوں نے امیروں پر دستِ رازیاں شروع کر دیں۔ جس پر امیروں نے حضرت معاویہؓ کے پاس جا جا کر حضرت ابوذرؓ کی شکایتیں کیں۔ مگر حضرت معاویہؓ خود ہی ابوذرؓ سے تنگ تھے کیونکہ کئی بار وہ ان کے پاس بھی آکر انہیں مال و دولت جمع کرنے پر سخت الفاظ میں زبرد تو بیچ کر چکے تھے۔ حضرت معاویہؓ نے دمشق میں قصرِ خضر تعمیر کرایا اور اس کے بارہ میں حضرت ابوذرؓ کی رائے دریافت کی۔ انہوں نے کہا۔

”اگر آپ نے یہ محل اللہ تعالیٰ کے مال سے بنوایا ہے تو خیانت کی ہے اور اگر اپنے مال سے بنوایا ہے تو اسراف سے کام لیا ہے۔“

واقعہ یہ ہے کہ شیخینؓ کے عہد میں مسلمان دولت و ثروت سے عموماً نا آشنا تھے لیکن جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ یہ حالت اسی وقت تک قائم رہی جب تک حضرت عمرؓ زندہ رہے۔ اگر ان کے بعد بھی مسلمان اپنی ایرانی بدوی حیثیت جاری رکھتے تو یہ حالت بھی بدستور قائم رہتی لیکن وہ جو کئی رو میوں اور ایرانیوں سے ملے ان کے دلوں میں بھی شان و شوکت

کے حصول اور مال و دولت جمع کرنے کا جذبہ ابھرا آیا۔ حضرت معاویہؓ کی
الغمام واکرام اور داد و دہش کے ذریعہ قبائلی اور افراد کو اپنا مطیع و فرمانبردار
بنانے کی عادت نے اس جذبہ کو ابھرنے اور پھیلنے میں مزید مدد دی۔

حضرت عثمانؓ کے خلیفہ ہونے پر حالات بالکل تبدیل ہو گئے۔
آپ نے مفتوحہ ممالک کی خالی زمینیں مسلمانوں میں تقسیم کرنی شروع کر دیں۔
کیونکہ وہ ایک عرصہ سے بے کار اور بے مصرف پڑی تھیں اور ان پر زراعت
نہ ہونے کی وجہ سے غلہ کی پیداوار میں کمی ہو رہی تھی۔ مسلمانوں نے وہ زمینیں
لے کر ان پر کاشت شروع کر دی اور ان سے فائدہ حاصل کرنے لگے
اس طرح وہ بھی زمینداری میں رومیوں اور ایرانیوں کے ہم بدلہ ہو گئے۔
یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ قریش بطور خود کاشت نہیں کرتے تھے
بلکہ اپنی زمینیں اپنے غلاموں یا ذمی کاشتکاروں کو بیٹائی پر دے دیتے
تھے۔ حکومت مسلمان زمینداروں اور کاشتکاروں سے دسواں حصہ بطور
محصول وصول کرتی تھی۔ اس طرح کان کریم کے اندازہ کے مطابق حضرت
عثمانؓ کے عہد میں فتوحات اور غزوات سے حاصل ہونے والے مال کے
علاوہ مملکت کی سالانہ آمدنی پانچ کروڑ درہم تک پہنچ گئی تھی۔

حضرت معاویہؓ لوگوں کی خوشنودی کے حصول اور اپنی سلطنت کے استحکام کی خاطر روپیہ خرچ کرنے میں بہت فیاض تھے۔ یہی حال ان کے امرا اور عمال کا تھا۔ وہ بھی اپنے مددگاروں اور حامیوں کو دل کھول کر روپیہ خرچ کرنے میں حضرت معاویہؓ سے کم نہ کھتے۔ حضرت معاویہؓ ہر اس شخص کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ جس نے مشکل کے وقت میں ان کی مدد کی تھی۔ اور جو لڑائیوں میں آپ کے ساتھ رہا تھا۔ شہر پر بھی آپ کی نظر عنایت بہت وسیع تھی۔ آپ نے ان کی پیش قدمیوں مقررہ کے انہیں اپنی سیاست کا ہم لڑا بنا لیا تھا۔ اور وہ آپ کی شرح سرائی میں کوئی دقیقہ فرود گذاشت نہ کرتے تھے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت معاویہؓ کی ہم لڑائی اور آپ کی امداد کا نتیجہ سونے اور چاندی کے ہزاروں ٹکڑوں کی صورت میں ملتا ہے۔ اس لئے وہ جوق در جوق حصول مراد کے لئے آپ کے دربار میں حاضر ہوتے۔ اس طرح آپ کی ذات بہت جلد مرجع خلافت بن گئی۔

مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح درہم روپیہ حضرت معاویہؓ کے استحکام کا باعث ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ

بنو امیہ کی سلطنت کے زوال اور انہدام کا موجب بھی ہوئے۔ کیونکہ بنو امیہ کے آخری فرمانرواؤں نے بعض علاقوں اور شہروں سے اپنی توجہ بالکل ہٹالی اور انہیں ہر قسم کی آسائشوں اور بڈل و عطا سے قطعاً محروم کر دیا۔ چنانچہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کو کامل ایک سال تک وظیفے نہ مل سکے لیکن اس کے بالمقابل حضرت معاویہؓ نے اہل بیت مثلاً حضرت حسنؓ حضرت حسینؓ اور حضرت عبداللہؓ بن عباسؓ کے وظیفے لاکھوں درہم سالانہ کر دئے تھے۔ جو حضرت عمر فاروقؓ کے مقرر کردہ وظیفے سے سینکڑوں گنا زیادہ تھے۔

وہ شہر اور قبیلے جو سلاطین بنو امیہ کی نظر عنایت سے محروم ہو گئے تھے اور وہ لوگ جنہیں وظائف اور عطا یا ملنے بند ہو گئے تھے ان میں سلطنت کے خلاف ناراضی کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ ان جذبات نے آگے چل کر بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ امویوں کے آخری دور حکومت میں اموال کی قلت بھی ان اسباب میں سے تھی جنہوں نے آل عباس کو ایک قائم شدہ حکومت اور جاری شدہ نظام کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا۔

یہی مال تھا جو ابتداء میں بنو امیہ کی سلطنت قائم کرنے کا موجب
 ہوا اور یہی مال تھا جو آخر میں ان کی بادشاہت کو تباہ کرنے کا سبب
 بنا۔

چونکہ اس باب میں ہم حضرت عمرؓ کی پالیسی کا جائزہ لے چکے
 ہیں لہذا اسی تسلسل میں ہم چند ایسی باتیں اور ذکر کرنا چاہتے ہیں جن
 کا ہمارے اس موضوع سے تعلق ہے۔

حضرت عمرؓ نے سب سے پہلے مدینہ میں فوجیوں کا ایک رجسٹریا
 کرایا۔ جسے ”دیوان“ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اس میں سارے
 مہاجرین، تمام انصار اور کل تابعین کے نام اور ان کے وظائف کی
 تفصیل درج تھی۔ یہ وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت
 اور اسلام میں سالیقیت کی بنا پر کم و بیش مقرر کئے جاتے تھے چونکہ
 اس زمانہ میں مسلمان تمام کے تمام اسلامی فوج میں شامل تھے۔ اس
 لئے یہ رجسٹریا اصل تمام مسلمانوں کا رجسٹر تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مجاہدین کی باقاعدہ

تنخواہیں مقرر نہیں تھیں۔ بلکہ جنگوں سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا
 خمس نکال کر باقی سارے کا سارا تمام سارے میں بھجوا دیا تقسیم کر دیا
 جاتا تھا۔ اس خیر القرون میں سابقیت اسلام اور حسب و نسب کی تیز
 نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی یہی طریقہ رائج رہا
 لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے باقاعدہ رجسٹر تیار کر لیا
 اور باعتبار نسب اور سابقیت لوگوں کے وظائف مقرر کئے۔ اس غرض
 کے لئے لوگوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر طبقہ کی تقسیم رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کے دور اور نزدیک ہونے اور
 سابقیت اسلام کے لحاظ سے کی گئی۔ ذیل میں ان سالانہ وظائف کی
 تفصیل دی جاتی ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مسلمانوں کو دئے
 جاتے تھے۔

پانچ ہزار درہم فی کس سالانہ	ان لوگوں کو جو جنگ بدر میں شریک تھے
چار ہزار " " "	ان لوگوں کو جو جنگ بدر میں شریک نہیں تھے
بارہ ہزار " " "	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہر ایک سے
بارہ ہزار " " "	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو

حضرت حسنیٰ اور حضرت حسینؑ کو

پانچ ہزار درہم سالانہ

اپنے بیٹے عبداللہ کو

تین ہزار ” ”

ہاجرین اور انصار کے بیٹوں کو

دو ہزار درہم فی کس سالانہ

اہل مکہ کو

اکھ سو ” ” ”

دیگر تمام مسلمانوں (شمول انصار) کو باعتبار تفاوت تین سو درہم سے
پانچ سو درہم تک سالانہ

ہاجرین اور انصار کی عورتوں کو دو سو درہم سے چھ سو درہم تک سالانہ
اگر ان تنخواہوں کا موجودہ دمانہ کی تنخواہوں سے مقابلہ کیا جائے

تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ اگر ہم درہم کی سونے کے چار پائیٹروں کے
پیرا تسلیم کر لیں تو بڑے سے بڑے آدمی کی سالانہ تنخواہ سونے کے سولہ لاکھ
سے زیادہ نہیں بنتی۔ اس تفصیل کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

عمر فاروق کے عہد میں مسلمانوں کے سرکردہ لوگوں کو جنہوں نے دین کی خاطر
زیادہ قربانیاں کی تھیں چار ہزار سے پانچ ہزار درہم تک تنخواہ ملا کرتی
تھی۔ اور عام مسلمانوں کو تین سو سے پانچ سو درہم تک۔ ان کی عورتوں
اور بچوں کو جو تنخواہ ملتی تھی۔ وہ اس کے علاوہ تھی۔ نیز ہر ایک مسلمان

کو ہر مہینے دو جریب گیہوں بھی ملا کرتا تھا۔

خلفائے راشدین کے زمانہ میں فوج کی تنخواہوں کا معیار یہی تھا
لیکن جب بنو امیہ کو اپنی سلطنت قائم کرنے اور حضرت معاویہؓ کو عربوں
کے مطیع کرنے کا خیال پیدا ہوا تو انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا
حضرت معاویہؓ کا لشکر ستر ہزار لوگوں پر مشتمل تھا اور اس لشکر پر سالانہ
سات کروڑ درہم خرچ کئے جاتے تھے۔ یعنی اوسطاً ہر شخص کو ایک ہزار
درہم سالانہ ملتے تھے۔ تنخواہوں کا یہ معیار حضرت عمرؓ کے زمانہ کی
تنخواہوں کے معیار سے کہیں زیادہ ہے۔

حضرت معاویہؓ کی امداد کرنے آپ کے ساتھ ہو کر لڑنے اور
آپ کی دعوت قبول کرنے میں سب سے پیش پیش یمن کے قبائل تھے
یہ سب کچھ وہ انعام و اکرام اور مال و دولت کی خاطر کر رہے تھے کیونکہ
محض اعلانِ کلمۃ الحق کے لئے جنگ کرنے کا شوق اور ولولہ تو خلفائے
راشدین کے دور کے خاتمہ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔

امداد کرنے کے معاوضہ میں حضرت معاویہؓ نے بھی عیسائیوں کی بڑی

قدر افزائی کی، انہیں ان کی توقع سے بڑھ چڑھ کر مال و دولت سے لوازا۔
 اور ان کا ایک علیحدہ لشکر ترتیب دیا۔ ہر معاملہ میں آپ ان لوگوں کے
 امر اور سرکردہ لوگوں سے مشورے لیتے اور انہیں اپنے قرب سے نوانستے
 تھے۔ اس کے نتیجے میں مہینوں کا زور اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ حکمران
 خاندان یعنی بنو امیہ پر بھی اپنی فضیلت جتانے اور علی الاعلان کہنے لگے
 کہ اگر وہ چاہیں تو تمام مصریوں کو (جن میں بنو امیہ بھی شامل تھے) شام
 سے نکال باہر کریں۔ اس پر حضرت معاویہؓ پچھتائے کہ انہوں نے اہل مین کو
 اس قدر کیوں بڑھایا؟ انہوں نے ایک اور قبیلہ قیس نامی کو اپنے ساتھ
 ملا یا اور انہیں بھی وہی مراتب عطا کئے جو اہل مین کو عطا کر رکھے تھے۔
 ان کی بھی وہی تنخواہیں مقرر کیں جو مہینوں کی مقرر کی تھیں۔ مہینوں کو
 بحری فوج میں شامل کیا اور قیسوں کو بڑی فوج میں۔ لیکن مہینوں کو یہ
 بات بہت ناگوار گزری۔ کیونکہ قیس قبیلہ مصر میں سے تھے۔ انہوں نے
 حضرت معاویہؓ سے بھی اپنی ناگواری اور خستگی کا اظہار کیا جس پر حضرت
 معاویہؓ نے دونوں قبیلوں کو ایک جاگیر کے ایک فوج ترتیب دی۔
 اس کے بعد یہ دونوں قبیلے ایک ساتھ ہی جنگ پر جایا کرتے تھے۔

حضرت معاویہؓ مال و دولت کو صرف فوج کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے ہی خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے مخالفین کی ناراضی مٹانے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لئے بھی دل کھول کر صرف کرتے تھے آپ اپنے عمال کو تاکید کرتے رہتے تھے کہ وہ ان لوگوں کو انعام و اکرام اور عطا یا دینے میں بہت فیاضی سے کام لیں۔ جن کے متعلق انہیں معلوم ہو کہ وہ حضرت علیؓ اور ان کی اولاد کے مددگاروں میں سے ہیں۔

حضرت معاویہؓ نے اپنے عہد میں تمام سلطنت کی پیمائش کرائی تھی لیکن اس پیمائش سے بھی زیادہ تر اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا مطلوب تھا۔ پیمائش کے دوران میں جتنی زمینیں ایسی معلوم ہوئیں جن کا کوئی مالک نہیں تھا وہ سب حضرت معاویہؓ نے اپنے اہل و عیال کے نام منتقل کر لیں۔

تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ زمین کو لوگوں میں تقسیم کر دینے اور اس کی پیداوار سے فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے دولت اسلامیہ کو بہت فائدہ پہنچا۔ کیونکہ وہ اموال جو ابتدائی عہد میں فتوحات اور غزوات کے ذریعہ حاصل ہوئے تھے ختم ہو چکے تھے اور سردست

فتوحات کا سلسلہ بھی اپنے عروج پر پہنچ کر ایک حد تک رک گیا تھا۔ اس
 لئے ضروری تھا کہ سلطنت کے مصارف پورے کرنے کے لئے متروکہ
 زمینوں کی دیکھ بھال اور کاشت کی طرف توجہ کی جاتی۔ یہ مقصد خالی
 اور غیر آباد زمینوں کو لوگوں میں تقسیم کر دینے کے سوا اور کسی ذریعہ سے
 حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت معاویہؓ نے ایسا ہی کیا اور زمینوں کو آباد
 کر کے سلطنت کے خزانوں کو بھر دیا۔

حضرت معاویہؓ کے آخری ایام

پچھلے ابواب میں ہم نے حضرت معاویہؓ کی شخصیت کے اکثر پہلوؤں پر دل کھولی کر بحث کی ہے اور ان کی ہوشیاری، سیاسی قابلیت، علم و فہم اور ذکاوت و فطانت کے بہت سے نمونے پیش کئے ہیں ذیل میں ہم ان کی شخصیت کے ایک اور پہلو کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ حضرت معاویہؓ میں دنیا بھر کی خوبیاں جمع تھیں لیکن ایک خوبی سے ان کی ذات خالی تھی اور وہ تھی جنگی جرات۔ البتہ اس خوبی سے ان کے حریف اور مد مقابل حضرت علیؓ پوری طرح مزین تھے۔ حضرت معاویہؓ کی سیرت و سوانح پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ

جہاں تک ممکن ہو سکتا جنگ سے گریز کرتے رہتے اور بدل و عطا اور سیاست و ہوشیاری سے اس خیار کو چرکے کی کوششوں میں مصروف رہتے۔ اغلب اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ خیال تھا کہ میری حکومت پائدار بنیادوں پر قائم نہیں اور میری سیاست اور خلافت سے ملک کے کثیر لوگوں کو اختلاف ہے۔ آپ کو ڈرتھا کہ اگر میری طرف سے جنگ کی ابتدا کی گئی تو میرا حریف عوام کو میرے خلاف بھڑکانے اور مجھ سے مزید نفرت دلانے میں اس حربے سے ضرور کام لے گا اور یہ پروپگنڈا کر کے کہ میں سلطنت اسلامیہ کے خرمین امن کو چنگاری دکھا رہا ہوں۔ ملک کے کثیر حصہ کو میرے خلاف کھڑا کر دے گا۔

آپ خانہ جنگی کو سخت ناپسند کرتے تھے اور اس کے نتائج و عواقب سے پوری طرح باخبر تھے۔ اپنے ایام حکومت میں جب کبھی بھی آپ کو بغاوت کا ڈر پیدا ہوا تو آپ نے بدل و عطا اور ڈیپلومیسی سے کام لے کر اس آگ کو فرو کر دیا۔ خواہ اس سے سلطنت کے وقار ہی کو خطرہ پہنچنے کا خطرہ پیدا ہوتا۔

بے شک آپ نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لئے فوجیں روانہ

کہیں لیکن ایسا انہوں نے مجبوری سے کیا۔ کیونکہ آپ کو اچھی طرح معلوم
 تھا کہ رومیوں سے ان کے علاقہ میں جا کر جنگ نہ کی گئی تو وہ مسلمانوں
 کے اقتراق سے فائدہ اٹھا کر اور ان کی خاموشی کو ضعف سے تعبیر کر کے
 ضرورتاً پر حملہ کر دیں گے جس سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔
 آپ نے جو بھری جنگیں کیں وہ بھی اگر چہ کوئی خاص اہمیت نہیں
 رکھتیں۔ لیکن اگر دوسری جہت سے دیکھا جائے تو ان سے حضرت معاویہؓ
 کی انتظامی قابلیت اور جنگی مہارت کا ضرورتاً چھٹا ہے اور یہ بات آشکارا
 ہو جاتی ہے کہ گو حضرت معاویہؓ میدان جنگ کے شہسوار اور ”جنگی
 انسان“ نہ تھے تاہم ملکی دفاع سے ہرگز غافل نہ تھے اور اس باب میں
 انہوں نے جو کام کیا وہ ان کے عہد کے کسی بڑے سے بڑے قائد اور
 سپہ سالار کو بھی کرنا نصیب نہ ہو سکا۔

اسے مصنف کا اشارہ اس جگہ حضرت معاویہؓ کے اس عظیم الشان جنگی بیڑے کی
 طرت ہے جو سترہ سو جہازوں پر مشتمل تھا اور جس نے رومی بیڑے کو شکست دے کر
 مجمع الجزائر کے بہت سے جزیروں کو جن میں روڈس اور قبرص بھی شامل تھے فتح
 کیا اور اس طرح رومیوں کے جنگی اور تجارتی جہازوں کا راستہ بند کر دیا۔ (مترجم)

حضرت معاویہؓ کی ایک خاص عادت بھی مورخ کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور وہ یہ کہ حضرت معاویہؓ شامی لشکر کو بالعموم شام سے باہر نہ بھیجتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیشک سلطنت بنو امیہ کے قیام کا اصل باعث اور بنیاد تھا اور اسی کی مدد سے آپ نے سلطنت اور حکومت حاصل کی تھی۔ اگر اسے لمبے عرصہ کے لئے شام سے باہر جانے کا موقع مل جاتا تو اجنبی خیالات اور بیرونی سیاست کے نت نئے طریقے لشکر کے خیالات پر ضرور اثر انداز ہوتے۔ حضرت معاویہؓ نے غامض طور پر کوشش کر کے ان لوگوں کو پورے طور پر اپنا ہم نوا اور مطیع و فرمانبردار بنایا تھا۔ آپ کو ڈر تھا کہ بیرونی تاثرات کہیں اس لشکر کی وفاداری کو متزلزل نہ کر دیں۔ اس لئے آپ اسے حتی الامکان شام سے باہر نہیں بھیجتے تھے۔ اگر کسی جگہ بغاوت پھوٹ پڑتی تھی تو اسے فرد کرنے کے لئے باہر مجبوری شامی لشکر کو روانہ کرتے تھے۔ لیکن جوں ہی بغاوت فرو ہو جاتی اسے فوراً واپس شام پہنچنے کا حکم دے دیتے۔ لشکر کے کسی شخص کو شام سے باہر رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہ تھی۔ دمشق کے لوگ بنو امیہ سے اخلاص رکھنے اور حکومت کی بخوشی حمایت

و نصرت کرنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ حجاج کو جب کبھی اہل عراق کے سامنے ان کے اشتدات کے متعلق خطیبہ دینے کی ضرورت پیش آتی تو وہ دمشق والوں کی اطاعت اور باہمی اتفاق کو بطور مثال ان کے سامنے پیش کیا کرتا تھا اور جب کبھی اسے عراقیوں کی طرف سے بغاوت یا فتنہ و فساد کا خطرہ ہوتا تھا تو وہ انہیں دھمکی دیتا تھا کہ اگر وہ اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئے تو شامی لشکر کو بلا کر ان کے سروں پر مسلط کر دیا جائے گا۔

حضرت معاویہؓ بھی شامی لشکر کی اطاعت اور اخلاص کی قدر کرتے تھے۔ لشکر کے امراء کو اپنے قرب میں جگہ دیتے تھے۔ ان کی تنخواہیں ہمیشہ قرار مقرر کی ہوتی لکھتیں۔ عطایا اور صلوات میں ان کو بہت زیادہ حصہ دیا جاتا تھا۔ ان امور کی بنا پر لشکر کو بھی حضرت معاویہؓ سے خاص تعلق تھا اور ایک ایک سپاہی ان کے ادنیٰ اشارہ پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا تھا۔

یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں کہ حضرت معاویہؓ نے اسلامی سلطنت پر گہری نظر ڈال کر یہ مناسب سمجھا ہو کہ بیرونی فتوحات کے سلسلہ

و وسیع کرنے کی بجائے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اپنی
 مصروفوں میں اتھا و پیدا کیا جائے اور مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق کو مضبوط
 بنیادوں پر قائم کر کے سلطنت کو مستحکم کیا جائے۔

اسلامی فتوحات کا سلسلہ اگرچہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا
 ہوا تھا تاہم مفتوحہ علاقوں میں ایک مضبوط حکومت کے قیام کی اشد ضرورت
 تھی سلطنت کے حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ ایک ایسی اعلیٰ
 درجہ کی تنظیم قائم کی جائے جو عربی روح اور ان قوموں کی روح کو اپنے اندر
 سمو لے جو اسلامی فتوحات کے باعث اور دین اسلام قبول کرنے کی وجہ
 سے اپنے آپ کو عربی ذریت میں جذب کر چکی تھیں۔ یہ چیزیں انتہائی کمیت
 کی حامل تھیں اور حضرت معاویہؓ ان کی طرف سے قطعاً لا پرواہی نہ برت
 سکتے تھے۔

اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ اپنے آخری ایام میں ویران
 سے اپنے اختلافات دور کرنے اور اعیان مملکت کو زبرد کی ولی عہدی پر
 رضا مند کرنے کے لئے حد سے زیادہ کوشاں تھے۔ تاکہ آپ کے بعد مملکت
 میں فتنہ و فساد نہ پھیل سکے۔ اور مسلمان اپنے آپ کو ایک منظم حکومت اور

اثر و اقتدار رکھنے والے حاکم کے ماتحت تصور کریں۔ ساتھ ہی آپ
 مملکت اسلامیہ کی تنظیم، قبائل کی شورشوں کو فرو کرنے اور مسلمانوں کی
 صفوں میں اتحاد پیدا کرنے میں نہایت درجہ ساعی تھے۔ مسلمانوں کو زراعت
 کی طرف مائل کرنے میں بھی آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ کا خیال تھا
 کہ زراعت میں مشغول ہونے کی وجہ سے لوگوں میں حکومت کے خلاف
 بغاوت اور فتنہ و فساد کے خیالات پیدا نہیں ہوں گے۔ اور وہ ہمہ تن
 اپنے کام میں لگے رہیں گے۔ خلافت کے نام کو بلند کرنے اور مرکزی اقتدار
 مضبوط کرنے سے آپ کبھی غافل نہیں رہے۔

حضرت معادینہؓ کے زمانہ میں دولت اسلامیہ ابتدائی منزلوں سے
 گزر رہی تھی۔ سلطنت کے استحکام کے لئے یہ ابتدائی عہد بہت سخت تھا۔ اسی
 لئے آپ کے شب و روز سلطنت کے استحکام کے متعلق تدابیر سوچنے
 اور اپنے اقتدار کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لئے غور و فکر کرنے
 میں بسر ہوتے تھے۔ ہر قسم کی مخالفت کو آپ ابتداء میں کچل دینے اور حریفوں
 کو مال و منال اور عطا یا وصلات دے کر رام کرنے کے قائل تھے۔ جمال

کے کاموں کی نگہداشت میں بھی آپ کو فی وقیفہ فروگذاشت نہ کرتے تھے اور ہمہ وقت اس بات کا جائزہ لیتے رہتے تھے کہ آیا آپ کے اعمال نے وہی راستہ اختیار کیا ہے جس پر آپ خود گامزن ہیں یا اس علاوہ کسی اور راستے پر ان کے قدم پڑ رہے ہیں۔

اپنے عمال میں سب زیادہ آپ جس شخص کی اصابت رائے کے معترف تھے وہ زیادہ بن ابرہہ تھا۔ یہ شخص پہلے حضرت علیؓ کے ساتھ تھا۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد حضرت معاویہؓ نے اسے بہت کچھ لالچ شے کے اور منت خوشامد کر کے اپنے مددگاروں میں شامل کر لیا تھا۔ آپ اکثر زیادہ کے اس قول کو یاد کیا کرتے تھے:-

”صاحب اقتدار شخص میں چار خوبیوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے اور وہ خوبیاں یہ ہیں:-

(۱) مال سے بچنا۔ (۲) محسن کو اپنے قرب میں جبکہ دنیا (۳) بدخواہ کے ساتھ سختی کا سلوک کرنا اور (۴) ہمیشہ سچ بولنا۔

زیادہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے ماتحت حکام کے لئے ہمیشہ قرآن سنواہیں مقرر کیں جو حکم و ہمیشہ ایک ہزار درہم کے لگ بھگ ہوتی تھیں۔

خود اس کی اپنی تنخواہ پندرہ ہزار روپے تھی۔ وہ کہا کرتا تھا۔
”والی کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے کام سے

پوری طرح باخبر ہو۔“

حضرت معاویہؓ بھی حضرت عمرو بن العاص سے زیادہ زیادہ کو
پسند کرتے تھے۔ اگر حضرت عمرو بن العاص حضرت معاویہؓ کی خلافت کے
ابتدائی ایام میں وفات نہ پا جاتے اور کچھ عرصہ اور زندہ رہتے تو یقیناً
ان دونوں میں زیر دست اختلاف پیدا ہو جاتا۔ گو حضرت معاویہؓ بطور
خود کسی سے اختلاف پیدا کرنے کو مناسب نہ سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت
عمرو بن العاص نے اپنے لئے مصر کی جو ولایت حاصل کر لی تھی۔ وہ
حضرت معاویہؓ کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ اور حضرت عمرو
بن العاص اپنے آپ کو حضرت معاویہؓ سے زیادہ قابل سمجھتے تھے اور اکثر
اپنے ہم نشینوں سے کہا کرتے تھے کہ ”اگر میری سعی و تائید حضرت معاویہؓ کو حاصل
نہ ہوتی تو وہ کبھی خلافت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتے۔“

حضرت عمرو بن العاص کی منت خوشامد کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا

ینا حضرت معاویہؓ کا بہت بڑا کارنامہ ہے جس وقت حضرت علیؓ اور
 حضرت معاویہؓ کے درمیان اختلاف برپا ہوا اس وقت حضرت عمرو بن
 العاص اس جھگڑے سے بالکل الگ تھلگ رہے حضرت معاویہؓ نے
 ان کی ملکی معاملات سے واقفیت کمال ہوشیاری اور نہایت درجہ کاوت
 و فطانت کو دیکھ کر انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہا اور بالآخر اپنی کوششوں
 میں کامیاب ہو گئے۔ اس صلہ میں انہیں مصر کی ولایت بھی سپرد کردی
 لیکن پھر بھی دونوں کے درمیان ولی مودت قائم نہ ہو سکی۔ دونوں اپنے
 دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و حسد کے جذبات چھپائے
 ہوئے تھے جس کا اظہار کبھی کبھی دونوں کے چہروں اور زبانوں سے
 بھی ہو جاتا تھا۔

جنگ صفین کے موقع پر حضرت علیؓ نے حضرت معاویہؓ کو دعوت
 مبارزت دی حضرت معاویہؓ نے پس و پیش کیا جس پر حضرت عمرو بن
 العاص نے اُن سے کہا:

"علیؓ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ جیسے شخص کو اُن کی دعوت مبارزت

قبول کرنے میں پس و پیش کرنا زیب نہیں دیتا۔"

یہ سن کر حضرت معاویہؓ کہنے لگے :-

”تم مجھے دھوکا دے رہے ہو اور میرے قتل کے درپے ہو۔“

ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ نے اپنے ہم جلسیوں سے پوچھا :-

”سب سے عجیب چیز کیا ہے؟“

یزید نے جواب دیا :-

”سب سے عجیب چیز یہ بادل ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان

ٹھہرا ہوا ہے۔ ذینچے سے اسے کوئی چیز سہارا دئے ہوئے ہے اور نہ

وہ اوپر سے کسی شے سے بندھا ہوا ہے۔“

دوسرا کہنے لگا :-

”عجیب تر امر یہ ہے کہ جاہل کسی چیز کو حاصل کر لے لیکن عقلمند اس

کے حصول سے محروم رہے۔“

حضرت عمرو بن العاصؓ کہنے لگے :-

”عجیب تر امر یہ ہے کہ کوئی شخص باطل پر ہونے کے باوجود اس

شخص پر غالب آجائے جو حق پر ہو۔“

دراصل آپ کی مراد یہ تھی کہ معاویہؓ جو باطل پر ہیں، حضرت علیؓ پر

غالب آگئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہئے۔“

حضرت معاویہؓ نے بھی ترکی تہر کی جواب دیا:-

”نہیں بلکہ عجیب تر امر یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی ایسی چیز دے دی جائے

جس کا وہ مستحق نہ ہو۔“

حضرت معاویہؓ کا مطلب یہ تھا کہ عمرو بن العاص کو مصر کی ولایت

سپرد کر دی گئی ہے لیکن وہ اس کے حق دار نہیں ہیں۔“

اس طرح دونوں نے ایک دوسرے کے متعلق اپنے اپنے جذبات

دوسرے پر ظاہر کر رکھے۔

لیکن حضرت عمرو بن العاص حضرت معاویہؓ کی خلافت کے ابتدائی

ایام ہی میں وفات پا گئے حضرت معاویہؓ نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ

اُس نے انہیں ایسی شخصیت سے نجات دی جس کی طرف سے انہیں کبھی

بھی اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔

البتہ جو شخص حضرت عمرو بن العاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ سے

بھی زیادہ حضرت معاویہؓ کے قریب تھا وہ زیادہ بن ابیہ تھا۔ زیادہ پر

حضرت معاویہؓ کو جو اعتماد تھا وہ اور کسی شخص پر نہ تھا۔ وہ اس کی سختی اور
 دور رس کو بنظر استہسان دیکھتے تھے۔ زیاد نے بھی حضرت معاویہؓ کی ان
 توقعات کو جو وہ اس سے لگائے ہوئے تھے۔ پورا
 کر کے دکھا دیا اور جس جس جگہ کا اسے والی مقرر کیا گیا۔ وہاں اس نے
 نظم و نسق کو کھٹوس اور مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا۔ اس کی توجہ حضرت معاویہؓ
 کا اقتدار مضبوط کرنے سے زیادہ اس علاقہ کے امن و امان اور نظم و نسق کی حالت
 کو بہتر بنانے کی عزت ہوتی تھی جس کا اسے والی بنایا جاتا اور وہ ایسا کرنے میں بے طرح کامیاب رہا
 ہمارے خیال میں زیاد کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے پیش نظر
 محض اپنا اقتدار ہوتا ہے۔ اگر اقتدار اور عہدوں کی خاطر انہیں اپنی فاداری
 کا مرکز بنا لیا بھی پڑے تو وہ اس سے دریغ نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت علیؓ
 کے عہد میں چونکہ اسے بڑے بڑے مناصب پر فائز رہنے کا موقع
 ملتا رہا۔ اس لئے وہ آپ کی اطاعت کا دم بھرتا رہا۔ اور جب حضرت
 معاویہؓ نے اپنے زمانہ میں اسے والی بنانے کی پیش کش کی تو وہ ان
 کے ساتھ ہو گیا۔

حضرت معاویہؓ کا انتظام مملکت

حضرت معاویہؓ نے اپنی تمام زندگی ترقی اور عروج حاصل کرنے میں صرف کر دی۔ جب آپؓ کی امور کی تنظیم میں مشغول ہوتے تھے تو ہر مشکل امر آپؓ کی نظر میں آسان معلوم ہوتا تھا۔ ایک بار ایک اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان آپؓ کی قبر کے پاس سے گزرا اور آپؓ کے لئے رحمت کی دعا مانگی۔ اس پر ایک آدمی نے جو ساتھ تھا پوچھا:

”امیر المؤمنین! یہ کس شخص کی قبر ہے؟“

عبدالملک نے جواب دیا:

”یہ قبر جس کی ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ وہ علم کے ساتھ ہوتا“

تھا، علم کے ساتھ سکوت اختیار کرتا تھا، جب دینے پر آتا تھا تو لوگوں کو مالدار کر دیتا تھا اور جب لڑائی کے لئے آمادہ ہوتا تھا تو بدعت ایل کو فنا کر دیتا تھا۔“

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اگرچہ حضرت معاویہؓ کے نکتہ چینیوں میں سے تھے مگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں :-

”میں نے حضرت معاویہؓ سے زیادہ ریاست اور سلطنت کے لائق کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔“

حضرت معاویہؓ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب قصہ بیان کر دینا لطف سے خالی نہ ہوگا۔ علامہ فخری لکھتے ہیں :-

”حضرت معاویہؓ نے ایک انصاری کو پانچ سو درہم بھیسے۔ انہوں نے یہ رقم اپنی شان کے مطابق نہ سمجھی اور اپنے بیٹے سے کہا :-

”یہ رقم معاویہؓ کے پاس سے جاؤ اور ان کے منہ پر سے مارو۔“

اس کے بعد اس سے قسم لی کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔

لڑکا درہموں کی گنتی لے کر حضرت معاویہؓ کے پاس آیا اور کہنے

لگا :-

”امیر المؤمنین! میرے والد بہت تیز مزاج آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور مجھ سے ایسا کرنے کے لئے قسم بھی لے لی ہے اب بتلائیے میں کیا کروں؟“

یہ سن کر حضرت معاویہؓ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا اور کہا: ”اپنے والد کا حکم بجا لاؤ لیکن ذرا آہستہ سے مارنا۔“

یہ سن کر لڑکا شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور درہم کی کھتیلی پھینک دی۔ حضرت معاویہؓ نے رقم دگنی کر کے اُسے دے دی جسے لیکر وہ اپنے والد کے پاس چلا گیا۔

جب یزید کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو وہ غصتہ میں بھرا ہوا باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا:۔

”آپ نے بھی علم اور بردباری کی انتہا کر دی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس تخت اور بردباری کو آپ کی کمزوری اور بزدلی پر محمول نہ کیا جائے لگے۔“

حضرت معاویہؓ نے کہا:۔

”اے بیٹے! علم کی وجہ سے کبھی ندامت اور ذلت اٹھانی نہیں پڑتی

تم خود جس طرح چاہو اپنی زندگی بسر کرو۔ لیکن مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔“
 اسی پاکیزہ سیرت کی وجہ سے حضرت معاویہؓ تمام عالم اسلام کے
 خلیفہ بن گئے اور مہاجرین اور انصار کی گردنیں ان کے مسلسل احسان
 و سلوک سے خم ہو گئیں۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ اپنے ہم جلسوں
 سے فرمایا:-

”تم لوگ قبیر و کسریٰ اور ان کی عقلمندی اور دانائی کا ذکر کرتے
 ہو۔ حالانکہ تمہارے اندر معاویہؓ موجو رہیں جو عقلمندی اور دانائی میں
 قبیر و کسریٰ سے کسی طرح کم نہیں۔“

رفاہ عامہ کی ذیل میں آپ نے جو کارہائے نمایاں سرانجام دئے
 ان میں ڈاک کے سلسلہ کا قیام بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے جس کا سرسری
 سا تذکرہ اگرچہ صفحاتِ ماقبل میں ہر جگہ ہے مگر ذیل میں یہ ذکر ذرا تفصیل
 سے کیا جاتا ہے۔

برید (ڈاک) کا انتظام ایرانیوں اور رومیوں کے ہاں بھی تھا لیکن

آپ نے اسے بالکل نئے سانچے میں ڈھال دیا اور اسے نہایت عمدہ طور پر منظم اور مرتب کیا۔ ڈاک کا یہ اعلیٰ انتظام بھی منجملہ ان اسباب کے تھا۔ جنہوں نے حضرت معاویہؓ کی سلطنت کے استحکام میں مدد دی آپ دمشق میں اپنے محل سے ایک حکم جاری کرتے تھے اور بہت ہی مختصر عرصہ میں وہ حکم ان کی وسیع مملکت کے آخری سرے تک پہنچ جاتا تھا۔

برید کا انتظام اس طرح تھا کہ متعدد مخصوص چوکیوں پر مضبوط اور تیز منڈ گھوڑے ہر وقت بالکل تیار رکھتے رہتے تھے۔ قاصد ایک جگہ سے خطوط لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا تھا۔ اور منزل پہنچ کر اس گھوڑے کو تیز چھوڑ دیتا تھا اور فوراً دوسرے تازہ دم گھوڑے کو لے کر دوبارہ تیزی کے ساتھ اپنا سفر شروع کر دیتا تھا۔ اس طرح ڈاک نہایت سرعت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی تھی۔

برید کے لغوی معنی "بارہ میل" کے ہیں چونکہ اس وقت ایک منزل سے دوسری منزل کا فاصلہ بالعموم بارہ میل کا ہوتا تھا۔ اس لئے ڈاک کے انتظام کو بھی "برید" کہنے لگے۔

حضرت معاویہؓ نے برید کا انتظام سلطنت کے ہر حصہ میں کر رکھا تھا

اس کا زبردست فائدہ یہ تھا کہ تمام مملکت کی خبریں بہت سرعت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی تھیں اور حضرت معاویہؓ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے مملکت کے تمام تازہ ترین حالات رعایا کے حال احوال اور اپنے عمال کی سرگرمیوں اور کارروائیوں سے باخبر رہتے تھے۔

حضرت معاویہؓ نے ایک اور محکمہ بھی ایجاد کیا تھا۔ اور وہ تھا۔ "دیوان خاتم" اس دفتر کا شمار بہت اہم دفاتر میں ہوتا تھا۔ اور یہ آج تک دنیا کے بعض ممالک میں موجود ہے۔ اگر یہ وجود میں نہ آتا تو سلطنت کا تمام انتظام خراب ہو جاتا اور دھوکہ بازی عام ہو جاتی۔

طریق کار اس طرح تھا کہ بارگاہِ خلافت سے جو حکم صادر ہوتا یا خلیفہ کسی شخص کو خزانہ سے کوئی رقم دینی چاہتے تو وہ حکم پہلے اس دیوان (دفتر) میں آتا۔ یہاں اس حکم کی پوری نقل رجسٹر میں درج کر لی جاتی۔ اور اصل حکم یا فرمان کو مہر لگا کر مکتوب الیہ کی جانب روانہ کر دیا جاتا۔ حضرت معاویہؓ کو یہ دفتر قائم کرنے کا خیال اس طرح آیا کہ ایک مرتبہ آپ نے امیر عراق زیاد بن ابیہ کو لکھا کہ حاملِ رقعہ ہذا کو ایک لاکھ درہم دے دئے جائیں۔ وہ شخص خط لے کر روانہ ہو گیا۔ راستہ میں اس نے

خط کو کھول کر پڑھا (اس وقت تک خطوط پر مہر نہیں لگائی جاتی تھی) اور ایک لاکھ درہم کو دو لاکھ درہم بنا دئے۔ زیاد نے خط پڑھ کر اُسے دولاکھ درہم دیدئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت معاویہؓ کی خدمت میں زیاد کی طرف سے حساب پہنچا تو آپ کو اُسے دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور زیاد کو لکھا کہ میں نے تو تمہیں ایک لاکھ درہم دینے کے لئے لکھا تھا۔ تم نے دو لاکھ درہم کیسے دے دئے؟ جس پر زیاد نے اصل فرمان واپس بھیج دیا اور لکھ دیا کہ میں نے تو آپ کے حکم کے مطابق رقم ادا کی ہے۔ حضرت معاویہؓ نے اس شخص سے ایک لاکھ درہم واپس وصول کئے اور آئندہ کے سدباب کے لئے "دیوان خاتم" قائم کر دیا۔ جہاں تمام فرامین سر مہر کر کے باہر بھیجے جاتے تھے۔ اس طرح کسی شخص کو نہ تو یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ فرمان میں کیا لکھا ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس خط میں تغیر و تبدیل کر سکتا تھا۔

حضرت معاویہؓ نے دوسرے امور کے علاوہ تصنیف و تالیف کا بھی شوق تھا۔ اس غرض کے لئے آپ نے ابن اشلطیب

کو جو یونانی زبان سے واقف تھا۔ بعض یونانی طبی کتابیں ترجمہ کرنے
 کا حکم دیا۔ اس طرح اسلام میں ترجمہ کے کام کی ابتدا ہوئی۔
 حضرت معاویہؓ نے ان کتابوں کا ترجمہ صرف اپنے لئے کرایا تھا
 اس لئے عام لوگوں میں تو ان کی اشاعت نہ ہوئی۔ البتہ آپ کے
 بعد آنے والے خلفاء بنو امیہ کے پاس کچھ عرصہ تک ان کتابوں کے
 مسودے موجود رہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ سب عنایت سے ہر گئے۔ خالد بن
 یزید بن معاویہ ان کا بڑا شائق تھا۔ اور اس نے بڑی محنت سے ان
 سب کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اسے علم کا بے حد شوق تھا۔ اسی نے
 سب سے پہلے فلسفہ کی بعض کتابیں عربی میں ترجمہ کرائیں۔ پہلے اُسے
 اپنے لئے خلافت کی خواہش تھی۔ لیکن جب خلافت پر مردان قابض ہو گیا۔
 تو خالد نے اپنی تمام تر توجہ مختلف علوم کی تحصیل کی طرف مبذول کر دی
 اس نے یونانی فلسفیوں کی ایک جماعت سے جو مصر میں مقیم تھی، کیمیا
 اور طب کے علوم خود بھی سیکھے اور فلسفیوں کو حکم بھی دیا کہ وہ یونانی اور
 قبطی زبانوں سے فلسفہ، کیمیا اور طب کی کتابیں عربی میں ترجمہ کریں۔ چنانچہ
 اس طرح بہت سی کتابیں ترجمہ ہوئیں۔

خالد کو کہیا اور طب میں بہت دسترس حاصل تھی۔ اُس نے ان
موضوعات پر کچھ رسالے بھی لکھے تھے جن سے ان فنون کے متعلق اس
کی قابلیت اور مہارت ظاہر ہوتی تھی۔ ان رسائل کا ابن خلدکان نے
اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ لیکن آج کل ان کتب اور رسائل میں سے
کوئی باقی نہیں۔

حضرت معاویہؓ کی وفات

حضرت معاویہؓ کو اپنی زندگی کے آخری حصہ میں سب سے بڑی فکریہ تھی۔ کہ ان کے بیٹے یزید کی ولی عہدی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور ان کے بعد وہ اطمینان سے کاروبار حکومت چلا سکے۔ آپ اپنی زندگی میں لوگوں سے اس کے لئے بیعت لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگرچہ آپ جانتے تھے کہ امت اس کی بیعت پر رضی نہیں اور لوگوں نے محض خوف کی وجہ سے بیعت کی ہے۔ تاہم آپ کو یہ بھی یقین تھا کہ آپ کی وفات کے بعد چار اشخاص کے سوا اور کوئی شخص یزید کے خلاف تلوار اٹھانے کی جرأت نہیں کرے گا۔ ان

پارا شخاص پر بھی جب آپ غور کرتے تھے تو سوائے عبداللہ بن ابی
سہل، جن کی جرأت اور بہادری کے آپ قائل تھے، باقی لوگوں کے
معاملہ کو آپ آسان سمجھتے تھے۔

جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے زید کو بلایا
اور اس سے کہا۔

”اے میرے بیٹے! میں نے تمہارے لئے ہر قسم کا بند و بست
کر دیا ہے۔ تمہارے دشمنوں کو تمہارا بیع بنا دیا ہے۔ عربوں کی گردنیں
تمہارے سامنے جھکا دی ہیں۔ خلافت کے معاملہ میں صرف چار قریشی
تمہارے حریف ہو سکتے ہیں۔

(۱) حسین بن علیؑ

(۲) عبداللہ بن عمرؑ

(۳) عبداللہ بن زبیرؑ اور

(۴) عبدالرحمن بن ابوبکرؑ

عبداللہ بن عمر کو تو عبادت نے تھکا دیا ہے جب وہ دیکھیں گے
کہ دوسرے لوگوں نے تمہاری بیعت کر لی ہے تو وہ بھی تمہاری بیعت

کر لیں گے۔

حسین بن علیؑ کو اہل عراق تمہارے مقابلہ میں لا کر چھوڑ
اگر وہ تمہارے مقابلہ پر نکلیں اور تم کامیاب ہو جاؤ تو درگزر
کام لینا۔ کیونکہ ہمارا ان سے رشتہ داری کا قلعہ ہے۔ اس
علاوہ ان کا ہم پر بہت بڑا حق بھی ہے۔

عبدالرحمن بن ابوبکرؓ ایسے آدمی ہیں کہ اپنے ساتھیوں
جو کام کرتا دیکھتے ہیں خود بھی وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی
عورتوں اور لہو کی طرت دیا وہ مائل ہے۔ البتہ جو شخص شیر کی
گھات لگائے گا اور لوٹری کی طرح چالیں چلے گا وہ عبدال
زبیرؓ ہے۔ اگر وہ تمہارے مقابلہ کے لئے نکلے اور تم کامیاب
تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔

ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ ۶۸۰ھ میں
حضرت معاذ بنیہ کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو زیدؓ آپ
پاس موجود نہ تھا اور کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آپ نے پول
افسرا علیہ الصلوٰۃ ک بن قیس اور مسلم بن عقبہ کو بلا یا اور انہیں

کی :-

”نیزید کو میری یہ وصیت پہنچا دینا۔ کہ تم اہل حجاز پر خاص لطف و کرم کی نظر رکھنا۔ کیونکہ تمہارے اہل و عیال ان ہی میں سے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص تمہارے پاس آئے تو اس سے بہت اخلاق اور تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آنا۔ اور ان میں سے جو لوگ تمہارے پاس نہ آسکیں ان کی اچھی طرح خبر گیری کرتے رہنا اہل عراق سے بھی تلمطف اور مہربانی سے پیش آنا۔ اگر وہ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ تم بہر روز ان کے عامل کو تبدیل کر دیا کرو تو بلا تامل مان لینا۔ کیونکہ کسی عامل کو معزول کرنا اس سے اچھا ہے کہ ایک لاکھ تلواریں تمہارے مقابلہ کے لئے میانوں سے نکل آئیں۔ اہل شام پر بھی نظر عنایت رکھنا۔ کیونکہ وہ تمہارے رازدار اور حامی و مددگار ہیں۔ اگر تمہیں کسی دشمن کا مقابلہ درپیش ہو تو شامیوں سے مدد لینا۔ لیکن جب لڑائی ختم ہو جائے تو اہل شام کو واپس شام بھیج دینا۔ کیونکہ اگر وہ شام سے باہر دوسرے علاقوں میں سکونت پذیر ہوں گے تو ان کے اخلاق و عادات میں تغیر واقع

ہو جائے گا۔ قریش میں سے مجھے تین آدمیوں کا خوف ہے۔

(۱) حسین ابن علیؑ

(۲) عبداللہ بن زبیرؑ اور

(۳) عبداللہ بن عمرؑ

ابن عمرؓ تو دینی معاملات میں منہمک رہتے ہیں۔ امید فانا ہے کہ وہ تم سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ حسین بن علیؑ کو انسان ہیں۔ مجھے خیال ہے کہ اپنے والد کی شہادت اور اپنے بھائی صلح کر لینے کی وجہ سے وہ بھی خاموش ہی رہیں گے۔ ان کو سے رشتہ داری بھی ہے۔ ان کا ہم پر حق بھی ہے۔ اور ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت بھی ہے۔ تاہم میرا خیال ہے اہل عراق انہیں تمہارے مقابلہ پر ضرور لائیں گے۔ اگر تم ان آجائو تو درگزر سے کام لینا۔ اگر وہ میرے مقابلہ پر آتے اور ہم بھاتا تو میں بھی ان سے درگزر ہی سے کام لیتا۔ البتہ ابن زبیر خطرناک آدمی ہے۔ اگر وہ تمہارے قابو میں آجائے تو اسے مت۔ ہاں اگر وہ تم سے صلح کرنے کا خواہشمند ہو تو ضرور صلح

رقوم کو جہاں تک ہو سکے خون ریزی سے بچانا۔

حضرت معاویہؓ کھانے کے معاملہ میں بہت پر خور واقع ہوئے تھے۔ روایت مشہور ہے کہ وہ دن میں پانچ دفعہ کھانا کھاتے تھے خری مرتبہ کھانا بہت پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ لیکن پھر بھی غلام سے کہتے تھے: "دستر خوان اٹھا لو۔ میں سیر تو نہیں ہوا۔ لیکن کھانا کھاتے کھاتے اکتا گیا ہوں۔"

آپ کے متعلق یہ روایات بھی آئی ہیں کہ جن مہمانوں کو آپ دسترخوان پر بلاتے تھے انہیں بہت کم کھانا دیتے تھے لیکن آپ کی سخاوت اور بذل و عطا کو دیکھتے ہوئے یہ روایت ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مہمان اس وجہ سے کہ وہ امیر المؤمنین کے دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے خود کم کھاتا ہو۔

جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا اس کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو لقوہ ہو گیا تھا۔ نیز آپ کا نصف جسم بالکل بے کار ہو گیا تھا۔ گویا ایک قسم کا فالج کا اثر تھا۔

بعض کہتے ہیں کہ چند لوگ آپ کے پاس آئے۔ آپ کے دانت گر چکے تھے ایک شخص نے آپ سے کہا:-

”امیر المؤمنین! اعضا میں سے بعض بعض کا وارث ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اُس نے آپ کو ان کا وارث بنایا ہے اور انہیں آپ کا وارث نہیں بنایا۔“

جب حضرت معاویہؓ نے محسوس کیا کہ اب موت آہستہ آہستہ اُن پر غلبہ پا رہی ہے اور لوگوں میں بھی یہی چہ میگوئیاں جا رہی ہیں۔ کہ امیر المؤمنین کی وفات نزدیک ہے تو انہوں نے اپنے اہل و عیال سے کہا:-

”میری آنکھوں میں سرمہ لگاؤ اور سر میں تیل ڈالو۔“
انہوں نے ایسا ہی کیا اور سرمہ لگانے اور سر میں تیل ڈالنے کے علاوہ چہرہ پر بھی تیل ملا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:-
”مجھے ٹپاک لگا کر بٹھا دو اور لوگوں کو میرے پاس آنے کی اجازت دے دو۔ لیکن انہیں تاکید کرو کہ ہر شخص کھڑے ہو کر سلام کرے بیٹھے نہیں۔“

چنانچہ لوگوں نے آنا شروع کیا۔ ہر شخص کھڑے ہو کر سلام
 جب وہ آپ کے چہرہ کو دیکھتا تو اُسے یقین نہ آتا کہ آپ بیمار
 - وہ کہتا -

”افواہ گرم ہے کہ امیر المؤمنین کی وفات قریب ہے لیکن وہ
 میلے سے بھی زیادہ تندرست معلوم ہوتے ہیں۔“
 جب تمام لوگ آپ کو سلام کر کے چلے گئے تو آپ نے یہ
 مر پڑھا -

”میں نے باوجود موت کے قریب ہونے کے چھ میگوئیاں کرنے
 لال کے سامنے دلیری دکھائی اور لوگوں پر واضح کر دیا کہ میں کمزوری
 اظہار کرنے والا نہیں۔“
 جب مرض نے لایاوتی بکڑی تو آپ نے اردگرد کے لوگوں
 سے کہا -

”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قسمیں سنائی
 تھی۔ میں نے اُسے سنبھال کر رکھ چھوڑا ہے۔ ایک دن حضورؐ نے
 اپنے ناخن کاٹے تھے۔ میں نے انہیں بھی جمع کر کے ایک شیشی میں محفوظ

رکھ دیا ہے۔ اب تم وہ قمیص مجھے پہنا دو اور ان ناخنوں کو پانی میں
 پیس کر میری آنکھوں اور منہ پر مل دو۔ شاید خدا تعالیٰ اُن ہی کی
 برکت سے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد اشہب
 بن رماہ کے یہ شعر پڑھے۔

”جب میں مرجاؤں گا تو سجاوت اور بخشش کا خاتمہ ہو جائیگا۔“

ساجیت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا۔ اور ناخلف لوگوں
 کے ہاتھوں دین و دنیا کی بھلائی عوام سے روک دی جائے گی۔“

یہ سن کر آپ کی کسی بیٹی یا کسی اور عورت نے کہا:

”امیر المؤمنین! ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔“

اس کے بعد آپ نے یہ شعر پڑھا ہے

وَإِذَا الْمُنِيَّةُ انْشَبَتْ اظْفَارَهَا

الْفَيْتُ كُلُّ قَيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ

(جب موت اپنے ناخن چھبھو دیتی ہے تو کوئی تعویذ فائدہ نہیں دیتا)

اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب

ذرا آفاقہ ہوا تو آپ نے کہا۔

واللہ عزوجل کا تقویٰ اختیار کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص
 کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا جو اس کا تقویٰ اختیار کرے گا۔
 مگر جو شخص اس کا تقویٰ اختیار نہیں کرے گا تو خدا تعالیٰ بھی اسے
 دوزخ کی آگ سے نہیں بچائے گا۔

اس کے بعد پھر غشی طاری ہو گئی اور اسی حالت میں آپ نے
 اپنی جان جانِ آسودہ کے سپرد کر دی۔ آپ کی وفات شعبان
 سنہ ہجری ۱۱۱۱ء میں ہوئی۔

مصاویر کتاب

ہم نے اس کتاب کی تالیف میں کئی مولفیات اور تصانیف سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان تمام کتابوں کی تفصیل ہماری پچھلی کتابوں (خلفاء محمدؐ) میں درج ہے۔ حجم بڑھ جانے کے خیال سے ہم نے اس کتاب میں وہ تفصیل درج نہیں کی۔

تاہم اس ذیل میں بعض ایسی کتابوں کا ذکر کرنا ضروری ہے جو حال ہی میں شائع ہوئی ہیں۔ اور جن سے ہمیں بہت سی نئی معلومات ملی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب "معاویہ" ہے جو پروفیسر ادیب علی آفندی النصرولی نے مرتب کی ہے۔ موجودہ زمانہ میں حضرت معاویہؓ کے متعلق مورخین عرب کی طرف سے یہ پہلی کتاب شائع ہوئی ہے۔

اس میں حضرت معاویہؓ کی شخصیت آپ کے اغراض و مقاصد آپ کے
 کے نظم و نسق اور آپ کے اخلاق و عادات کے متعلق متعدد قیمتی
 معلومات درج ہیں۔

یورپی مستشرق "لائفس" نے بھی حضرت معاویہؓ کے حالات میں
 ایک کتاب لکھی ہے جس کی اہمیت اور افاقت سے انکار نہیں کیا
 جاسکتا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اُس نے آپ کے حالات بیان کرتے
 وقت کئی نتائج ایسے لکھے ہیں جو واقعات اور تاریخی حقائق کے
 قطعاً مطابق نہیں۔ اگر وقت اور فرصت کی کمی نہ ہوتی تو ہم اس کے
 چند نمونے اپنی کتاب میں بھی درج کرتے۔ جن کے متعلق بلاشبہ
 کہا جاسکتا ہے کہ وہ انصاف و عدل سے بعید اور واقعات و حقائق
 کے برخلاف ہیں۔

عمر البانصر

۱۱

شیخ محمد اسماعیل پانی پتی

حضرت معاویہؓ کے دستِ بازو

حضرت معاویہؓ بن ابی سفیان مسلمانوں کے رب سے پہلے باوثاق تھے۔ اُن کو باوثاقیت کے درجے تک جن لوگوں نے پہنچایا۔ اُن میں سرفہرست تین اشخاص کے نام ہیں :-

۱۔ حضرت عمرو بن العاص۔ جو مصر کے فاتح تھے

۲۔ حضرت مغیرہؓ بن شعبہ۔ جو مشہور صحابی ہیں

۳۔ زیاد بن ابیہ جس کی قسمت میں اُس شقی ازلی کا باپ ہونا لکھا تھا جو جگر گوشہ رسولؐ کا قاتل تھا۔

جس طرح محمد بن قاسم فتح سندھ میں حجاج بن یوسف کا قوتِ بازو

بنا جس طرح طارق بن زیاد اندلس کی فتح میں موسیٰ بن نصیر کا مددگار ثابت

ہوا۔ جس طرح ابوسلم خراسانی کی تلوار نے عباسیوں کی سلطنت قائم کی۔
 ٹھیک اسی طرح ان تینوں نے حضرت معاویہؓ کی حکومت استوار کرنے
 میں ان کی زبردست مدد کی۔ اس مضمون کو دوسرے لفظوں میں اس طرح
 بیان کر سکتے ہیں کہ جس طرح یحییٰ برمکی ہارون الرشید کا۔ نظام الملک طوسی
 ملک شاہ سلجوقی کا اور نواب سعد اللہ خاں شہاب الدین شاہ جہان کا نہایت
 درجہ معاون اور جان نثار رہا۔ اسی طرح یہ تینوں حضرت معاویہؓ کے معین اور
 ہی خواہ رہے۔ جس طرح ان تینوں بادشاہوں کے یہ وزیر اگر نہ ہوتے۔ تو
 ان کی سلطنتوں کو اس قدر استحکام اور قوت حاصل نہ ہوتی جو ہوئی۔ بالکل اسی
 طرح اگر یہ تینوں اصحاب حضرت معاویہؓ کی اعانت نہ کرتے تو شاید وہ اتنا
 اقتدار حاصل نہ کر سکتے جو ان کو حاصل ہوا۔

یہ لکھنے میں ایک مورخ کے قلم کو کوئی تردد نہیں ہوتا کہ یہی تینوں تھے
 جنہوں نے معاویہؓ کو معاویہؓ بنایا اور یہی تھے جنہوں نے حضرت معاویہؓ
 کی امداد و اعانت کرنے۔ ان کو عروج و ترقی کی انتہائی منزل پر پہنچانے اور
 انہیں ایک صوبے کے والی سے تمام دنیا سے اسلام کا بادشاہ بنا دینے میں
 کوشش اور سعی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور عینی عقل و فراست۔ فہم و

وکالت اور ہوشیاری و دانائی خدائے اُن کو بخشی تھی۔ وہ انہوں نے حضرت معاویہ کی امداد اور اُن کی خیر خواہی میں صرف کر دی۔

ایسی حالت میں ضرورت تھی کہ حضرت معاویہ کی سوانح حیات کے ساتھ ان تینوں اصحاب کے حالات بھی قلمبند کئے جائیں۔ کیونکہ بجز ان تینوں کے تذکرے کے حضرت معاویہ کی سوانح عمری مکمل ہو ہی نہیں سکتی اور جب تک اُن مساعی کا ذکر نہ کیا جائے جو ان تینوں نے حضرت معاویہ کی سلطنت کے استحکام اور اس کی مضبوطی میں کیں اس وقت تک اُس عہد کی ہر تاریخ ادھوری رہے گی۔ اُس زمانے کے سیاسی حالات و واقعات کا دھارا پلٹنے میں ان تینوں اصحاب کا بڑا ہاتھ تھا اور تاریخ کے لئے یہ امر ناگزیر ہے کہ اس دور کی سیاسی تاریخ لکھتے ہوئے وہ ان تینوں کے حالات و سوانح کو نظر انداز کر سکے۔ اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ کے سوانحی حالات کے ساتھ ساتھ ان تینوں اصحاب کے بھی واقعات و سوانحات مختصراً بیان کر دیئے جائیں۔ تاکہ تصویر کا پورا رخ تاریں کرام کے سامنے آجائے اور وہ تمام حالات و واقعات سے کما حقہ باخبر ہو کر کسی صحیح اور درست نتیجہ پر پہنچ سکیں۔

میں نے کوشش کی ہے کہ ان ٹینوں اصحاب کے سوانحی حالات
حب و بغض کے جذبات سے علیحدہ ہو کر مورخانہ اور غیر جانبدارانہ تنقید کی
کسوٹی پر پرکھ کر ناظرین کی خدمت میں پیش کروں۔ خدا کرے میں اپنی اس
کوشش میں کامیاب ہوا ہوں۔

محمد اسماعیل پانی پتی

۲۲ دسمبر ۱۹۵۵ء

حضرت عمرو بن العاص

حضرت معاویہؓ کے مددگاروں میں حضرت عمرو بن العاص کا ہم سب سے پہلے اس لئے ذکر کرتے ہیں کہ آپ بنسبت دوسرے معاونین کے سب سے زیادہ حضرت معاویہؓ کے ساتھ رہے۔ پھر دوسرے دو آدمی تو قبل ازیں حضرت علیؓ کے ساتھ تھے اور ان کے بہت بڑے مخلص معتمد سمجھے جاتے تھے۔ بعد میں وہ حضرت معاویہؓ کے ساتھ ہو گئے۔ مگر حضرت عمرو بن العاص کا معاملہ ان دونوں کے برخلاف تھا۔ وہ شروع ہی سے حضرت معاویہؓ کے ہمردوں اور ہوا خواہوں میں شامل ہو گئے اور انتقال کے وقت تک ان کی خیر خواہی کا دم پھرتے رہے۔ یہ بات بھی بلا خوف زوید کہی جاسکتی ہے کہ عینی زبردست مدد اور اعانت حضرت عمرو بن العاص

سے حضرت معاویہؓ کو ملی۔ اتنی باقی دو سے نہیں ملی۔ لہذا حضرت عمرو بن
العاص کا حق ہے کہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے اُن ہی کا ذکر کیا جائے

وہو هذا :-

حضرت عمرو بن العاص قریش کے قبیلہ بنی سہم سے تعلق رکھتے تھے
یہ عرب کا بہت معزز قبیلہ تھا۔ کعبہ کے خزانے اور اس کی آمدنی کا انچارج
یہی قبیلہ تھا۔ قریش میں آئے دن جو تنازعات اور لڑائی جھگڑے ہوتے
رہتے تھے۔ اُن کا تصفیہ اور فیصلہ اسی قبیلے کے سپرد تھا اور جو فیصلہ بہا
سے صادر ہوتا تھا۔ اُسے چاروں اچار ہر شخص کو قبول کرنا پڑتا تھا۔ خواہ
وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس لحاظ سے اس قبیلہ کی حیثیت عرب
میں بہت معزز اور اعلیٰ تھی۔

نام عمرو۔ کنیت ابو عبد اللہ اور ابو محمد تھی۔ والدہ کا نام نابعہ اور باپ
کا نام عاص بن وائل تھا۔ عاص اپنے قبیلہ کا سردار اور قریش کا بڑا نامور اور
ذی حیثیت رئیس تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے خلعت
نبوت سے سرفراز فرمایا تو اپنی وجاہت۔ اپنی شہرت اور اپنی عورت کے حکمت
میں دیگر سرداران قریش کی مانند عاص نے بھی نہایت سخت مخالفت کا اظہار

اور حضور کا بدترین دشمن بن گیا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اگر خدا کو وحی ہی بھیجی
 تھی تو قریش کے بڑے بڑے عمائد میں سے کسی پر بھیجتا۔ آمنہ کے یتیم کا کیا
 حق تھا کہ اُس پر فرشتے اترتے۔

عاص جب تک زندہ رہا۔ اسلام کی دشمنی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کی مخالفت میں نہایت شدید اور سخت رہا۔ جب مکہ میں حضور علیہ السلام کے
 دو صاحبزادے قاسم اور عبداللہ، صغریٰ میں بعضاٹھے الہی و نات پلٹے
 تو اسی عاص نے کہا تھا کہ ”محمدؐ کے دونوں بیٹے مر گئے۔ اب اس کا نام لیوا
 اور پانی دیوا باقی نہیں رہا۔ اس پر خدا نے آسمان سے ندا دیا، اِنَّ
 شَانِكَ هُوَ الْاَبْتُ مُحَمَّدٍ (اے محمدؐ! تیرا دشمن ہی نامراد رہے گا) دیکھ لو! آج
 عاص کا نام زندہ ہے یا محمدؐ کا؟ (خدا کے ہزاروں ہزار سلام اُن پر ہوں) کچھ
 عاص ہی پر موقوف نہیں اُس وقت جتنے بھی سردارانِ قریش تھے۔ سب کے
 سب آنحضرتؐ کے جانی دشمن تھے۔ مثلاً

۱۔ ابوسفیان بن حرب (حضرت معاویہؓ کا باپ)

۲۔ عتبہ بن ربیعہ (حضرت معاویہؓ کا نانا)

۳۔ ابوالسب (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا)

۴۔ ابو جہل (حضرت عکرمہ کا باپ)

۵۔ ولید بن مغیرہ (سیف اللہ حضرت خالد کا باپ)

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس کے ایک
بھینے بعد ۸۵ سال کی عمر میں عاص مر گیا۔ جس طرح وہ دنیا میں اپنی قوم کا
سر دار تھا۔ اسی طرح دوزخ میں اپنے ساتھیوں کا سردار ہوگا۔

بیٹے نے باپ کا پورا ورثہ پایا اور کوئی کسر حضور رحمة اللعالمین کی دشمنی
اور عداوت میں باقی نہ چھوڑی۔ خود کہتے ہیں کہ "زمانہ کفر میں حضور سے زیادہ
قابل نفرت میرے نزدیک کوئی اور نہ تھا۔ مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ محمد اور
میں کسی چھت کے نیچے اکٹھے جمع ہوں۔"

جب جباران قریش کے ظلموں سے تنگ آکر حضورؐ کو در عالم
نے اپنے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو یہی
عمر بن العاص تھے جو مسلمانوں کی دشمنی میں قریش کی طرف سے سفیر ہو کر حبشہ
پہنچے اور انتہائی کوشش کی کہ نجاشی شاہ حبش مسلمانوں کو پناہ نہ دے اور
اپنے ملک سے نکال دے مگر اس نے انکار کر دیا۔

اس انکار پر عمرو بن العاص خاموش نہیں بیٹھے بلکہ اسلام دشمنی ال

کی رگ و پے میں اس بری طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ بار بار عیش جاتے اور نجاتی
 کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے رہتے مگر بار بار انہیں
 ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر عزت اور
 ترقی حاصل ہوتی گئی۔

ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کفارہ مکہ اور مشرکین
 عرب سے جس قدر لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب میں عمرو بن العاصؓ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل صف آرا رہے اور زبردست کوششیں اس
 امر کی کرتے رہے کہ کسی طرح حضورؐ کے لشکر کو شکست ہو اور آپ کو اور
 آپ کے ساتھیوں کو تباہ کیا جاسکے۔

جنگ خندق وہ آخری معرکہ تھا جس میں ناکامی کے بعد عمرو بن العاص
 ہمت مار بیٹھے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب قریش کا محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم)
 پر غالب آنا ناممکن ہے اور قریب آتا ہے وہ وقت جب ہمارے بلٹے
 کچھ نہ بن سکے گا۔ اور سارا عرب محمدؐ کے قبضے میں ہوگا۔ اس سے بہتر یہی
 ہے کہ اس ملک ہی کو چھوڑ دیں۔ تاکہ محمدؐ کی بڑھتی ہوئی ترقی اور ان کا عروج
 اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ اس سلسلہ میں خود ان کا اپنا بیان سنئے جو نہایت

دلچسپ اور پُر از معلومات ہے :-

”جب ہم لوگ جنگِ خندق سے واپس مکہ آئے تو میں نے قریش کے معزز اور سربر آوردہ لوگوں کو حرمِ کعبہ میں جمع کیا۔ جب سب لوگ آگئے تو میں نے اُن سے کہا کہ ”اے بھائیو اور بزرگو! قرآن اور حالات سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ محمدؐ کو دن بدن فتوحات حاصل ہوتی رہیں گی۔ اور ان کو مٹانے کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہے گی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اب کوئی طاقت محمدؐ کی طاقت کو نہیں روک سکتی اور عنقریب ہی وہ سارے عرب پر مسلط ہو جائیں گے۔ پس ہم پر لازم ہے کہ اُس سخت وقت کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں۔ اس لئے میری رائے یہ ہے کہ ہم سب یہاں سے نکل چلیں اور حبش چلے جائیں۔ کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی دن جاتا ہے کہ محمدؐ کا قبضہ تمہارے اس مقدس شہر پر ہو جائے گا۔ اور جو جو دشمنیاں ہم نے محمدؐ کے ساتھ کی ہیں اور جس طرح وہ جس لئے کہ اُس پر چڑھے ہیں اور اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تباہ کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اُن کے بدلے میں محمدؐ ہم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ اور سب کے سب کتے کی موت مارے جائیں گے۔ اگر ابھی سے ہم

نکل جائیں تو محمدؐ کی دسترس سے باہر ہو جائیں گے اور انہی دور بچھے
 ہوئے محمدؐ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ خدا کی قسم! نجاشی کی حکومت میں
 رہنا محمدؐ کے ماتحت رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔ بتلاؤ۔ تم لوگوں
 کی اس معاملہ میں کیا رائے ہے؟ سب نے میری رائے سے اتفاق کیا
 اور کہا کہ ہاں اب محمدؐ کو شکست دینا بہت مشکل ہے۔ اس جنگ میں ہم
 نے تمام عرب کے قبائل کو بڑی کوشش سے ابھار کر مدینہ پر حملہ کیا
 تھا مگر نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا اور ہمیں منہ کی کھا کر واپس آنا پڑا۔ اب اس
 سے بڑا لشکر ہم محمدؐ کے مقابلہ کے لئے کہاں سے لاسکتے ہیں؟ اس
 لئے یہی بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں مگر تم پہلے جا کر شاہِ حبش سے
 ملو اور اس سے کہو کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار تمہارے ملک میں آکر
 رہنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر ہم یہاں سے حبش چلے جائیں گے
 اگر ہمارے جاننے کے بعد عرب کے لوگ محمدؐ پر غالب آگئے تو ہم پھر
 واپس آجائیں گے۔ ورنہ وہیں رہیں گے۔

جب یہ سب ہو گیا تو میں نے کہا کہ میں حبش جانے کے لئے تیار ہوں
 مگر شاہِ حبش کی خدمت میں تھنہ پیش کرنے کے لئے ضرور کوئی چیز ساتھ

ہونی چاہئے۔ اس پر مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کے نام لئے
 مگر فیصلہ اس پر ہوا کہ سب سے عمدہ تحفہ شاہ کے لئے یہاں کا چہرہ
 چنانچہ بہت اعلیٰ قسم کا چہرہ خرید کر میں نے ہمراہ لیا اور حبش روانہ ہو گیا
 وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے
 ایک صحابی عمرو بن امیہ صمری کو حضرت جعفر بن ابی طالب کی کسی ضرورت
 کے لئے (جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے) نجاشی کے پاس بھیجا
 اور وہ آج کل یہیں ہیں۔

یہ سن کر میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقعہ محمد سے انتقام لینے
 کا ہے۔ نجاشی میری بڑی عزت کرتا ہے اور جب میں آتا ہوں تو بڑے
 مہربانی سے میرے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس لئے میں نجاشی کے
 چل کر اور اس سے کہہ کر عمرو بن امیہ کو مروا ڈالوں۔ اس کا ردائی
 میری قوم خوش ہو جائے گی اور مکے کی کہ محمد کے ناصد اور سفیر کو
 کہہ کر عمرو بن العاص نے اپنی اور اپنی قوم کی شکستوں کا بدلہ لینے
 پر خیال کر کے میں تحفہ لے کر نجاشی کے محل کی طرف چلا۔ میں
 تھا اور عمرو بن امیہ نجاشی سے مل کر واپس آ رہے تھے۔ جب میں

دربار میں پہنچا تو وہ حسب معمول مجھ سے بہت خلاق و مروت کے ساتھ ملا اور کہنے لگا کہ تم میرے لئے اپنے ملک سے کیا تحفہ لائے ہو؟ میں نے چمڑا پیش کیا تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے بادشاہ سے کہا کہ ابھی ابھی جبکہ میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا میں مکہ کے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے واپس جاتے دیکھا۔ اس شخص کو ہمارے شدید ترین دشمن محمد نے آپ کے پاس بھجوا ہو گا۔ یہ ہمارے ہاں کا بھاگا ہوا غلام ہے اور ہمارے کئی آدمیوں کو قتل کر کے مکہ سے بھاگ کر محمد کے پاس مدینہ چلا گیا تھا۔ اب آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔

یا تو نجاشی تخت پر خوش خوش بیٹھا تھا اور مجھ سے سنسن سنسن کر باتیں کر رہا تھا۔ یا یہ سنتے ہی ایسا جوش اور غضب میں بھر گیا کہ میں اس کی صورت دیکھ کر ڈر گیا اور اپنی اس درخواست پر اس درجہ شرمندہ ہوا کہ سوچنے لگا۔ کاش اس وقت زمین بھٹ جلتے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے بہت ہی ادب اور لجاجت کے ساتھ شاہ کے حضور میں عرض کی کہ کیا میری درخواست حضور والا کو ناگوار گذری؟ اگر ایسا

ہے تو میں بصد عاجزی معافی مانگتا ہوں۔

جب بخاشی کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ کہنے لگا۔ عمرو بن العاص ہی تو بڑے عقلمند آدمی ہو پھر ایسی بے وقوفی کی بات تمہارے منہ سے کہیں
طرح نکلی ہے کیا میں اس شخص کے قاصد کو قتل کرانے کی جرأت کر سکتا ہوں
جس پر وہی فرشتہ خدا کا کلام لاتا ہے جو حضرت موسیٰ پر لاتا ہے
میں نے بڑے تعجب سے پوچھا۔ تو کیا واقعی محمد خدا کے پیغمبر

ہیں؟

شاہ نے کہا۔ "یقیناً اور بیشک"

اس پر میں نے دریافت کیا۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو کیا میں حضور
عالی سے پوچھ سکتا ہوں کہ کہیں آپ نے محمد کا دین تو اختیار نہیں
کہ لیا؟

بخاشی نے کہا۔ "یقیناً میں مسلمان ہو گیا ہوں اور تمہیں بھی یہی نصیحت کرنی
ہوں کہ اگر اپنی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ اور محمد کی اطاعت
اختیار کر لو۔ محمد ضرور ضرور ایک نہ ایک دن اپنے تمام دشمنوں پر فتوح
ہو جائیں گے جیسے حضرت موسیٰ۔ فرعون پر غالب آئے۔ اگر تم لوگوں سے

ان کی اطاعت اختیار نہ کی تو آخر کار پچھتاؤ گے؟“

یہ سن کر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بادشاہ سچ تو کہہ رہا ہے۔
میرے ہمدرد جھوٹے ہوتے اور ہمارے معبود کچھ طاقت رکھتے تو ہم کبھی تو
ان پر غالب آتے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہر موقع پر ہر میدان میں ان کے
بالمقابل شکست ہوئی اور وہ برابر اقتدار اور طاقت حاصل کرتے چلے جا
رہے ہیں۔ پھر وہ ہمیں کسی بڑی بات کا حکم بھی نہیں دیتے۔ اس صورت
میں اگر ہم نے ان کی اطاعت نہ کی تو واقعی ہم پچھتاہیں گے۔

یہ خیال کرتے ہوئے میں نے بادشاہ سے کہا کہ ”پھر میں آپ کے
سلسلے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد واقعی پیغمبر ہیں اور واقعی خدا کی
طرف سے ہیں۔“

میرے اقرار پر اسلام سے بخاشی خوش ہو گیا اور اس نے کہا ”ہاں اب
تم نے سیدھا راستہ اختیار کیا۔ جاؤ مجھ کے پاس اور ان کی خدمت اور
اطاعت میں اپنی عمر گزارو۔“

میں بخاشی کے پاس سے چلا۔ مگر اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے
اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا۔ جب مکہ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ خالد بن ولید

مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے تعجب سے پوچھا: ابا سلیمان! کدھر
 چلے؟ خالدؓ نے جواب دیا: ”سچی بات تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہونے
 کے لئے حج کے پاس جا رہا ہوں۔ آخر کب تک ہم مخالفت کرتے ہیں
 اور کب تک راہِ حق کو اختیار نہ کریں گے؟ یہ شخص یقیناً خدا کا نبی ہے۔
 اگر خدا کا نبی نہ ہوتا تو سارے عرب کے مقابلے میں یوں کامیاب نہ ہوتا
 یہ بت ہمارے کس کام ہوتے؟ اور لات و عزیٰ نے ہماری کیا مدد کی؟“
 خالدؓ کے منہ سے یہ سن کر میں خوشی سے چلا اٹھا اور میں نے کہا: ”خدا
 کی قسم میں بھی اسی ارادہ سے مدینہ جا رہا ہوں۔ چلو بہت ہی اچھا ہوا کہ
 تم بھی ساتھ ہو۔ اگر ہمارے کدو توں کی پاداش میں محمدؐ نے ہماری گردن
 بھی مار دی تو وہ حق پر ہوں گے۔ خیر جو کچھ ہو گا وہ کچھ جائے گا“
 ہم دونوں بڑے بڑے اٹھنے کی خدمت میں پہنچے۔ خالدؓ آگے
 تھے اور میں پیچھے۔ حضورؐ نے نظر اوپر اٹھائی اور خالدؓ سے پوچھا: ”کیوں
 خالد! کیسے آئے؟“ خالدؓ نے نیچی نظریں کے شرمندگی سے جواب دیا
 ”حضور! اسلام لانے“
 آنحضرتؐ نے اپنا دست مبارک بڑھا دیا اور خالدؓ نے بیعت کی

اب میری باری تھی۔ میں نے کہا "حضور! میں حاضر تو ہوا تھا بیعت ہی کرنے کے لئے۔ مگر سوچتا ہوں کہ میں نے مکہ میں تیرہ برس تک آپ کو تکلیفیں پہنچائیں اور بعد میں اب تک آپ کے خلاف لڑتا رہا اور دوسرے لوگوں کو آپ کے خلاف لڑائی پہ اکساتا رہا۔ مختصر یہ کہ اپنی دانست میں کوئی کسر آپ کی دشمنی اور عداوت میں اٹھا نہیں رکھی۔ میرے یہ اُحد کے برابر گناہ کس طرح معاف ہوں گے؟" حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا "اے عمر! اسلام جاہلیت کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت گزشتہ بد اعمالیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔" حضور کے منہ سے یہ کلمات سن کر میں نے جلدی سے بیعت کر لی۔"

یہ ہے عمر بن العاص کی بیعت کا خود بیان کردہ واقعہ۔ بیعت کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ "لوگو! مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کے تمہاری طرف پھینک دیئے ہیں۔" حقیقت میں یہ دونوں بعد کی زندگی میں نہایت ناخوش کنے ایک نے قیصر و کسری جیسے عظیم الشان شہنشاہوں کے تاج پہن لئے اور دوسرے نے صرف چار ہزار کی قلیل فوج سے تمام ملک مصر

فتح کر لیا۔ واقعی آج کا دن کفار مکہ اور جبارانِ قریش کے لئے نہایت بد قسمتی کا تھا جبکہ اُن کے جگر کے ٹکڑے اور اُن کے دو بے مثل بہادر اُن سے کٹ کر محمدؐ کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ یہ نظارہ دیکھ کر عاص اور ولید کی رو میں جہنم میں تڑپ اُٹھی ہوں گی کہ اُن کے وارث اور اُن کے جگر کے ٹکڑے آج اُن کی قبروں کو اوداع کہہ کر اسلام کی آغوش میں چلے گئے۔

حضرت عمرو بن العاص مسلمان ہونے کے بعد دو چار دن تو خدا بنوی میں حاضر رہے۔ پھر حضورؐ سے اجازت لے کر مکہ چلے آئے اور یہاں اپنا انتظام کرنے کے بعد ہجرت کر کے مستقل طور پر مدینہ میں آکر مقیم ہو گئے۔

عمرو بن العاص کی عادت نہایت درجہ انتہا پسند واقع ہوتی تھی۔ جس بات میں ہاتھ ڈالتے یا جس کام کو اپنے ہاتھ میں لیتے۔ اُس میں بے شدت اور سختی اختیار کرتے۔ اسلام لانے سے پہلے آنحضرتؐ کی دشمنی میں انہوں نے حد کر دی۔ لیکن اسلام لانے کے بعد آنحضرتؐ سے زیادہ اُن کی نظر میں کوئی محبوب نہ تھا۔ خود کہتے ہیں کہ "فرطاً وب اور

انتہائی عقیدت اور بے انتہا محبت کے باعث مسلمان ہونے کے بعد میں نے کبھی حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ حضورؐ کی پاک روح اعلیٰ علیین کو پرواز کر گئی۔ اگر آج کوئی مجھ سے حضور علیہ السلام کا حلیہ پوچھے تو میں بتا نہیں سکتا۔

مسلمان ہو جانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ماتحت حضرت عمرؓ بن العاص نے اسلام کی جو خدمات انجام دیں۔ ان کی مختصر کیفیت حسب ذیل ہے :-

(۱) زمانہ اسلام میں حضرت عمرؓ بن العاص کا سب سے پہلا کارنامہ "سریہ ذات السلاسل" میں کامیابی ہے۔ اس سریہ کے وقوع کے اسباب تو خمین نے مختلف لکھے ہیں۔ لیکن علامہ ابن اثیر کی بیان کردہ روایت کے مطابق صحیح واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل اور علاقوں میں تبلیغ اسلام اور اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے صحابہ کرام کو مبلغ بنا کر بھیجا۔ چنانچہ اسی ذیل میں قبیلہ بلی بلیقین اور عذریٰ کی طرف حضرت عمرؓ بن العاص کو دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمایا۔ لیکن جب یہ وہاں گئے تو وہ قبائل بجائے بات سننے کے آمادہ جدال و قتال ہوئے۔ یہ دیکھ کر

حضرت عمرو بن العاص نے ایک آدمی کو حضورؐ کی خدمت میں دوڑایا اور صورت واقعہ عرض کی۔ آنحضرتؐ نے فوراً ایک جمعیت آپ کی امداد کے لئے روانہ فرمائی۔ حضرت عمرو بن العاص کی اعلیٰ جنگی قابلیت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ اس جنگ میں حضورؐ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، اور بعض دوسرے جلیل القدر صحابہ کو ان کی ماتحتی میں دیا اور تاکید فرمادی کہ کسی بارہ میں اختلاف نہ کرنا۔ چنانچہ ان صحابہ نے ارشاد نبویؐ کی تعمیل میں نہایت خلوص کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص کی اطاعت کی اور فوج کامیابی اور فتح کے ساتھ واپس آئی۔

(۲) سریہ سواع دوسرا کام ہے جو حضرت عمرو بن العاص کے پاس کیا گیا۔ قبیلہ ہذیل نے تو اسلام قبول کر لیا تھا مگر صدیوں کی بت پرستی اور کئے دلوں میں ایسی میٹھی ہوئی تھی کہ ان کو اپنے بت سواع کو خود توڑنے کی کسی طرح ہمت نہ پڑتی تھی۔ ان کو یہ خیال تھا کہ بت ٹوٹا تو نہ معلوم کیا قبیلہ برپا ہو جائے گی۔ ان کی اس ضعیف الاعتقادی کو دیکھ کر بارگاہِ نبویؐ حکم ہوا کہ عمرو بن العاص جائیں اور اس بت کو توڑ کر چلے آئیں۔ تاکہ بت کے جو خوف اہل قبیلہ کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ دور ہو جائے۔ عمروؓ نے

میں وہاں پہنچے تو بت کے مجاور نے پوچھا کہ کیسے تشریف لانا ہوا ہے عمرو
 بن العاص نے اُنے کا مقصد بتلایا تو وہ کہنے لگا "بھلا کس کی طاقت ہے
 کہ بت کو ہاتھ بھی لگا سکے؟ دیکھتے نہیں یہ سواع ہے۔ اگر تم نے ذرا بھی
 اس کی بے ادبی کا ارادہ کیا تو تمہیں فوراً ہلاک کر دے گا۔ ہمارے تمام
 حکماء میں اُس جیسا صاحبِ عظمت اور صاحبِ طاقت کوئی بت نہیں پس
 اس خیال سے درگزر و اور خاموشی سے واپس چلے جاؤ۔"

حضرت عمرو بن العاص اس کی اس تم پرستی اور طفلانہ خیالات پر
 ہنسنے اور کہنے لگے جس بت میں اپنے اوپر سے کبھی بھی ہٹانے کی طاقت
 نہیں۔ جو نہ بول سکتا ہے۔ نہ سن سکتا ہے۔ وہ کس طاقت کا مالک ہو سکتا
 ہے۔ انیسویں کہ اب تک تم جاہل محض رہے۔ آؤ۔ میں تمہیں دکھاؤں کہ تمہارے
 اس بت میں کتنی طاقت ہے؟

یہ کہہ کر عمرو بن العاص نے تھوڑی دیر میں سواع کو توڑ پھوڑ کر زمین
 کے برابر کر دیا۔

بت توڑنے کے بعد جب عمرو بن العاص نے مجاور سے کہا کہ "دیکھو
 تم نے اپنے خدا کی طاقت؟ تو اس کے دل سے بتوں کی عظمت بالکل

نکل گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔

(۳) تیسری خدمت حضرت عمرو بن العاص سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لی کہ ان کو صوبہ عمان کے دو رئیسوں عبید اور جعفر کے پاس تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا۔ چنانچہ ان کی کوشش سے وہ دونوں رئیس کچھ عرصے کے تبادلہ خیالات کے بعد اسلام لے آئے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب عمرو بن العاص نے اس کامیاب کی اطلاع دی تو حضور نے خوشنودی کا اظہار نہ کیا اور ان کو عمان کا مقرر کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی وفات تک اس عہدہ پر فائز رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد موقعوں پر ان کی خدمت پر اپنی خوشی کا اظہار ایک مرتبہ رات کے وقت کچھ انتشار پھیل گیا۔ لوگ یہ سمجھے کہ کسی دشمن نے اچانک مدینہ پر حملہ کر دیا ہے۔ اہل شہر تو ادھر ادھر بھاگنے لگے مگر حضرت بن العاص فوراً تلوار کھینچ کر مسجد نبوی میں آگئے۔ تاکہ حضور کے حجرہ کی حفاظت کریں اور کسی کو ادھر نہ آنے دیں۔

اسی محبت اور نداشتیت کا نتیجہ تھا کہ انتقال کے وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش رہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت کے بعد عرب میں ارتداد کا فتنہ بڑھنے لگا اور شور سے پھیلا۔ مگر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسی جوش و شہادت کے ساتھ اس کا استیصال کیا۔ حضرت عمرو بن العاص اس وقت عمان میں تھے آپ نے اُن کو بلا بھیجا اور قبیلہ قضاعہ کی سرکوبی پر مامور کیا جو مرتد ہو گیا تھا۔ انھوں نے بڑی خوش اسلوبی اور کامیابی کے ساتھ اس مہم کو انجام دیا۔ فتنہ ارتداد کے فرو ہونے کے بعد جب شہنشاہ روم کے ساتھ اسلام کی فوجوں کا تصادم ہوا تو وہاں بھی ہم عمرو بن العاص کا قدم سب آگے پاتے ہیں۔ حضرت صدیقؓ نے ایک فوج دے کر ان کو فلسطین روانہ کیا۔ اور انھوں نے اجنادین۔ دمشق۔ محل۔ بیسان اور یرموک کے معرکوں میں اپنی شجاعت۔ بہادری۔ فرزانیگی اور جنگی مہارت کے نہایت شاندار نمونے دکھائے اور ہر مقام سے کامیاب واپس آئے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بعد حضرت عمر فاروقؓ کا زمانہ حضرت عمرو بن العاص کے لئے نہایت عروج کا عہد تھا۔ اسی زمانہ میں اُن سے وہ عظیم الشان کارنامہ ظہور میں آیا۔ جس کے باعث اُن کا نام دنیا کے مشہور ترین سپہ سالاروں اور جنرلوں میں دیا جاتا ہے۔ وہ کارنامہ مصر جیسے اہم ملک کی فتح ہے۔ جس کی

طرف حضرت عمرو بن عاص نے صرف چار ہزار فوج لے کر پیش قدمی کی
 تھی اور بالآخر انتہائی بہادری اور شجاعت کے ساتھ سارے ملک کو فتح
 کر لیا اور قیصر روم بایں شان و شوکت اور طاقت و عظمت مصر جیسے عظیم
 ملک کو لاکھوں فوج مقابلہ میں لانے کے باوجود عمرو بن عاص کے ہاتھ سے
 بچا نہ سکا۔ بلاشبہ ملک مصر کی فتح ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ جس پر مسلمان
 ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے۔ مصر حضرت عمرو بن عاص نے اس خوبی اور
 عمدگی کے ساتھ فتح کیا اور ایسی خوش اسلوبی کے ساتھ وہاں حکومت کی
 بنیاد ڈالی کہ فرعون کا تخت گاہ خالص اسلامی ملک بن گیا۔ قدیم مصری تہذیب
 اور قبلی تمدن یکسر مٹ گیا اور آج مصر اسلامی تہذیب و شائستگی کا سب سے
 بڑا مرکز ہے۔ قدیم مصری یا قبلی زبان بالکل فنا ہو گئی اور اس کی جگہ عربی
 باشندگان ملک کی ماوری زبان بن گئی۔ یہ حالت آج تک قائم ہے علم
 ادب اور تاریخ کی جس قدر گراں بہا خدمت مصر نے انجام دی ہے اور
 رہا ہے۔ تمام عالم اسلامی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

دوسرے بعد حضرت عمرو بن العاص نے طرابلس کا رخ کیا اور کچھ
 دنوں میں یہ ملک بھی فتح ہو گیا۔ اب انھوں نے دوبار خلافت سے آگے

بڑھنے کی اجازت مانگی۔ مگر فاروق اعظم نے مزید پیش قدمی سے روک دیا۔
 ورنہ افریقہ کے آخری سرے تک سارا براعظم فوراً ہی فتح ہو جاتا بلکہ حضرت
 عمرو بن العاص آگے بڑھ کر اندلس پر بھی حملہ کرتے اور یہ تمام ممالک جو
 بعد کے زمانہ میں فتح ہوئے اسی وقت مفتوح ہو جاتے۔

جب حضرت عمرؓ شہید ہو گئے اور حضرت عثمانؓ ان کے جانشین ہو گئے
 تو انھوں نے ۲۵ھ یا ۲۶ھ میں حضرت عمرو بن عاص کو مصر کی گورنر
 سے معزول کر دیا۔ اگرچہ عمرو بن العاص کو اس کا ملال ہوا مگر وہ برابر خلافت
 کے وفادار رہے اور جب بھی حضرت عثمانؓ نے کسی ملکی اور سیاسی معاملہ
 میں ان سے مشورہ لیا تو انہوں نے ہمیشہ نہایت صائب اور مفید رائے
 دی۔ چنانچہ جب حضرت عثمانؓ کے اخیر عہدِ خلافت میں بعض فتنہ پرداز لوگوں
 نے خلیفہ کے خلاف بغاوت اور سازشیں کرنی شروع کیں تو حضرت عثمانؓ
 نے اکابر صحابہ کی ایک جماعت کو مشورہ کئے لئے بلا دیا۔ جن میں حضرت
 عمرو بن العاص بھی تھے۔ جب حضرت عثمانؓ نے ان سے ان کی رائے
 پوچھی تو انھوں نے بڑے زور سے کہا: آپ ضرورت سے بہت زیادہ
 زرم واقع ہوئے ہیں۔ جہاں نہایت سختی کے ساتھ گرفت کرنی چاہئے وہاں

بہت نرمی سے کام لیتے ہیں جو ہمیشہ مضر پڑتی ہے۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ ملکی انتظام اور سیاسی معاملات میں ابو بکرؓ اور عمرؓ کے نقش قدم پر چلئے یعنی جہاں نرمی کا موقع ہو۔ وہاں نرمی اختیار کیجئے۔ جہاں سختی کا موقع آئے وہاں سختی کرنے میں تامل نہ کیجئے۔“

معز دلی کے بعد حضرت عمرؓ بن العاص بہت حد تک سیاسی زندگی سے بے تعلق ہو گئے تھے۔ مصر انھوں نے چھوڑ دیا تھا اور فلسطین میں آکر مقیم ہو گئے تھے۔

جب باغیوں اور فتنہ پردازوں نے ہلہ کر کے حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا اور یہ جانکاہ خبر فلسطین میں پہنچی تو حضرت عمرؓ بن العاص کو نہایت رنج ہوا اور وہ حضرت معاویہ کے پاس پہنچے جو اس وقت بیت المقدس میں تھے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ خون عثمانؓ کا بدلہ لینے کے لئے اٹھیں اور عمرؓ ان کی اس معاملہ میں ہر طرح کی امداد کریں گے (بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت علیؓ کے مطالبہ بیعت کے موقع پر خود حضرت معاویہؓ نے حضرت عمرؓ بن العاص کو مشورہ کے لئے فلسطین سے بلوایا تھا مگر طبری اور ابن سعد یہی لکھتے ہیں کہ عمرؓ بن العاص خود معاویہؓ کے پاس گئے تھے)

دونوں کے درمیان بہت کچھ زبانی گفتگو کے بعد حسبِ بیان ابن سعد
مندرجہ ذیل عہد نامہ لکھا گیا :-

” بسم اللہ الرحمن الرحیم ”

یہ وہ عہد نامہ ہے جو عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد بیت المقدس
میں معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص کے درمیان ہوا۔ اس معاہدہ کی
نُص سے دونوں ایک دوسرے کی امانت اور دیانت پر بھروسہ اور اعتماد
کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اسلام اس معاملہ میں امر اور حکم ہیں (یعنی ہم
جو کچھ کریں گے خدا تعالیٰ اور اسلام کے مطابق کریں گے) ہم دونوں باہم
ایک دوسرے کی امداد کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ سلوک سے
پیش آنے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے پر خدا کو گواہ ٹھیراتے ہیں۔
ہم میں سے کوئی اپنے ساتھی کی مدد سے کبھی ہاتھ نہیں کھینچے گا۔ ان امور میں
جو ہمارے امکان میں ہوں گے۔ ہم ایک دوسرے سے ہمیشہ تعاون کریں گے
اور اس معاملہ میں نہ بیٹا ہمارے درمیان حائل ہوگا نہ باپ۔ مضر کے قبضے
میں آجانے کے بعد عمرو وہاں کے والی ہوں گے۔ ہم دونوں باہم ایک
دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے۔ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے رہیں گے۔

اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔ معاویہ، عمرو بن العاص پر
 امیر ہوں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ امت کو کسی ایک امر پر متفق کر دے
 جب امت متفق ہو جائے گی تو اس وقت ہم دونوں وہی کریں گے جو اللہ کو
 درمیان میں دے کر ہم دونوں نے اس معاہدہ میں لکھا ہے۔ درودان نے
 یہ معاہدہ شکرہ بھری میں لکھا۔“

طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب حضرت علیؑ کو اس باہمی معاہدہ
 کی اطلاع ہوئی تو آپ کو فہ کی مسجد میں تشریف لائے (اس وقت کو فہ
 حضرت علیؑ کا دار الخلافہ تھا) اور ایک خطبہ دیا۔ جس میں ارشاد فرمایا:-
 ”اے اہل کو فہ! مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمرو بن العاص نے معاویہ
 سے خون عثمانؓ کے انتقام کے مطالبے پر بیعت کی ہے اور اب وہ دونوں
 اس امر پر لوگوں کو براہِ گنہتہ کر رہے ہیں۔ واللہ جانے رہو کہ عمرو اور اس کی
 مدد خشک بازو ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔“

اس کے بعد حضرت علیؑ ۹۰ ہزار فوج کے ساتھ معاویہؓ کے مقابلہ
 کو نکلے۔ حضرت معاویہؓ بھی ۸۵ ہزار کا لشکر میدان میں لائے اور وہ مخوس اور
 خون ریز لڑائی ہوئی جو تاریخ میں ”جنگ صفین“ کے نام سے مشہور ہے۔

عمر بن العاص اس لڑائی میں موجود تھے اور انہی کے مشورہ اور رائے کے مطابق سارا کام ہو رہا تھا۔ حضرت علیؓ کے ساتھی نہایت بہادری سے لڑے اور قریب تھا کہ ان کو کامل فتح ہو جاتی۔ لیکن عین اس وقت معرکہ جدال و قتال نہایت زور شور کے ساتھ جاری تھا اور نہایت تیزی کے ساتھ سپاہیوں کے سر کٹ کٹ کر فرشِ خاک پر گر رہے تھے۔ یکایک حضرت عمر بن عاص کے ہوشیار و مانع کو ایک عجیب و غریب ترکیب سوجھی۔ جس سے لڑائی فوری طور پر بند ہو سکتی تھی اور شامی لشکر وقتی طور پر شکست کی ذلت سے بچ سکتا تھا۔

وہ فوراً حضرت معاویہؓ کے پاس گئے اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت شکست سے بچنے کی ایک ترکیب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو حکم دو کہ وہ نہایت بلند آواز کے ساتھ پکاریں کہ اے لوگو! کیوں باہم لڑ کر اپنی جانوں کو ضائع کرتے ہو۔ او تلواروں کو میان میں کرو اور قرآن کے مطابق باہم فیصلہ کرو۔ اور جس طرح قرآن کے اسی طرح عمل کرو۔ اے اہل عراق! ہم تمہیں قرآن کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارا تمہارا دین ایمان ہے۔ امید ہے کہ تم قرآن کے فیصلے سے روگردانی نہیں کرو گے اور جس طرح وہ کہے گا اسی طرح عمل کرو گے۔

اے معاویہ! اگر تم یہ کرو تو اس تدبیر سے جنگ فوراً رک سکتی ہے۔ اول
 تو سارے اہل عراق قرآن کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے اور
 اگر بعض نے اختلاف بھی کیا۔ تب بھی فائدے میں تم ہی رہو گے اور جنگ
 بہر حال بند ہو جائے گی۔

حضرت معاویہؓ نے یہ سن کر فرمایا۔ تمہیں اختیار ہے۔ جس طرح چاہو

کرو۔

سردار لشکر کی اجازت ملتے ہی حضرت عمرو بن العاص نے فوراً اہل شام
 میں سے چند ایسے لوگوں کو جن کی آوازیں نہایت بلند تھیں حکم دیا کہ بڑی
 اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کریں اور نہایت پکار کر کہیں کہ اے اہل
 عراق ہم تمہیں قرآن کریم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ ساری تقریر ان
 لوگوں کو بتائی جو وہ حضرت معاویہؓ کے سامنے کر چکے تھے اور حکم دیا کہ
 یہ تقریر عراقی فوج کے سامنے کرو اور برابر قرآن پڑھتے رہو۔

جب حضرت عمرو بن عاص کے حکم کی تعمیل میں ان لوگوں نے یہ تقریر
 کی اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی تو شامی لشکر قریباً سارے کلمہ
 دفعۃً لڑائی سے رُک گیا کیونکہ بقول ابن سعد۔ وہ لوگ لڑتے لڑتے لڑائی

سے بیزار ہو چکے تھے) اور کہنا شروع کیا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہئے۔

حضرت علیؓ نے جو یہ رنگ دکھیا تو بڑے پُر زور خطبے کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا کہ شامیوں کے اس فقرے میں نہ آئیں اور جنگ جاری رکھیں کوئی دم میں فتح ہوتی جاتی ہے مگر عراقیوں کو تو جنگ سے رکنے کا ایک بہانہ چاہئے تھا۔ انھوں نے ایک نہ سنی اور لڑنے سے انکار کر دیا۔

(طبقات ابن سعد۔ جلد ۷۔ صفحہ ۲۹۲ تا ۳۰۴)

عام تاریخوں میں اس واقعہ کے متعلق جو یہ بات لکھی ہے کہ شامیوں نے دمشق کا مصحفِ عظیم پارہ پارہ کر کے پانچ نیزوں پر اٹھایا اور اس کے علاوہ سینکڑوں قرآن اپنے نیزوں پر باندھ کر ہوا میں بلند کئے۔ جنہیں دیکھ کر شامی جنگ سے رُک گئے۔ یہ روایت ہمیں درست معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ آہلِ نو اُس ابتدائی زمانہ میں جبکہ نہ عام طور پر کما غزملتا تھا اور ملتا بھی تھا تو نہایت گراں اور ہنگام۔ اتنے بکثرت قرآن کہاں سے آگئے؟ جو نیزوں پر لٹکا دیئے گئے۔ اُس زمانہ میں پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا اور قرآن کا تمام وکمال نقل کرنا آسان کام تھا بھی نہیں۔ چھاپہ کافن اس وقت تک ایجاد نہیں ہوا تھا۔

پھر مہمات اور جنگوں میں مصروفیت کے باعث لوگوں کو اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ بیٹھ کر قرآن کریم لکھیں اور ان کو فروخت کریں۔ پھر یہ بھی ایک پختہ دلیل اس روایت کی تردید کی ہے کہ اس واقعہ کے علاوہ اس زمانہ میں کوئی اور مثال اس قدر کثرت سے قرآن مجیدوں کی موجودگی کی ہرگز نہیں تھی۔ پھر اس امر پر بھی غور فرمائیں کہ محض نيزوں پر کوئی چیز بندھی ہونے سے بہت دور کھڑی ہوئی عراقی فوج نے کس طرح سمجھ لیا کہ یہ قرآن کریم کے نسخے ہی ہیں ساوے کاغذ نہیں۔ اور شامیوں کے پاس یہ یقین دلانے کا کیا ذریعہ تھا کہ یہ بالیقین قرآن مجید ہی ہیں۔ کچھ اور نہیں؟

اگر بعض محال مان بھی لیا جائے کہ وہ قرآن کریم ہی کے نسخے تھے تو پھر محض ان کے نيزوں پر چڑھانے سے شامی کس طرح یہ بات سمجھ سکتے تھے کہ ان کے بلند کرنے سے عراقیوں کا کیا مقصد ہے؟ پس سچی اور صحیح بات یہی ہے جو طبقات ابن سعد میں لکھی ہے کہ شامیوں نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر کے عراقیوں سے چیخ پیچ کر کہا کہ اس قرآن کی طرف آؤ اور اس کی دعوت کو قبول کرو۔ نيزوں پر قرآن بلند نہیں کئے گئے تھے۔

جنگ رُک جانے کے بعد اب یہ طے کرنا تھا کہ فیصد کس طرح ہو ؟
 قرار یہ پایا کہ ایک ثالث حضرت معاویہؓ کی طرف سے ہو اور ایک حکم حضرت
 علیؓ کی جانب سے۔

حضرت معاویہؓ نے اپنے ثالث کا فوراً اعلان کر دیا اور وہ حضرت
 عمرو بن عاصؓ تھے۔ عراقیوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو اپنا حکم تجویز
 کیا۔ اس پر حضرت علیؓ نے پھر فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعریؓ میں وہ سیاسی
 قابلیت اور سوجھ بوجھ نہیں جو ان کے مخالف (عمرو بن العاص) میں ہے

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا نام عبد اللہ بن قیس تھا۔ ابو موسیٰ کینت تھے۔ یمن کے باشندے
 اور قبیلہ اشعر سے تھے جس کی نسبت اشعری کہلاتے تھے۔ کئی زندگی میں ایمان لائے۔ فتح مکہ۔
 معرکہ حنین۔ غزوہ بدرک اور حجة الوداع میں شریک رہے۔ انحضرتؐ نے ان کو یمن کا والی مقرر کیا تھا۔
 حضرت صدیق اکبرؓ۔ فاروق اعظمؓ اور عثمان ذوالنورینؓ کے زمانہ میں مختلف مہموں میں بھیجے جاتے
 رہے اور کئی علاقوں کے گورنر رہے۔ بصرہ کی گورنری سے حضرت عثمانؓ نے ان کو معزول کر دیا
 تھا مگر کچھ عرصہ بعد کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت علیؓ کی خلافت کے شروع میں یہ کوفہ ہی کے گورنر
 تھے۔ پھر حضرت حسنؓ نے کوفہ آکر ان کو مسجد میں تقریر کرنے سے روک دیا جس پر یہ خاموشی کے ساتھ
 مسجد سے نکل آئے اور شام کے ایک گاؤں میں جا کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی۔ واقعہ یہ کہ
 یہی حضرت علیؓ کی طرف سے ثالث تھے۔ ۶۶۱ھ میں ۶۱ سال کی عمر میں وفات پائی۔ (ابو خلیل)

اس لئے ان کی بجائے کسی اور شخص کو منتخب کیا جائے (حضرت علیؓ کی اپنی رائے حضرت عبداللہ بن عباس کو مقرر کرنے کی تھی) مگر عراقیوں نے نہ مانا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی پر بے حد اصرار کیا۔ نہایت مجبور ہو کر حضرت علیؓ خاموش ہو گئے۔ قرار یہ پایا کہ یہ دونوں حکم باہمی اتفاق سے قرآن مجید کی رو سے امور متنازعہ کا جو فیصلہ کریں۔ وہ دونوں فریق کو منظور و قبول ہوگا۔

جب دونوں ثالث فیصلہ کرنے بیٹھے تو ان میں باہم گفتگو کا آغاز اس طرح ہوا:-

عمر بن العاص :- میرے محترم ابو موسیٰ! ہمارا یہ فرض ہے اور اسی کام کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم میں سے جو فریق غلطی پر ہے اُسے اُس کی غلطی سے متنبہ کریں اور جو فریق صحیح راستے پر ہے اُس کی امداد کریں۔

ابو موسیٰ :- بیشک ہم پر لازم ہے کہ امت کے باہمی نزاع کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ مٹا کر ان کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں۔

عمر بن العاص :- آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا یہیں چاہئے کہ جن امور پر ہم دونوں آپس میں اتفاق کر لیں۔ ان کو ساتھ کے ساتھ لکھواتے جائیں تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا باقی نہ رہے۔

ابوموسیٰ :- ہاں یہ مناسب ہے۔

اس مرحلہ پر پہنچ کر حضرت عمر بن العاص نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کی منظوری سے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ "قلم و دست لے کر بیٹھ جاؤ۔ جس امر پر ہم دونوں متفق ہو جایا کریں اُسے فوراً لکھ لیا کرو۔ لیکن اس وقت تک کوئی فقرہ ہرگز نہ لکھنا۔ جب تک اُس کے لکھنے کی منظوری تم ہم دونوں کے منہ سے نہ سن لو۔"

اس کے بعد حضرت عمر بن العاص نے غلام سے کہا لکھو:

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ وہ فیصلہ ہے جو ابوموسیٰ عبداللہ بن قیس اور عمر بن العاص نے باہم مل کر کیا۔ ہم دونوں اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے رسول اور بندے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ اسلام

کو تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ اگرچہ مشرکوں کو یہ امر کتنا ہی ناگوار گذرے۔
اس پر غلام نے حسب ہدایت حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی طرف
دیکھا۔ آپ نے فرمایا: "ہاں لکھو۔"

عمر و بن العاص :- ہم خدا کی خدائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کے بعد اس امر کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ ابو بکرؓ حضور علیہ السلام کے خلیفہ
تھے۔ انھوں نے اپنی خلافت میں کتاب و سنت پر عمل کیا اور بہت اچھی
طرح عمل کیا۔

ابو موسیٰ :- ہاں لکھو
عمر و بن العاص :- ابو بکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے اور
انھوں نے بھی زندگی بھر کتاب و سنت کے مطابق عمل کیا۔
ابو موسیٰ :- بیشک لکھو۔

عمر و بن العاص :- حضرت عثمانؓ بن عفان کو حضرت عمرؓ کی وصیت کے مطابق
مجلس شوریٰ نے متفقہ طور پر خلیفہ بنایا تھا اور وہ مومن تھے۔
ابو موسیٰ :- ہم یہ فیصلہ کرنے کے لئے یہاں نہیں آئے کہ کون مومن تھا اور کون
کافر ہے؟

عمر بن عاص :- اگر عثمان بن عفان مومن نہیں تھے تو کیا کافر تھے ؟
ابوموسیٰ :- (بجور ہو کر) اچھا یہ بھی لکھ لو۔

عمر بن عاص :- جن لوگوں نے خلیفہ مومن کو ناحق شہید کیا۔ کیا وہ
ظالم نہیں ؟

ابوموسیٰ :- بیشک جنہوں نے یہ مکروہ فعل کیا۔ وہ ظالم ہیں۔

عمر بن عاص :- مظلوم کے ولی کو اس کے خون کا قصاص لینے کا حق
قرآن کریم نے دیا ہے۔

ابوموسیٰ :- بیشک دیا ہے۔

عمر بن عاص :- کیا معاویہ سے زیادہ حضرت عثمان کا کوئی اور ولی
ہے ؟

ابوموسیٰ :- نہیں

عمر بن العاص :- (علام سے) یہ سب باتیں لکھو

ابوموسیٰ :- ہاں ہاں لکھو۔

عمر بن عاص :- ہمارے پاس اس امر کا کافی اور زبردست ثبوت موجود ہے

کہ خلیفہ مظلوم کی شہادت کے بعد ان کے قاتل علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں

اس وقت تک موجود ہیں۔ جن کو آنکھوں نے کوئی سزا نہیں دی۔
 ابو موسیٰ :- ہم اس وقت فریقین میں صلح کرانے کے لئے جمع ہوئے ہیں لہذا
 ایسی باتیں یہاں مناسب نہیں۔ وہ بات کرو جس سے اتحاد
 پیدا ہو۔

عمر بن عاص :- میرے محترم بزرگ! فرمائیے وہ ایسی کونسی شکل ہے۔
 جس سے امن و امان قائم ہو سکے اور یہ روزِ روز کی لڑائی ختم ہو۔
 ابو موسیٰ :- تم اس امر سے بخوبی واقف ہو کہ عراق کے باشندے کبھی
 معاویہ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ خواہ کچھ بھی ہو۔ اسی طرح ملک
 شام کے رہنے والے کبھی علیؑ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے
 تیار نہیں ہوں گے۔ اس لئے اس دو عملی کو ختم کرنے کی یہی آسان
 اور سہل ترکیب ہو سکتی ہے کہ دونوں کو معزول کر دیا جائے۔ نہ علیؑ
 برسرِ اقتدار رہیں اور نہ معاویہؓ برسرِ حکومت۔ بلکہ ان دونوں کی بجائے
 عبداللہ بن عمرؓ کے ہاتھ میں خلافت کی باگ دے دی جائے کہ وہ
 اپنے زہد و ورع اور اتقا و پیرنگاری کے باعث اس منصب کے
 پورے طور پر مستحق ہیں۔ امید ہے کہ وہ اپنے محترم باپ کی مانند

نہایت عدل و انصاف سے حکومت کریں گے اور کسی کو شکایت کا
موقع نہ آنے دیں گے۔

عمر بن عاص :- مجھے عبداللہ بن عمر کی نیکی اور پریہیزگاری سے انکار نہیں
لیکن میں ان کے خلیفہ بنائے جانے سے متفق نہیں۔

ابوموسیٰ :- وہ خلافت کے پورے طور پر مستحق ہیں اور ان میں وسنداری کی
وہ تمام صفات موجود ہیں جو خلیفہ میں ہونی چاہئیں۔

عمر بن عاص :- میں ان کی خلافت کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔

ابوموسیٰ :- اچھا پھر یوں کرو کہ اس معاملہ کو صلحائے امت کی رائے پر چھوڑ
دو۔ وہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔

عمر بن عاص :- آپ کی یہ بات بیشک مجھے منظور ہے۔

ابوموسیٰ :- (غلام سے) لکھو کہ ہم دونوں ثالث اس امر پر متفق ہو گئے

ہیں کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیا جائے اور بعد میں

لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ بنا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔

عمر بن العاص :- ہاں مجھے بھی یہ منظور ہے لکھو۔

چنانچہ یہ ثالث نامہ لکھا گیا اور دونوں ثالثوں نے اس پر اپنے اپنے

دستخط کر دیئے۔ اب کام صرف یہ رہ گیا کہ اس فیصلہ کا اعلان مجمع عام میں کر دیا جائے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر حضرت عمرؓ بن العاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بزرگ اور محترم صحابی ہیں۔ مجھ سے پہلے ایمان لائے اور مجھ سے بہت زیادہ اسلام کی خدمتیں کیں۔ پس پہلے آپ ہی کھڑے ہوں اور فیصلہ کا اعلان فرمائیں میں آپ سے پہلے بولنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔

اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا "اس معاملہ میں جہاں تک ہم دونوں نے غور اور تعمق کیا۔ وہاں ہم دونوں اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ عامۃ الناس کی بھلائی اسی امر میں ہے کہ علیؓ اور معاویہؓ دونوں کو معزول کر دیا جائے اور مسلمان جس کو چاہیں۔ ان دونوں کے علاوہ اپنا امیر اور امام منتخب کر لیں۔"

کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ کے فوراً بعد حضرت عمرؓ بن العاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا:-

"آپ صاحبان نے سن لیا۔ جو کچھ محترم بزرگ ابو موسیٰ نے فرمایا۔ میں

اُن سے اس معاملہ میں پورے طور پر متفق ہوں کہ علی کو معزول کر دیا جائے اور میں اپنی طرف سے بھی علی کو معزول کرتا ہوں مگر معاویہ کو معزول کرنے میں میں اُن کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا اور اُن کو اُن کے منصب پر قائم رکھتا ہوں۔ کیونکہ وہ خلیفہ ثالث کے جائز ولی ہیں اور اُن کے خون کے طلبکاروں میں اُن کا حق سب پر فائق ہے اور وہ امر خلافت کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کی پوری اہلیت اور قابلیت رکھتے ہیں۔“

اس پر ہر طرف سے مخالف آوازیں بلند ہوئیں اور جلسہ درہم برہم ہو گیا۔ یہ ساری کہانی جو اوپر بیان ہوئی اور عام عربی اور اردو تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کچھ ذل کو لگتی نہیں اور اکثر باتیں اس کی محل نظر ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ صحیح

بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیٹ استاں کے لئے

تو وہی بات یہاں معلوم ہوتی ہے۔

اول تو یہی قصہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین جھگڑا تو خلیفہ مظلوم کی شہادت کے قصاص کے متعلق تھا اور فیصلہ ہوا حضرت علی اور حضرت معاویہ کی معزولی کا۔ آخر ثالثوں کو یہ اختیار کس نے دیا تھا

کہ تم دونوں حر لعیوں کے متعلق فیصلہ کرو کہ آیا وہ خلافت اور امامت کے لائق ہیں یا نہیں؟ متنازعہ فیہ مسئلہ یہ نہیں تھا۔ بلکہ یہ تھا کہ :-

(۱) آیا حضرت عثمانؓ ناحق مارے گئے یا نہیں؟

(۲) اُن کا قصاص اُن کے وارثوں کو ملنا چاہئے یا نہیں؟

(۳) اُن کے قاتل لائق دار ہیں یا نہیں؟

ظاہر ہے کہ اس سے قبل حضرت معاویہؓ کا کوئی دعویٰ کل امت کی خلافتِ قیادت اور امامت کا نہیں تھا بلکہ وہ صرف خونِ عثمانؓ کے قصاص کے طلبگار تھے اور بس۔ اگر قاتل فوراً قتل کر ڈالے جاتے یا اُن کے حوالے کر دیے جاتے تو پھر اُن کے لئے خروج کی کوئی اور وجہ باقی نہ رہ جاتی اور مجبوراً ان کو سرباطاعت خم کرنا پڑتا۔

اگر اس بات کو بھی جو خاصی وزن دار ہے یکسر نظر انداز کر دیں تو بمنظرِ تعمق یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب پہلے ہی یہ امر طے ہو چکا تھا کہ دونوں ثالث جس بات پر باہم متفق ہو جائیں گے۔ صرف وہی بات دونوں فریق کے لئے قابل قبول ہوگی۔ پھر اس صورتِ حال کی موجودگی میں حضرت عمروؓ بن العاص یہ بات کس طرح کہہ سکتے تھے کہ "ابو موسیٰؓ نے تو دونوں کو معزول

کر دیا۔ مگر میں معاویہؓ کو بحال رکھتا ہوں۔ ایسی پھر اور پوچ بات نہ عمر بن عباس
 جیسے ہوشیار سیاست دان کے مُزے سے نکل سکتی تھی۔ نہ اسے کوئی معتدل شخص
 مان سکتا تھا۔ نہ اس بات کا سوائے مضحکہ خیزی کے اور کوئی نتیجہ پیدا ہو سکتا تھا۔
 نہ اس بات کے کہنے سے حضرت عمر بن عباس کے فریق کو کسی قسم کا نائدہ پہنچ
 سکتا تھا۔ نہ اس بات سے فریق مخالف کو کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ تھا۔ یہ
 یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بھلا حضرت عمر بن عباس ایسی لغو بات
 کیوں کہتے جس کا سر تھا نہ پیرہ کوئی بھی ہوشمند آدمی ایسی بے سرو پا بات
 نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر بن العاصؓ تو اپنے وقت میں عرب کے مسلمہ عقلاء
 میں شمار ہوتے تھے۔

اس سلسلہ میں دوسری غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ثالث نامہ باجاخذ
 طور پر لکھا گیا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ دونوں ثالثوں کی منظوری اور اجازت
 کے بعد تحریر کیا جاتا تھا تو پھر زبانی فیصلہ کرنے کے کیا معنی ہے اور کس طرح حضرت
 عمر بن العاصؓ کو جرأت ہوئی کہ اپنے لکھوائے ہوئے اور اپنے دستخط کئے ہوئے
 فیصلے کے برخلاف انھوں نے مجمع عام میں بیان دیا اور کہا کہ "میں علیؓ کو معزول
 اور معاویہؓ کو بحال رکھتا ہوں۔" کیوں نہ ابو موسیٰؓ یا کسی اور نے فوراً کھڑے ہو کر

ثالث نامہ کے الفاظ پڑھ کر سنا دیتے جس میں صفات اور غیر مبہم طور پر
 تھا کہ دونوں کو معزول کر دیا جائے، (واضح ہو کہ مصالحت کی یہ ساری گفتگو
 میں نہیں ہوئی بلکہ ہر فریق کی طرف سے چار چار سو آدمی اس میں شامل تھے
 دونوں قائدوں نے بڑے بڑے معزز صحابہ کو اس گفتگو میں شرکت کے
 اپنی اپنی جانب سے بھیجا تھا۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت شہ
 بن ہانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت سعد بن وقاص۔ حضرت معمر بن شہ
 حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبدالرحمن بن عمارت۔ ثالثوں نے ان سے
 کے سامنے تمام گفتگو کی اور انہی کی موجودگی میں ثالث نامہ کی ساری عبارت
 لکھی گئی)

سب عجیب اور دلچسپ بات اس ضمن میں یہ ہے کہ اس جھگڑے
 قبل حضرت معاویہ نے اپنی خلافت کا نہ کوئی دعویٰ کیا تھا۔ نہ کسی نے اس وقت
 تک ان کو خلیفہ مانا تھا۔ ایسی حالت میں ان کو معزول یا بحال کرنے کا کیا
 تھا؟ رہ گئی شام کی گورنری! تو وہ اگر حضرت معاویہ کو چھوڑنی ہوتی تو اسی وقت
 نہ چھوڑ دیتے۔ جب مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہی حضرت علی نے ان کی علیحدگی
 حکم دیا تھا۔

جہاں تک میں نے غور کیا ہے میں اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ واقعہ حکیم پرافراط
 و تفریطِ حجت و بعض اور جانبداری و مخالفت کے گہرے پڑے پڑے ہوئے ہیں
 کہ ان کی موجودگی میں اصل حقیقت کا معلوم کرنا دشوار ہی نہیں فریبانا ناممکن ہو گیا ہے
 اور کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح واقعہ کیا تھا؟ مگر جو بات ہر شخص یقینی
 طور پر کہہ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس موقع پر حضرت عمرو بن العاص نے خواہ کسی
 طریقہ سے کی ہو۔ حضرت معاویہؓ کی بے انتہا اور بے حدودی۔ اگر وہ اس موقع
 پر نہ ہوتے تو بلاشبہ حضرت معاویہؓ سخت مشکلات میں پھنس جاتے اور واقعات
 کا رخ بالکل بائٹ جاتا۔

ان مختصر گزارشات کے بعد ہم پھر اصل بحث کی طرف لوٹتے ہیں اور وہیں
 پہنچ جاتے ہیں جہاں دونوں ثالث مصروف گفتگو ہیں۔
 اس حقیقت کے تسلیم کر لینے میں کسی شخص کو بھی تامل نہیں ہو سکتا کہ حضرت
 عمرو بن العاص اپنے مقابل کی نسبت نہایت ہوشیار۔ نہایت عقلمند۔ نہایت
 دور اندیش اور بہت اعلیٰ درجہ کے ریاست دان تھے انہوں نے اپنی بے نظیر
 قابلیت سے جو کچھ چاہا حضرت ابو موسیٰؓ کی خود اپنی زبان سے منظور و قبول کروایا
 اور خود ان کو اپنی طرف سے کچھ پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ مثلاً یہ کہ:

(۱) حضرت عثمانؓ مظلوم اور بے گناہ شہید کئے گئے۔

(۲) معاویہؓ ان کے جائز اور حقیقی وارث اور ولی ہیں۔

(۳) معاویہؓ کو خلیفہ مظلوم کا قصاص طلب کرنے کا پورا حق حاصل ہے

(۴) حضرت علیؓ کے لشکر میں قاتلان عثمانؓ موجود ہیں اور حضرت علیؓ نے

ان کو پناہ دے رکھی ہے۔

(۵) ان متذکرہ بالابا توں کے علاوہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے کمال

ہوشیاری سے خود حضرت ابو موسیٰ کی زبان سے یہ بھی کہلوایا کہ "میں علیؓ کو

معزول کرتا ہوں۔"

اس تمام قصہ کے متعلق مشہور شیعہ مورخ مسعودی کا بیان یہ ہے کہ سو

اُس نظریہ کے جو باقاعدہ طور سے دونوں ثالثوں نے باہمی رضامندی سے

لکھوائی۔ کسی قسم کا کوئی زبانی اعلان کسی فریق کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا۔

اگر مسعودی کا یہ بیان درست تسلیم کر لیا جائے تو اس عمارت کا پہلا

ساحصہ منہدم ہو جاتا ہے۔ جو واقعہ حکیم کے متعلق موافق اور مخالف گروہوں

نے بنا کر کھڑی کی ہے۔ اس صورت میں ہمارے لئے صحیح طریق یہی ہے

کہ واللہ اعلم بالصواب کہہ کر خاموش ہو جائیں اور اصل حقیقت کو حوالہ

بخدا کر دیں۔

فیصلہ خواہ تحریری ہوا ہو یا زبانی مگر واقعہ یہ ہے کہ نہ اُسے حضرت
علیؑ نے تسلیم کیا اور نہ حضرت معاویہؓ نے۔ اگر یہ مانا جائے کہ معاہدہ تحریری
ہوا تھا تو دونوں معزول ہوتے تھے اور زبانی اعلان کی روایت کو درست
سمجھا جائے تو صرف حضرت علیؑ۔

اس واقعہ کے بعد حضرت علیؑ نے تو حضرت معاویہؓ پر چڑھائی کرنے
کی تیاریاں شروع کر دیں اور حضرت معاویہؓ خلافت اور حاکمیت کا دعوے
لے کر اٹھے اور انھوں نے مختلف مقامات پر اپنی بیعت لینے کے لئے
اپنے آدمیوں کو بھیج دیا۔ فوراً ہی حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہؓ
سے اجازت لے کر مصر پر حملہ کر دیا اور حضرت علیؑ کے نہایت معتمد گورنر
محمد بن ابوبکر کو قتل کر کے مصر پر قابض ہو گئے۔ یہ محمد بن ابوبکر وہی شخص ہے
جو باجیوں کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ غنی کو شہید کرنے کے لئے
ان کے گھر میں پھلی طرف سے کودا تھا اور آپ کی دائرہ صلی پڑ لی تھی پھر حضرت
عثمانؓ کے غیرت دلائے پر شرمندہ ہو کر چھوڑ دی تھی۔

مصر پر حضرت عمرو بن العاص کا دوبارہ قبضہ ۳۸ھ میں بارہ برس

کے بعد ہوا۔ اور بعد ازاں وہ اپنی وفات تک مصر کے تقریباً نو و مختار گورنر رہے۔ لیکن اس تمام عرصہ میں جب بھی حضرت معاویہؓ کو کوئی مشکل پیش آتی وہ حضرت عمرو بن العاصؓ کو مصر سے بلوا کر مشورہ کیا کرتے تھے اور ان کی رائے کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔

حضرت عمرو بن العاصؓ آخر وقت تک حضرت معاویہؓ کے بہت بڑے اور خاص الخاص معاون رہے۔ یہاں تک کہ ۳۳ھ میں بمرور ۹ سال ان کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت وہ لاکھ درہم ۳۳۵ دینار۔ طائف میں ایک باغ اور شام و مصر میں چند مکان ترکہ میں چھوڑے۔ آخری وقت میں اپنے صاحبزادے عبداللہؓ سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھ پر اپنی زندگی میں تین زمانے گزرے ہیں :-

(۱) پہلا زمانہ تو وہ تھا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت شدید جانی دشمن تھا اور ہر وقت اس نکتہ میں رہتا تھا کہ موقع ملے تو آپ کو جان سے مار ڈالوں۔ آنحضرتؐ سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی اور نہ تھا۔ میں نے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں دیں اور ہمیشہ آپ کے خلاف لوگوں اور قبیلوں کو بھڑکانا رہا۔ اگر میں اس حالت میں

باتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔

(۲) دوسرا زمانہ مجھ پر وہ آیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو
یروپا۔ اور میں نے مدینہ میں حاضر ہو کر حضورؐ کی بیعت کر لی۔ اب رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب
نہا۔ میں نے آنحضرتؐ کے ارشاد کی تعمیل میں بہت سے دینی کام کئے۔
اس حالت میں مرجاتا تو بخشش کی امید تھی۔

(۳) تیسرا زمانہ مجھ پر یہ آیا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت
کئے۔ حضورؐ کے بعد جو کام میں نے کئے ان کی جوابدہی کے لئے
خدا کے ہاں جا رہا ہوں۔ دیکھئے وہاں کیا بنے؟ اور کیا پیش
کئے؟

اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کیا۔ اور بلند آواز سے یہ
جانا لگی۔

”اے اللہ! تو نے حکم دیا اور میں نے نافرمانی کی۔ تو نے منع
کیا اور میں نے خلاف ورزی کی۔ میں تیرے ہی پاس آخری پناہ لینا
چاہتا ہوں۔ اگر میرے گناہوں کو معاف کر دے تو توستار و عفار ہے اور

اگر نماز دے تو میں اس کا پورے طور پر مستحق ہوں۔

اے میرے اللہ! میں عاجز۔ ناتوان۔ گنہگار تیرے حضور معاف

کا طالب ہوں۔ اور تجھ ہی سے مغفرت چاہتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی

معبود نہیں۔"

دعا کے آخری کلمات کو بار بار دہراتے رہے اور اسی دعا

میں ان کی رُوح بدن کا ساتھ چھوڑ کر عالمِ بالا کو پہنچ کر گئی۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت معظّم اور مکرم صحابی تھے۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ اور نام مغیرہ بن شعبہ بن ابی عامر ہے۔ جنابِ حزاب کے بعد شہدہ بھری میں اسلام آئے اور ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے۔

ان کے مسلمان ہونے کے ایک سال بعد ۶ سال ہجری میں علیؑ کا واقعہ پیش آیا جو مفصل طور پر تاریخوں میں مذکور ہے۔ اس سلسلہ میں جب توش مکہ کا ایک بہت معزز شخص عروہ بن مسعود ثقفی گفتگو کے مصداق بنے تو اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس نے آنحضرت سے

بہت بے تکلفانہ طور پر گفتگو شروع کی۔ بات کرتے ہوئے بار بار اپنا
 ہاتھ حضور کی ریش مبارک کی طرف بڑھاتا تھا۔ حضور نے تو اس پر کچھ نہ
 کہا۔ مگر صحابہ کو جو ارد گرد بیٹھے تھے۔ اس گستاخانہ طرزِ مخاطب پر سخت
 غصہ آیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اس وقت حضور کی پشت پر حفاظت کے خیال
 سے نیکی تلوار کھینچے مستعد کھڑے تھے۔ انہیں خاص طور پر یہ حرکت نہایت
 ناگوار گذری۔ اگرچہ عروہ بن مسعود قریش کا نہایت بااثر رئیس اور بہت معزز
 شخص تھا۔ مگر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس وقت اس بات کا کچھ بھی لحاظ
 نہ کیا اور نہایت ڈانٹ کر کہنے لگے: "عروہ! ہم جاں نثارانِ محمدؐ اس
 گستاخی کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ یا تو اپنا ہاتھ روک لو اور ادب کے
 ساتھ بات کرو۔ ورنہ ابھی تلوار سے تمہارا ہاتھ اڑا دوں گا" (سیرۃ النبیؐ)

جلد اول صفحہ ۲۱۵ - سیرۃ ابن ہشام صفحہ ۳۶۲

صلح حدیبیہ کے بعد جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ نبویہ
 برابر حضرت مغیرہ کو مختلف مہمات پر بھیجتے رہے اور ان کی مخلصانہ خدمات
 پر حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اطمینان کا اظہار فرمایا۔

حضور نے ہی کہیں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت یہ

السلام علیکم

ہی میں موجود اور تھیر و تکفین میں شریک تھے۔ جب حضورؐ کے جسم مطہر کو قبر میں اتارنے لگے تو انھوں نے جان بوجھ کر اپنی انگوٹھی قبر میں گرا دی اور پھر کہنے لگے "میری انگوٹھی! میری انگوٹھی!" حضرت علیؑ نے فرمایا۔ قبر میں اتر کر انگوٹھی نکال لو۔ یہ تو یہ چاہتے ہی تھے۔ اجازت ملتے ہی قبر میں کودے حضورؐ کے پائے مبارک کو بوسہ دیا اور جھک کر آنکھوں سے لگایا۔ پھر فوراً باہر آگئے اور بڑے فخر کے ساتھ لوگوں سے کہنے لگے کہ "آج تم میں سے کوئی بھی مجھ سے افضل نہیں۔ کیونکہ میں تم سب میں اپنے آٹا سے سب سے آخر میں جدا ہوا۔ اپنے اس فخر کا اظہار وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ (ابن سعد

جلد ۲۔ صفحہ ۷۷)

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے عہد میں سب سے بڑا مسئلہ مرتدین کا کھڑا ہو گیا تھا۔ اس عظیم فتنہ کے استیصال کے لئے بڑے بہادر اور تجربہ کار افسروں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ حضرت صدیقؓ نے مختلف صحابہ کو مختلف قبائل کی طرف روانہ فرمایا تاکہ جہاں جہاں ارتداد کی آگ روشن دیکھیں۔ تنگوار کی چمک سے اس کا خاتمہ کر دیں۔ اہل بحیرہ کی طرف حضرت مغیرہ کو بھیجا گیا اور جب وہاں کے مرتدین کا قلع و قمع حضرت مغیرہؓ کر چکے تو پھر دربار صلیبی

سے اُن کو یار کے مرتد لوگوں کی سرکوبی کے لئے مقرر کیا گیا اور ہر جگہ
وہ کامیابی کے ساتھ واپس آئے (مشردک جلد ۷ - صفحہ ۲۲۷)

حضرت مغیرہ کی جنگی قابلیت اور سیاسی لیاقت کا مظاہرہ خاص طور
حضرت فاروق اعظم کے عہدِ خلافت میں ہوا جبکہ اسلامی فوجیں ایران کی لشکر
اور روم کی عظمت کو مٹانے کا عزم لے کر میدانِ جہاد میں آئیں۔ لیکن قبل اس
کے کہ مسلمان ان دونوں زبردست شہنشاہیوں پر حملہ آور ہوں۔ خلیفہ اسلام
نے مناسب سمجھا کہ ایک سفارت کے ذریعہ اُن پر اتمامِ حجت کر دیا جائے۔
حضرت فاروق اعظم کے حکم کے ماتحت اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت
سعد بن ابی وقاص نے عرب بھر کے چودہ نہایت نامور اور مشہور اشخاص کو
ایک جماعت منتخب کی۔ جس میں آپ نے ایسے اصحاب کو شامل کیا جو ظاہر
شان و شوکت۔ رعب و داب۔ بہادری و شجاعت۔ دلیری و بے خوفی۔ عقل
تدبیر اور سیاسی و جنگی قابلیت میں تمام عرب کے اندر اپنا جواب نہ رکھتے۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ ان سب میں پیش پیش تھے۔ عرب کے ان بہترین اور سفاک
کے ان معزز ممبروں کے نام یہ تھے۔

عطار بن حاجب۔ اشعث بن قیس۔ عارث بن حسان۔ عاصم بن

لمرو بن معدی کرب۔ مغیرہ بن شعبہ۔ معنی بن عارضہ۔ نعمان بن مقرن۔ بسیر بن
 بی دہم۔ جملہ بن جوہرہ۔ حنظلہ بن الریح۔ فرات بن حیان الجلی۔ عدی بن سہیل۔
 اور مغیرہ بن زرارہ۔

عرب کے منتخب افراد کی یہ سفارت نعمان بن مقرن کی زیر سرکردگی جب
 یزدجرد و شہنشاہ ایران کے دربار میں مدائن پہنچی اور فرض تبلیغ ادا کیا تو یزدجرد
 نے نہایت سخاوت سے جواب دیا کہ ”تمام دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل اور کم
 حیثیت قوم اور کوئی نہ تھی۔ اونٹ کا دودھ پی کر اور گوہ جیسے مکروہ جانور
 کا گوشت کھا کر اب تمہیں یہ دن لگے کہ تم سلطنت ایران کا خواب دیکھنے لگتے
 نفور تو اسے چرخ گرداں نفو

تم اپنی ذلت اور نکبت کا وہ وقت بھول گئے جب تم ہماری طاقت
 اور شوکت سے ایسے ڈرتے تھے جیسے گائے قصاب سے ڈرتی ہے۔
 تمہارے میں سے اگر کوئی ذرا بھی سرکشی اختیار کرتا تھا تو سرحد کے زمینداروں
 کو یہاں سے حکم بھیج دیا جاتا تھا اور وہ تمہیں آنا فانا سیدھا کر دیا کرتے تھے۔
 اگر بھلی خیر چاہتے ہو تو جدھر سے آئے ہو۔ اُدھری لوٹ جاؤ۔ ورنہ کہتے اور
 گدھ تمہاری لاشوں کو کھاتے نظر آئیں گے اور تم میں سے ایک بھی اپنی

جان سلامت لے کر واپس نہیں جاسکے گا۔

یہ سن کر وفد کی جانب سے میخیرہ بن زرارہ آگے بڑھے اور انہوں

نے کہا :-

”بادشاہ نے جو کچھ کہا - ٹھیک ہے۔ واقعی ہم ایسے ہی ذلیل تھے۔

اور ہمارا شمار انسانوں میں نہ ہوتا تھا۔ ہر قسم کے جرائم اور ہر قسم کی معاصی میں

ہم مبتلا تھے۔ ہر بدی اور بدکاری ہمارا شعار تھا۔ ہر قسم و جور۔ ہر ظلم و طغیان

اور ہر قسم کی لوٹ مار ہمارا پیشہ تھا۔ شراب ہماری گھٹی میں پڑی ہوتی تھی۔

اور جو ہمارا دن رات کا مشغلہ تھا۔ ہم انسانیت، شرافت اور علم و تہذیب

سے قطعاً عاری تھے اور یقیناً زندگی کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ

تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا اور ہم میں سے ہماری ہدایت کے لئے ایک

رسول کو کھڑا کیا۔ جس نے ہمیں حکمت و لور، اور عقل و اخلاق کی باتیں

بتائیں۔ ہمیں تہذیب و تمدن سے آشنا کیا۔ ہمیں حقیقی اخلاق سکھائے۔

غرض اس نے ہماری دنیا بھی درست کی اور عقیقی بھی۔ اور آج اس

زندگی بخش پیام لے کر اے بادشاہ! ہم تیرے پاس آتے ہیں۔ اسلام

قبول کر، امن میں رہے گا۔ ورنہ تیرا اپنا وبال تو تجھ پر پڑے گا ہی۔

تمام رعایا کی تباہی کا بھی ذمہ دار تو ہی ہوگا۔

یہ عجیب و غریب تقریریں کر مغرور و متکبر شہنشاہ ایران مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا۔ "سفیروں کا قتل اگر جائز ہوتا۔ تو میں ابھی تم سب کی گردنیں اڑا دیتا۔ مگر تمہاری موجودہ ذلت کے پیش نظر تمہیں معمولی سی سزا دیتا ہوں۔"

یہ کہہ کر شہنشاہ نے ایک مٹی کی ٹوکری منگوائی اور ذلیل کرنے کے طور پر وفد کے ایک بہت معزز رکن عاصم بن عمر کے سر پر رکھ دی۔ یہ لیکر بھاگے اور سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچ کر کہنے لگے۔ "مبارک ہو کہ سر نے اپنی زمین اپنے ہاتھوں سے خود ہی آپ کے حوالے کر دی۔"

(الفاروق جلد اول صفحہ ۷۹)

اس واقعہ کے کئی مہینے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے ایک اور سفارت زیر سرکردگی حضرت مغیرہ بن شعبہ سلطنت ایران کے سپہ سالار اعظم رستم کے پاس گئی۔ سفارت کے آنے کی خبر سن کر رستم نے نہایت شان و شوکت کے ساتھ اپنا دربار سجایا۔ تاکہ عربوں پر ایرانی عظمت کا عجیب طاری ہو جائے۔ تمام بڑے بڑے فوجی افسر نہایت ذرق برق لباس

پہن کر زریں کرسیوں پر جلوہ افروز ہوئے۔ رستم کے لئے جو تخت بچھایا
 گیا۔ اس پر اس قدر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے کہ نظر نہ ٹھیرتی تھی
 زمین پر اعلیٰ رستم کے ایرانی قایلین کچھے ہوئے تھے اور ویبا و بنجاب کا فرش
 ہو رہا تھا۔ سپاہی نہایت اعلیٰ فوجی لباس پہنے ہوئے دورویہ کھڑے تھے
 اور ان کے ہتھیاروں کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ خدام اور غلام
 نہایت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے اپنی اپنی جگہ استادہ تھے مگر مغیرہ
 بن شعبہ کو شان و شوکت کی اس تمام عظیم الشان نمائش میں سے کوئی ایک
 چیز بھی مرعوب نہ کر سکی اور وہ نہایت بے پروائی سے گھوڑا بڑھائے
 رستم کے تخت تک پہنچ گئے۔ دربار میں پہنچ کر نہ آداب و تسلیمات بجا
 لائے۔ نہ سلام کیا۔ گھوڑے سے اترے اور سیدھے سپہ سالار رستم کے
 پاس جا کر تخت پر بیٹھ گئے۔

تمام دربار اسلامی سفیر کی یہ دلیری و سیاہی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایران
 دولت سے دربار ایران کی یہ ہتک نہ بیکھی گئی۔ اٹھوں نے بازو سے
 پکڑ کر حضرت مغیرہؓ کو تخت سے اتار دیا۔ اس پر مغیرہؓ بن شعبہ نے کہا۔
 ”میں یہاں خود نہیں آیا۔ تمہارا بلایا ہوا آیا ہوں اور اس لئے تمہارا اہمان

ہوں۔ نمان سے ایسا سلوک تمہارے بدترین اخلاق کا آئینہ دار ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس حرکت کو نہایت ذلیل سمجھتے ہیں کہ ایک شخص تو خدا بن کر زرنگار تخت پر بیٹھ جائے اور دوسرے لوگ مخلوق بن کر اور ہاتھ باندھ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ تمہاری یہی حرکتیں اور یہی اخلاق رہے تو بہت جلد تباہ ہو جاؤ گے اور تمہاری سلطنت ان لوگوں کی وراثت میں دے دی جائے گی جو خدا کے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔

مغیرہ بن شعبہ کی یہ روایت اور پچھلا ل تقریر مترجم عبود کی زبان سے سن کر تمام دربار سنائے میں آگیا اور بعض لوگوں کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ واقعی ہم غلطی پر ہیں جو ایسی قوم کو ذلیل سمجھتے ہیں۔

سب سے زیادہ شرمندگی کا احساس سپہ سالار کو ہوا اس نے حضرت مغیرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھالیا اور کہنے لگا۔ معاف کرنا۔ جو کچھ ہوا میرے حکم یا اشارے سے نہیں ہوا اور میں اس کے لئے آپ سے معافی خواہ ہوں۔

اس معذرت کے بعد کچھ ادھر ادھر کی بات چیت ہونے لگی۔ اتنا کہ گفتگو میں بے تکلفی کے طور پر رستم نے مغیرہ بن شعبہ کے ترکش میں سے ایک

چھوٹا سا نیزہ نکالا اور مذاقاً کہنے لگا:-

”عرب کے بہادر سردار! کیا ان ہی نکلوں کو لے کر تم ایران کی
عظیم الشان سلطنت فتح کرنے نکلے ہو۔ یہ بے حقیقت نکلے میدان
جنگ میں کیا کام دیں گے؟“

مغیرہ بن شعبہ نے اس طنز کا بڑا لطیف اور چھٹا ہوا جواب دیا۔
فرمانے لگے ”ٹھیک ہے۔ تمہارے نزدیک یہ محض نکلے ہیں۔ لیکن
میدان جنگ دیکھے گا کہ یہ بے حقیقت نکلے کس تیزی کے ساتھ اپنے
دشمنوں کے سینوں میں پیوست ہوتے ہیں۔ افواجِ ایران کے سپہ سالار
آگ کی ٹواگر چہ نہایت باریک ہو مگر تاہم یہ نہ بھولتے کہ وہ بہر حال
آگ ہے اور ایک دم میں جلا کر بھسم کر سکتی ہے۔“

رستم کو ابھی مزید ندامت کا شکار ہونا تھا۔ اب کے اس کی
نظر تلوار کے نیام پر پڑی۔ اور وہ ہنس کر کہنے لگا۔ ”کس قدر ناکارہ
بوسیدہ اور پرانا نیام ہے۔ کیا ایسی ہی تلوار کے بھروسے پر تم شکست
ایران سے ٹکر لینے آئے ہو؟“

حضرت مغیرہ بن شعبہ بھلا کب چوکنے والے تھے۔ انھوں نے

برجستہ جواب دیا "نیام کے پرانے یلئے ہونے سے کیا بنتا ہے۔ تلوار
پر تو دھارا بھی رکھی گئی ہے اور اس تلوار کی کاٹ کا تجربہ آپ کو عنقریب
خود ہی ہو جائے گا"

اس دلچسپ نوک چھوٹکے کے بعد اصل مبحث پر گفتگو کا آغاز ہوا۔
ستم نے اپنی سلطنت کی شان و شوکت اور عظمت و جلال کا بہت بالغہ
کے ساتھ ذکر کر کے اور یہ سمجھ کر کہ مغیرہ میرے اس بیان سے رعب میں
آجائیں گے اور نہایت نرم شرائط پر صلح کے لئے آمادہ ہو جائیں گے
یہ کہا کہ اگر تم لوگ واپس چلے جاؤ تو میں تمہارے افسروں کو اور تمہارے
سپاہیوں کو عالی قدر مراتب بخشے۔ بدایا اور نقد رقوم دینے کو تیار ہوں
اور یہ محض اس لئے کہتا ہوں کہ تم نہایت ننگے بھجوں کے فقیر اور مفلس لوگ
ہو۔ جب کھانے کو تمہارے ملک میں کچھ نہ رہا تو تم نے ایران کو لوٹنے کا
منصوبہ بنایا۔ لیکن ایرانی شہسواروں کے آگے تمہاری وال نہیں گلے گی
اور تم سب کے سب ہمیں کھیت رہو گے۔ اس لئے تمہاری حالت پر
بحم کر کے میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مانو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ نہ
مالو گے تو نعمتان اٹھاؤ گے"

اس تمام تقریر کا حضرت مغیرہؓ نے یہ جواب دیا کہ ”جو بات آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ وہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسلام لائیں۔ اس میں آپ کا، آپ کی قوم کا اور آپ کے ملک کا فائدہ ہے۔ اسلام نہ لائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اسلام نہ لانے کی صورت میں آپ ہماری اطاعت اختیار کریں اور مقررہ خراج ادا کرتے رہیں ہم ہر طرح اور ہر دشمن سے آپ کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ کسی طاقت کی مجال نہیں ہوگی کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ ہم آپ کے محافظ نگران اور سرپرست ہوں گے اور آپ اپنے مذہبی و معاشرتی معاملات میں بالکل آزاد ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں منظور نہ ہوں تو تلوار ہم دونوں کے درمیان منسلک کر دے گی اور اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا۔“

یہ کھرا کھرا جواب سن کر سپہ سالار رستم کو بڑا طیش آیا۔ وہ اپنی طاقت کے زعم میں سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ میں عرب سفیر سے کہوں گا۔ کیونکہ وہ ان کی توقعات سے بہت زیادہ ہوگا۔ اس لئے وہ لوگ فوراً مان جائیں گے۔ مگر بالکل خلاف توقع جب رستم نے مغیرہؓ کی زبان سے یہ جواب سنا تو سخت غصہ کی حالت میں کہنے لگا۔ چمکتے ہوئے سورج کی قسم! میں تلوار سے کرکل تمہاری ساری فوج

کو قتل کر ڈالوں گا اور اس کے بعد سارے عرب کو برباد کر کے رکھ دوں گا
 اس کے بعد حضرت معیضہ بن شعبہ اپنے لشکر میں چلے آئے اور صلح
 کی گفتگو ختم ہو گئی۔ (سیر الصحابہ جلد سوم صفحہ ۱۹۱-۱۹۲، الفاشق
 حصہ اول صفحہ ۸۲)

تاریخ سید کی مشہور جنگ میں ایرانیوں کا یہ بہادر سپہ سالار بہت بڑی طرح
 سے نہایت ذلت کے ساتھ مارا گیا اور میدان مسلمانوں کے ماتھ رہا۔
 رستم کے ہلاک ہونے کے بعد یزدجرد نے ہرمزان کو سپہ سالار مقرر
 کیا۔ اس نے بہت سخت مقابلے مسلمانوں سے کئے مگر ایک میں بھی اسے
 کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر وہ گرفتار ہو کر حضرت ناردق اعظم کی خدمت میں پیش ہوا
 حضرت عمرؓ اور ہرمزان کے درمیان ترجمان حضرت معیضہ بن شعبہ مقرر ہوئے
 کیونکہ انھوں نے ایران میں رہتے رہتے اتنی فارسی سیکھ لی تھی کہ معمولی طور پر
 کام چلا سکیں۔ حضرت عمرؓ کو ہرمزان کی بار بار عہد شکنیوں اور مسلمانوں کے خلاف
 اس کی سرگرمیوں کے باعث اس کے خلاف سخت غصہ تھا۔ آپ نے سرسری
 گفتگو کے بعد (جو حضرت معیضہ کے ذریعہ ہوئی) اس کے قتل کا حکم دے دیا
 ایرانی سپہ سالار نے کہا۔ مرنے سے پہلے حضورؐ اس پانی پلا دیجئے حضرت

عمرؓ نے پانی کا پیالہ منگوا یا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہرمزان کہنے لگا۔
 ”بہت ممکن ہے۔ اور ہر میں پانی پینے لگوں، اور ہر تم میری گردن اٹا دو۔“ حضرت
 عمرؓ نے مغیرہؓ سے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ جب حضرت مغیرہؓ نے بتلایا تو
 حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ جب تک تم پانی نہ پیو گے اس
 وقت تک تمھیں قتل نہیں کیا جائے گا۔“ جب حضرت مغیرہؓ نے اس سے
 یہ کہا تو اس نے فوراً سارا پانی پھینک دیا اور کہنے لگا۔ ”بس اب مجھے
 کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ نہ میں پانی پیوں گا۔ نہ قتل ہوں گا۔“

حضرت عمرؓ کو ہرمزان کی اس چالاکی پر بڑا غصہ آیا اور فرمانے لگے
 ”او دشمن خدا! تو نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔“
 حضرت مغیرہؓ بولے کہ ”جب آپ قول دے چکے ہیں تو بہر حال اسے
 پورا کرنا چاہئے۔“

تمام صحابہ نے بھی جو اس وقت مسجد میں موجود تھے۔ یہی کہا اور حضرت عمرؓ
 کو مجبوراً اسے چھوڑنا پڑا۔ جس پر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا۔ یہ چال
 میں نے اس لئے چلی کہ لوگ یہ بات نہ کہیں کہ ہرمزان تلوار کے ڈر سے
 مسلمان ہو گیا۔

حضرت عمرؓ کو ہرمزان کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی اور آپ نے دو ہزار سالانہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا اور اکثر اس سے ملکی معاملات میں مشورے کیا کرتے تھے۔ یہ مدینہ ہی میں رہتا تھا۔ سنہ ہجری جاری کرنے وقت اس کو بھی حضرت عمرؓ نے مشورہ کے لئے بلایا تھا۔ (الفاروق ص ۱۲۳)

اس کے بعد افواج ایران کا کمانڈر انچیف کسری نے مرزان شاہ کو مقرر کیا اور ڈیڑھ لاکھ فوج اس کی ماتحتی میں رکھے کر نہاوند کے مقام پر عربوں سے ایک آخری جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔

حضرت عمرؓ کو اس ہم کی سخت فکر تھی۔ آپ نے بنفس نفیس خود میدان جنگ میں جانا چاہا۔ مگر حضرت علیؓ نے روک دیا اور فرمایا کہ "اگر آپ نے مدینہ چھوڑا تو عرب میں ہر طرف قیامت برپا ہو جائے گی۔ میری رائے ہے کہ آپ یہاں سے نہ ٹھکیں اور شام، یمن، بصرہ وغیرہ میں فرمان بھیج دیں کہ جہاں جہاں جس قدر فوجیں ہیں۔ ایک ایک ٹلٹ نہاوند روانہ کر دی جائیں۔"

(الفاروق حصہ اول ص ۱۲۵)

حضرت علیؓ کی رائے اور مشورہ کا احترام کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے اپنا جانا طنزی کر دیا اور اپنی برائے نعمان بن مقرن کو کسری کے مقابلہ پر

جانے کا حکم دیا۔ ڈیڑھ لاکھ کے مقابلہ میں تیس ہزار سپاہ ان کے ساتھ کی اور
 ارشاد فرمایا کہ اگر تم میدان کارزار میں کام آؤ تو تمھاری بجائے حذیفہ
 بن ایمان فوج کا علم اٹھائیں اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جریر بن عبداللہ
 علم سنبھالیں۔ اگر وہ بھی لڑتے ہوئے مارے جائیں تو فوج کی قیادت مغیرہ
 بن شعبہ انجام دیں۔ (فتوح البلدان بلاذری ص ۳۱۱)

جب کو ذ سے چل کر مسلمانوں کا لشکر نہاوند پر پہنچا تو مردان شاہ کا پیغام
 ملا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا کوئی بہت معزز شخص
 جو تمام سیاسی اور ملکی معاملات سے بخوبی واقفیت رکھتا ہو۔ میرے پاس
 بھیج دیں۔ قرعہ فال مغیرہ بن شعبہ ہی پر پڑا اور ان ہی کو مردان شاہ کے پاس
 گفتگو کے لئے بھیج دیا گیا۔

اس سفارت کی بہت پر لطف کیفیت مولانا شبلی کر زبان سے سنئے۔
 ”عجم نے بڑی شان سے دربار آراستہ کیا۔ مردان شاہ کو تاج
 پہنا کر تخت زرہ پر بٹھایا۔ تخت کے دائیں بائیں ملک ملک کے شاہزادے
 دیبائے زرخش کی قبائیں۔ سر پر تاج زرہ، بالحقوں میں سونے کے کنگن پہن کر
 بیٹھے۔ ان کے پیچھے دو دو رتک سپاہیوں کی صفیں قائم ہوئیں۔ جن کی برہنہ

تلواروں سے آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ مترجم کے ذریعہ سے گفتگو شروع ہوئی۔ مردان شاہ نے کہا: اے اہل عرب! سب سے زیادہ بد بخت، سب سے زیادہ ناقہ مست، سب سے زیادہ ناپاک قوم جو ہو سکتی ہے وہ تم ہو۔ یہ قدر انداز جو میرے تخت کے گرد کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتے۔ لیکن مجھ کو یہ گوارا نہیں کہ ان کے تیر تمہارے ناپاک خون میں آلودہ ہوں۔ اب بھی اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو میں تم کو معاف کر دوں گا۔“

مغیر نے جواب دیا: ”ہاں ہم لوگ ایسے ہی ذلیل و حقیر تھے۔ لیکن کیا کریں۔ اس ملک میں اگر ہم کو دولت کا مزا پڑ گیا ہے اور یہ منہ ہم سے اسی وقت چھوٹیں گے۔ جب ہماری لاشیں خاک پر بچھ جائیں گی۔“

(الفاروق حصہ اول۔ نیز طبری ص ۲۶۰)

اس تلخ گفتگو کے بعد ظاہر ہے کہ مصالحت کی کیا شکل ہو سکتی تھی؟ مغیر بن شعبہ واپس چلے آئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ جس کے نتیجہ میں عمی بن ہزار ہا اور میدان جنگ میں کٹوا کر سپا ہو گئے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ جو مال غنیمت ہاتھ لگا۔ وہ چار کروڑ درہم میں فروخت ہوا اور یہ ساری رقم

فوج میں تقسیم کر دی گئی۔ اسی لڑائی میں وہ عجمی غلام فیروز گرفتار ہوا تھا جس کی
 قسمت میں ایک دن امیر المومنین فاروق اعظم کا قاتل ہونا لکھا تھا۔
 حضرت عمرؓ کے عہد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بصرہ اور کوفہ کے
 گورنر رہے اور ہر جگہ نہایت خوبی اور قابلیت کے ساتھ ملک کا انتظام کیا۔
 نئے وفاق باقاعدہ طور پر قائم کئے اور ایک دفتر ایسا کھولا جس میں ہر سپاہی کا نام
 اور ہر وظیفہ خواہ کی تفصیل درج تھی جس کے مطابق فوجیوں کو تنخواہ اور وظیفہ جولا
 کو ان کے وظیفے ملتے تھے اور کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہوتی تھی۔ یہ وفاق کا قیام
 مغیرہ بن شعبہ کی اپنی ایجاد تھی۔ اس سے پہلے عرب اس طریقہ سے ناواقف تھے
 جو اسر باقاعدگی اور اصول کے مطابق کام کرتا ہے۔ رعایا بالعموم اس
 سے خوش نہیں رہتی۔ یہی حال مغیرہ کا تھا۔ جب یہ بحرین کے گورنر تھے تو وہ
 کے لوگوں نے ان سے ناخوش ہو کر ان کے خلاف ایک عجیب و غریب سازش
 کی اور وہ یہ کہ اہل شہر سے چند جمع کر کے ایک لاکھ درہم ہتھیائے اور ان کو
 معزز شخص کے پاس رکھوا دیا۔ یہ شخص بھی سازش میں شریک تھا۔ جب یہ
 فراہم ہو چکی تو یہ شخص اسے لے کر مدینہ پہنچا۔ حضرت عمرؓ کی خدمت میں یہ رقم
 کر کے کہنے لگا کہ یہ رقم سرکاری خزانہ سے غبن کر کے گورنر مغیرہ بن شعبہ

میرے پاس امانت رکھوائی تھی جو آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں اور ساتھ ہی چند االیانِ شہر کو بھی وہ شخص اپنے ہمراہ لایا۔ جنہوں نے شہادت دی کہ واقعی یہ رقم خزانہ سے علیحدہ کر کے حضرت مغیرہؓ نے اس کے پاس رکھوائی تھی تاکہ ضرورت کے وقت واپس لے لے۔

واقعہ بڑا سنگین اور الزام نہایت اہم تھا۔ حضرت عمرؓ نے فوراً حضرت مغیرہؓ بن شعبہ کو طلب فرمایا۔ انہوں نے جب صورتِ معاملہ دیکھی تو اپنے حواس کو قائم رکھتے ہوئے (کیونکہ رت عمرؓ کے سامنے بیان دیتے ہوئے یا آپ کے سامنے بطور ملزم پیش ہونے پر بہت ہی مشکل تھا کہ کسی شخص کے حواس بجا رہیں) بیان دیا کہ جناب! واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس شخص کے پاس ایک لاکھ نہیں بلکہ دو لاکھ روپے رکھوائے تھے۔ ایک لاکھ یہ خود کھا گیا اور باقی ایک لاکھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ باقی کے ایک لاکھ بھی اس سے وصول کئے جائیں۔

اب تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا اور لگا ادھر ادھر بھلیں جھانکنے۔ مگر مفر کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور مہورا اُسے سازش کا سارا کچا چٹھایا صحیح صحیح بیان کرنا پڑا اور اپنے فریب کا نہایت عاجزی کے ساتھ اعتراف کر کے معافی مانگنی

پڑی۔ کیونکہ دوسری صورت میں اگرچہ مغیرہ کو سزا ہوتی مگر اس شخص کو لازماً
دو لاکھ دینے پڑتے۔

حضرت عمرؓ نے اس غیر مسلم شخص کو تو معاف کر دیا مگر حضرت مغیرہ
سے پوچھا کہ تم نے دو لاکھ کا کیوں استہرا کیا؟ انھوں نے عرض کی کہ
جناب اس تدبیر کے سوا ان لوگوں سے عہدہ برآ ہونے کی اور کوئی ترکیب
نہ لگتی۔ اگر میں اس شخص پر یہ الزام نہ لگاتا تو وہ میرے خلاف کبھی سازش
کا انکشاف نہ کرتا۔

اس واقعہ سے حضرت مغیرہؓ کی ہوشیاری و عقلمندی اور ذہانت
جو دتِ طبع کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ (مہاجرین حصہ دوم ص ۹۸)

بصرہ کی گورنری کے زمانہ میں اس سے بھی بہت زیادہ سنگین الزام
لوگوں نے ان پر لگایا اور ان کے خلاف بڑے شدید مد کے ساتھ درج
خلافت میں حاضر ہو کر گواہی دی۔ مگر تحقیقات پر یہ الزام بھی غلط ثابت
ہوا اور تین گواہوں کو جھوٹی گواہی دینے کی پاداش میں وردہؓ کی مار برداشت
کرنی پڑی۔ (تاریخ طبری مترجمہ مولانا عبداللہ العماوی ص ۱۶۷)

ایک مہلت یہ صحابی رسولؐ ہونے کی وجہ سے حضرت عمرؓ ان کا بہت

ظاکرتے تھے اور جب تک وہ زندہ رہے۔ یہ برابر ذمہ دارانہ عہدوں
 فائز رہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے شہید ہونے کے وقت یہ کوفہ کے گورنر
 تھے۔

جب دورِ ناروتی گذر گیا اور حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو آپ نے
 بعض مصلحتوں کی بنا پر معزول کر دیا۔ اس لئے حضرت عثمانؓ کے عہد میں
 میں ان کی زندگی کا زمانہ بہت خاموشی کے ساتھ گذرا۔
 لیکن جب حضرت عثمانؓ شہید ہوئے اور ان کی بجائے حضرت علیؓ
 کا انتخاب ہوا تو حضرت مغیرہؓ آپ کے بہت زبردست مددگاروں میں
 سے ہو گئے۔

حضرت علیؓ جب خلیفہ ہوئے تو وہ بہت ہی بد امنی اور بے اطمینانی
 کا زمانہ تھا۔ تمام عالم اسلام نے متفقہ اور متحدہ طور پر بلا کسی اختلاف کے
 آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمانؓ کی بے گناہ شہادت بہت
 سے قبائل کے لئے نہایت وجہ اشتعال کا باعث بن رہی تھی۔ وہ لوگ جو
 عثمانؓ میں شریک یا اس سازش میں شامل تھے۔ ملک میں اوجھڑا دھر پھیر کر بے
 فتنہ و فساد کی آگ کو ہوا دے رہے تھے تاکہ لوگ آپ کے جھگڑوں میں پھنسے

رہیں اور ان کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو سکے۔ حضرت معاویہؓ کو ملک شام میں سالہا سال
 سے حکومت کرتے ہوئے وہاں زبردست استحکام حاصل ہو چکا تھا اور وہ
 کسی قیمت پر بھی اس عظمت و شان سے علیحدہ ہونے کے لئے تیار نہ تھے۔
 ان حالات میں خلیفہ ہوتے ہی حضرت علیؓ نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت
 معاویہؓ کی معزولی کے احکام جاری فرما دیئے۔ یہ دیکھ کر حضرت مغیرہؓ بن شعبہ
 جو اس وقت تک حضرت علیؓ کے حقیقی ہی خواہ اور بھدر دوست تھے۔ ان کے پاس
 آئے اور کہنے لگے کہ ایسے پُراشوب اور پُرفتن ایام میں معاویہؓ کا عزل کسی
 طرح مناسب نہیں۔ کیونکہ شام میں ان کے قدم مضبوطی سے جمے ہوئے
 ہیں اور وہ آسانی سے اپنے عہدے سے ہٹنے والے نہیں۔ اگر آپ نے
 ان کی معزولی کا حکم جاری کیا اور جیسا کہ یقین ہے انہوں نے نہ مانا تو پھر
 فریقین میں لڑائی یقینی ہے اور ابھی آپ کی عسکری طاقت ایسی نہیں ہے کہ
 اس خطرہ کو مول لیں۔ اس لئے ابھی فوراً حضرت معاویہؓ کو چھ پرزانتوں
 مصلحت نہیں بلکہ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ طلحہؓ کو کوفہ کا اور زبیرؓ کو بصرہ
 کا گورنر بنا دیں۔ کیونکہ ان دونوں سے بھی مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے
 خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ ہاں جب تمام عالم اسلام پر پورا تسلط ہو جائے

اور ایران سے لے کر بحر اوقیانوس تک آپ کا مکمل قبضہ ہو جائے اور
مخالفت کا کوئی اثر کسی حصہ ملک میں باقی نہ رہے تو اُس وقت بے شک
آپ تینوں کو معزول کر دیں۔ کیونکہ اُس وقت اُن میں سے کوئی چوں نہیں
کر سکے گا۔ نہ کسی کی طاقت ہوگی کہ آپ کے حکم سے انحراف کر سکے۔

اس کے جواب میں حضرت علیؑ نے فرمایا کہ تمہارا مشورہ میں نے
سن لیا ہے اور تمہاری رائے بھی اس معاملہ میں معلوم ہوئی مگر میں نصیحت
کر چکا ہوں کہ محساد یہ کو ضرور ضرور معزول کر کے رہوں گا اور جب
تک وہ اپنی موجودہ روش پر قائم رہیں گے۔ اُس وقت تک نہ اُن کو کسی حصہ
ملک کا والی بناؤں گا۔ نہ اُن سے کسی قسم کی کوئی مدد لوں گا۔ طلحہ اور زبیر
کے متعلق تم نے جو مشورہ دیا ہے۔ اس کا بھی میں فوراً کوئی جواب نہیں دے
سکتا۔ سوچ کر جیسا مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ کوئی جلدی نہیں ہے۔“

(مجاہدین حصہ دوم بحوالہ استیعاب جلد ۱ ص ۲۵۹)

حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اپنی اصابت رائے پر بڑا فخر تھا۔ حضرت
علیؑ سے یہ جواب سن کر اُن کو بڑی مایوسی ہوئی اور وہ خاموشی کے ساتھ
اُن کے پاس سے چلے آئے۔

حضرت معاویہؓ میں موقع سے فائدہ اٹھانے کا خاص ملکہ قدرت نے
 ودیعت کیا تھا۔ جب انھوں نے یہ قصہ سنا تو فوراً خط لکھ کر بڑے اعزاز و
 اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ جب یہ گئے تو بڑی عزت و تکریم سے
 ان کے پیش آئے اور ان کی بڑی خاطر و مدارات کی۔ ان کی عقلندی۔
 دورانہنسی اور ذہانت کی نہایت تعریف کی اور کہا کہ آپ کا مشورہ بہت
 مناسب اور صحیح اور آبِ زر سے لکھنے اور پورے طور پر عمل کرنے کے قابل
 تھا مگر غسلی نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ آپ میری امداد فرمائیں تو
 میں ہمیشہ آپ کا ممنون احسان رہوں گا اور آپ کی امداد کا بہتر سے بہتر
 معاوضہ بھی پیش کروں گا۔

اس تقریر کا جو کچھ اثر ہو سکتا تھا وہ ہوا۔ یعنی حضرت مغیرہؓ نے
 حضرت معاویہؓ کی ہر امداد کا مخلصانہ وعدہ کر لیا اور اس وعدہ کو آخر تک
 نبایا۔

اس وقت سے لے کر اپنی وفات تک حضرت مغیرہؓ نے ہر موقع
 پر حضرت معاویہؓ کی مدد اور اعانت کرنے میں اور ان کو ہر خطرہ اور ہر
 مشکل سے بچانے میں کوشش اور سعی کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ حتیٰ قتی

سے قیمتی امداد حضرت مغیرہؓ، حضرت معاویہؓ کو پہنچا سکتے تھے۔ وہ انہوں
 نے پہنچائی اور بڑی بڑی اہم سیاسی گتھیاں اپنی عقل و تدبیر سے انہوں نے
 سلجھائیں۔ حضرت معاویہؓ کی زندگی میں متعدد مواقع ایسے آئے کہ اگر حضرت
 مغیرہؓ کی دُور بینی و ہوشیاری۔ فطانت و ذہانت اڑے نہ آتی تو بلاشبہ
 حضرت معاویہؓ سخت ترین مشکلات میں پھنس جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو
 سیاسی سوچ بوجھ ان کو عطا فرمائی تھی۔ وہ ساری کی ساری انہوں نے حضرت
 معاویہؓ کی امداد و اعانت اور ان کی ترقی و عروج میں خرچ کر دی۔ یہ بات
 بلاشائبہ شک کہی جاسکتی ہے کہ اگر مغیرہؓ کا وجود نہ ہوتا۔ یا وہ حضرت
 معاویہؓ کی امداد کے لئے کھڑے نہ ہو جاتے تو ہرگز حضرت معاویہؓ بطور
 خود اتنی بڑی سلطنت کے واحد مالک نہ بن سکتے۔ انہوں نے نہ صرف
 خود حضرت معاویہؓ کی ہر طرح سے مدد کی بلکہ دوسرے ذہین اور ہوشیار
 لوگوں کو بھی حضرت معاویہؓ کی امداد و اعانت پر آمادہ کیا۔ ایسے لوگوں
 میں سب سے نمایاں شخصیت زیاد بن ابیہ کی ہے۔ یہ شخص حضرت علیؓ
 کا نہایت و فادار اور ان کا زبردست معاون تھا۔ ساتھ ہی حضرت معاویہؓ
 کا شدید دشمن اور مخالف۔ ایسے شدید مخالف کو رام کرنا اور اس کو حضرت

معاویہؓ کے قدموں میں لاکر ڈال دینا حضرت مغیرہؓ ہی جیسے ماہر ریاست و اول
 انسان کا کام تھا۔ اس معاملہ میں حضرت معاویہؓ نے جتنی بھی کوششیں کیں
 سب ناکام ہوئیں مگر حضرت مغیرہؓ نے جا کر ایسی ہوشیاری کے ساتھ اس
 سے گفتگو کی کہ بالآخر اسے اپنے ہمراہ لے آئے اور اس کا سر حضرت
 معاویہؓ کے سامنے جھکا دیا۔ زیاد بہت ہی ہوشیار اور چالاک ریاستدان
 تھا اور اس کی عقلمندی کا تمام عرب میں شہرہ تھا۔ اس کے مل جانے سے
 حضرت معاویہؓ کو بڑی تقویت پہنچی۔ لیکن اس سحت ہم کو انجام تک پہنچانے
 کا ہرا حضرت مغیرہؓ کے سر ہے۔

جتنی بیش تر ارض خدیں حضرت مغیرہؓ نے حضرت معاویہؓ کی کیں اور
 جس قدر امداد ان کو اٹھوں نے وقتاً فوقتاً پہنچائی۔ ان سب میں یزید کی
 ولی عہدی کی تحریک نہایت نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تحریک خاص حضرت
 مغیرہؓ کے ہوشیار و مانع کی ایجاد تھی۔ اور اس کو اٹھوں نے کمال ہوشیاری
 کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ یہ تحریک ایسی عجیب و غریب اور ایسی حیران کن
 تھی کہ حضرت معاویہؓ کے از خود کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں آسکتی تھی اور
 جب شروع شروع میں یہ تجویز یزید کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے بھی بڑی

حیرت سے پوچھا کہ ”کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟“ غرض نہ باب کو نہ بیٹے کو اس کا وہم آسکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ منگیرہ ہی کا ہوشیار و مانع تھا جس نے یہ تجویز تخلیق کی اور پھر ہزار ہا مشکلات اور مواعظ کے باوجود اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ عملی جانا بھی پہنایا اور تمام دنیا سے اسلام دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ حضرت منگیرہ کے اس کارنامہ کی تفصیل یہ ہے :-

حضرت علیؑ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ مقرر ہوئے تھے مگر آپ نے مسلمانوں کو طویل خونریزی اور شر و فساد سے بچانے کے لئے نہایت درجہ ایشیا سے کام لے کر حضرت معاویہؓ سے صلح کر لی۔ جس کے بعد حضرت معاویہؓ تمام دنیا سے اسلام کے بلائزکت خیرے مالک بن گئے اور وہ اصل اسی دن سے صحیح طور پر ان کی بادشاہت اور سلطنت کا آغاز ہوا۔

تمام دنیا سے اسلام پر مکمل قبضے کے بعد انہوں نے ہر مقام پر اپنے بھروسے کے آدمیوں کو متعین کیا۔ اسی ضمن میں کوفہ جیسے اہم شہر کی ولایت حضرت منگیرہؓ جیسے ہوشمند اور جہاں دیدہ شخص کے

سپر وکی۔ جہاں انھوں نے نہایت عمدگی اور لیاقت کے ساتھ
حکومت کی۔

کوفہ کی گورنری کے دوران ہی میں اُن کو یزید کی ولی عہدی
اور جانشینی کا خیال پیدا ہوا۔ وہ اپنے اس عجیب و غریب خیال کو
لمبے ہوئے کوفہ سے دمشق آئے۔ یزید سے ملے اور اُس سے کہا
کہ قریباً تمام بڑے بڑے صحابہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ بزرگانِ قریش
میں سے بھی تمام نمایاں ہستیاں موت کے مُنہ میں جا چکی ہیں۔ اب
صحابہ کی اولادیں اور بزرگانِ قریش کے بیٹے باقی رہ گئے ہیں اور
تم اُن سب میں اپنی علمی فضیلت۔ اپنی نبی شرافت۔ اپنی ہوشمندی و
لیاقت۔ اپنے تدریب و سیاست اور اپنی عقل و فراست کے باعث
خاص حیثیت رکھتے ہو۔ اس صورت حال کے پیش نظر اگر حضرت
معاویہؓ لوگوں سے تمھاری ولی عہدی اور جانشینی کی بیعت لیں۔ تو
امید ہے کہ اُسندہ عظیم نقیوں کا سدِ باب ہو سکے گا اور دنیا سے اسلام
آئے دن کے فسادات سے بچ جائے گی۔

یہ نئی اور انوکھی بات ایک بزرگ صحابی کی زبان سے سن کر

یزید حیران رہ گیا اور اس نے بڑے ہی تعجب سے پوچھا: "کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟"

حضرت مغیرہؓ نے فرمایا: "نہ صرف ممکن بلکہ آسان۔ ذرا سی کوشش اس مقصد میں کامیاب کر سکتی ہے۔"

تجویز ایسی عجیب اور یزید کی اپنی حالت ایسی ناگفتہ بہ تھی کہ یزید کو اب بھی یقین نہ آیا کہ آیا اس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے یا واقعہ میں سنجیدگی کے ساتھ یہ تجویز اس کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تاہم اس نے اسی دن اس کا ذکر اپنے باپ سے کیا اور کہا کہ مغیرہؓ میرے پاس آئے تھے اور ایسا ایسا کہتے تھے۔

حضرت معاویہؓ کے دماغ میں بھی کبھی ایک لمحہ کے لئے یہ بات نہ آئی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بھی یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور قطعاً نہ سمجھے کہ اس زالی تجویز کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فوراً حضرت مغیرہؓ کو طلب فرمایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے یزید سے کیا کہا؟

حضرت مغیرہؓ نے فرمایا کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت جن المناک

حالات میں ہوئی۔ آپ کے بعد امت میں جو فسادات اور قتل و خونریزی ہوئی۔ اور دنیا سے اسلام کا امن جس طرح خطرہ میں پڑا۔ اور خلقِ خدا کا خون جس بیدردی سے بہا۔ اس سے آپ بخوبی واقف ہیں پس آئندہ کے لئے اس قتل و تباہی۔ فتنہ و فساد اور باہمی خانہ جنگی کو روکنے کی واحد شکل یہی ہے کہ آپ اپنے بعد یزید کی ولیعهدی کی بیعت لوگوں سے لے لیں۔ تاکہ ہر قسم کے فتنہ کا سر کچل دیا جائے اور کوئی شخص بعد میں سر نہ اٹھا سکے۔ اگر کوئی فتنہ پیدا بھی ہوا تو آسانی سے اس کا قلع قمع کیا جاسکے اور اس وقت یزید مسلمانوں کی پشت و پناہ بن سکے۔

خلافت کے اس وقت تک کے طرز اور تعامل کو دیکھتے ہوئے یہ تجویز اتنی عجیب و غریب تھی کہ حضرت معاویہؓ کے ہر شیار و باغ میں بھی اُس کی کامیابی کی کوئی شکل نظر نہ آئی۔ وہ سوچتے رہے اور سوچتے رہے مگر اُن کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ لائیکل عقیدہ کس طرح اور کس ترکیب سے حل ہو سکتا ہے؟

کچھ دیر کے بعد اُنھوں نے سراٹھایا اور حضرت مغیرہؓ سے کہا۔ کہ تجویز تو اچھی ہے مگر یہ بتاؤ کہ جمہور مسلمان اس تجویز کو تسلیم کس طرح کریں گے؟

اور کس طرح یزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیں گے۔ جبکہ اس سے پہلے کوئی مثال امت میں ایسی موجود نہیں کہ باپ نے اپنی موجودگی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کر دیا ہو؟

حضرت مغیرہؓ نے جواب دیا کہ جمہور مسلمین کی رضا مندی کے متعلق یہ عرض ہے کہ کوفہ کے لوگوں کو رضا مند کرنے کی ذمہ داری تو میں لیتا ہوں۔ بصرہ کا والی زیاد ہے۔ وہاں کی ذمہ داری وہ لے۔ مکہ اور مدینہ آپ ہو آئیں۔ مصر کی طرف سے بے فکر رہیں۔ وہاں کوئی شخص آپ کے حکم سے انحراف نہیں کرے گا۔ چلئے فیصلہ ہو۔

حضرت معاویہؓ کو اب بھی اس تجویز کی کامیابی میں شبہ تھا۔ انھوں نے بات ٹالنے کے طور پر کہدیا کہ ”اچھا آپ کوفہ جا کر یہ تحریک کریں اور نتائج سے مجھے مطلع کریں۔ اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ اس معاملہ کو کس طرح سے آگے چلایا جائے؟“

کوفہ واپس پہنچ کر حضرت مغیرہؓ نے اس حکیم پر نہایت تندہی سے عمل کرنا شروع کیا۔ انھوں نے شہر اور مضافات کے ان لوگوں کو جو بنی امیہ کے ہوا خواہ تھے اور کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ایک جگہ جمع کیا اور بیٹے

فصح و تبلیغ پر اسے میں اپنا مافی الضمیر ان سے بیان کیا اور کہا کہ آپ لوگ عوام کے اندر بڑے زور سے اس خیال کی اشاعت کریں اور عوام کو اپنا ہم خیال بنائیں مگر تبلیغ صرف زبانی ہو۔ کسی قسم کا جسیر یا زوری پر نہ کیا جائے۔ اگر کوئی مخالفت کرے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس سے قطعاً کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ تاکہ کوئی فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔

اس انتظام اور تبلیغ و اشاعت کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا اور کوفہ کے بہت زیادہ باشندے اس کے زیر اثر آ کر یزید کی ولی عہدی پر راضی ہو گئے۔ جنہوں نے مخالفت کی۔ چونکہ ان کو حسب ہدایت کچھ نہیں کہا گیا۔ لہذا وہ یہ سمجھ کر خاموش ہو گئے کہ ”ہمیں کیا۔ جس کا جو جی چاہے خیال کرے“ اور اس طرح مخالفت کی آگ بالکل سرد رہی۔ ورنہ موافقین و مخالفین کا تضاد مہلک تھا۔ جس کے نتیجہ میں تحریک کی قوت میں ضعف پیدا ہو جاتا۔ یہ بھی حضرت مغیرہؓ کی دانشمندی اور دوراندیشی کا ایک شاہکار تھا کہ ہلدی لگی نہ پھینکڑی اور رنگ چوکھا آیا۔

جب معقول تعداد اس خیال کی حامی کوفہ میں پیدا ہو گئی تو حضرت

مغیرہ نے اپنے بیٹے موسیٰ کی سرکردگی میں معززین کو فدہ کا ایک وفد تیار کیا جس نے دمشق جا کر حضرت معاویہ کے دربار میں تمام اہالیانِ کوفہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس تجویز کی تائید کی اور حضرت معاویہ سے کہا کہ بیزید بیشک اس لائق ہے کہ آپ اسے اپنا ولی عہد بنائیں۔ وہ اپنی دیانت اور قابلیت کے باعث پورے طور پر اس کا مستحق ہے کہ آپ کے بعد اس منصبِ علیل کے بار کو برداشت کر سکے۔

یہ موقع تھا جب پہلی مرتبہ حضرت معاویہ کو واقعی طور پر اس تجویز پر بخندگی سے غور کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ان کو اس وفد کی آمد سے امید کی ایک کرن اس خیال میں نظر آئی اور انہوں نے وفد سے کہا کہ آپ لوگوں کا مشورہ صائب اور نیک ہے۔ لیکن اس معاملہ میں جلد بازی مناسب نہیں۔ میں غور کروں گا اور اس کے بعد کوئی عملی قدم اس سلسلہ میں اٹھاؤں گا۔ آپ لوگ واپس جائیں اور اس کے متعلق میرے حکم کے منتظر رہیں۔

وفد کی واپسی کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے بہت بڑے زبردست مددگار زیاد بن ابیہ کو زبردست لکھنا شروع کیا اور وفد کے آئے کا سا حال بیان کیا اور تحریر کیا کہ تم

اپنی رائے اس معاملہ میں لکھو اور اہل بصرہ کو اس کی تائید کے لئے آمادہ کرو
 اس کے علاوہ مختلف ممالک کے والیوں اور گورنروں کو بھی خط لکھے
 گئے کہ ہر جگہ سے مقامی معززین کے وفد مسند زیر بحث کے متعلق
 اظہار خیال کے لئے دمشق آئیں تاکہ تمام عالم اسلام کی متفقہ رائے سے
 اس معاملہ کا فیصلہ کیا جائے۔

چنانچہ سب جگہ سے وفد آنے شروع ہوئے اور سب نے زید کی بیعت
 پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔

اس پر ہر جگہ حضرت معاویہؓ نے احکامات بھیج دیئے کہ زید کی ولایت
 پر لوگوں سے بیعت لی جائے۔ زمین پہلے ہی ہموار ہو چکی تھی۔ بیعت لینے میں
 کوئی خاص مزاحمت نہ ہوئی اور حضرت مغیرہؓ کی پیش کردہ تجویز نے عملی جام
 بہن لیا۔

حضرت امام حسینؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ
 عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر نے مخالفت کی مگر حضرت
 معاویہؓ نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔
 تاریخ الامت جلد سوم مؤلفہ مولانا اسلم جبر اچھری ص ۱۹۱، تاریخ طلت جلد

از قاضی زین العابدین ص ۳۴، سیر الصحابہ جلد ششم ص ۶۸)

حضرت مغیرہ کا ایک زبردست کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے گورزی کوفہ کے دوران میں خارجیوں کا بڑی بہادری اور حسن تدبیر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے لشکروں کو بار بار شکست دی اور نہایت شدت کے ساتھ ان کے فتنہ کو کچل کر رکھ دیا۔ چنانچہ ان کا سردار مستورد بن علقمہ جب میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس وقت کہیں جا کر ان کی مکمل طور پر سرکوبی ہو سکی۔ ورنہ اس سے پہلے انہوں نے حضرت مغیرہ کی زندگی دو بھر رکھی تھی۔ اور تمام علاقہ میں فتنہ و فساد کی آگ زور شور کے ساتھ بھڑکا رکھی۔ کیونکہ ان کو اسی میں مزا آتا تھا اور وہ قتل و غارت کو کارِ ثواب سمجھتے تھے۔

یہ واقعہ ہے کہ خوارج کی سرکوبی کر کے حضرت مغیرہ نے حضرت معاویہ کی سلطنت کو نہایت مضبوط اور مستحکم بنا دیا۔ ورنہ حضرت معاویہ بخت مشکلات میں گھرے رہتے۔

عام حالات میں حضرت مغیرہ نہایت نرم دل۔ نرم خو۔ نرم مزاج اور حلیم و بردبار انسان تھے جو نرمی کھلم کھلا بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا۔ اس کی توجہ ان کے دشمن تھے اور جب تک اسے تباہ نہ کر دیتے ان کو چین نہ آتا

تھا مگر ایسے کوئی شخص کچھ خیالات و عقائد رکھے۔ اس سے واسطہ نہ رکھتے تھے۔ لوگ اُن سے آکر کہتے کہ ”فلاں شخص خارجی عقیدہ رکھتا ہے۔“ فلاں شخص اہل بیت کا طرفدار ہے۔“ مگر یہ نہ ایسی شکایت پر کوئی توجہ دیتے نہ اس پر کوئی نوٹس لیتے اور یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے کہ ”اختلاف عقائد انسان کی فطرت میں داخل ہے اور خدا کی مصلحت یہی ہے کہ عقائد اور خیالات کا اختلاف باقی رہے۔ ان باتوں کا فیصلہ تو وہ احکم الحاکمین میدانِ حشر ہی میں فرمائے گا اور وہیں جا کر پتہ لگے گا کہ کون حق پر تھا؟“

حضرت مغیرہ عقیل و تدبیر اور فہم و ذکاوت میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے جس آسانی اور سہولت کے ساتھ وہ سیارت کے لائیل عقیدے اُٹاؤں کا حل کر لیا کرتے تھے۔ وہ بات اُن کے معاصرین میں سے کسی میں نہ تھی۔ اپنے اسی وصف کی بدولت وہ حضرت معاویہؓ کے سب سے زیادہ مقرب تھے اور حضرت معاویہؓ کوئی کام بھی اُن سے مشورہ لئے بغیر نہ کرتے تھے۔ اُن کا مشورہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ چاروں چار حضرت معاویہؓ کو اس پر عمل کرنا پڑتا تھا۔ عقل و فراست کے ساتھ طبیعت نہایت صلح جو واقع ہوئی تھی۔ جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا۔ صلح و راستی اور تدبیر و ترکیب کے مشکل کو آسان بنانے کی کوشش

کرتے تھے اور تلوار صرف اسی وقت اٹھاتے تھے جب اس کے بغیر کوئی چارڑ
 نہ ہوتا تھا۔ مگر بالطبع خوں ریزی سے اُن کو نصرت تھی۔ اکثر خود کہا کرتے تھے
 کہ ”میں اہل کوفہ کا خون بہا کر اُن کو سعید اور اپنے آپ کو شقی بنانا نہیں چاہتا
 میں امن پسند اور نیک لوگوں کو بہت اچھا بدلہ دوں گا۔ خاطرہوں اور گنہگاروں
 کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا۔ مقتول لوگوں کی تعریف و توصیف کروں گا
 اور نادانوں کو نصیحت و پند سے راہِ راست پر لانے کی کوشش کروں گا
 جب مرجاؤں گا تو دوسرے والیوں کے مقابلہ میں اہل کوفہ مجھے یاد کیا کریں گے“
 ان کے اس قول کی تصدیق حضرت امام شعبی ان الفاظ میں کرتے ہیں۔
 ”مغیرہ بن شعبہ کے بعد کوفہ میں اُن جیسا کوئی والی نہ آیا۔ وہ سلفِ صالح
 کا بقیہ تھے“ (تاریخ ملت جلد سوم صفحہ ۲۶)

عربی کے اسماء الرجال کی مؤثر کتابوں میں اُن کے فاضل مصنفوں نے
 حضرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اُن میں سے بعض
 یہ ہیں :-

”مغیرہ عقل و دانش۔ فہم و فراست اور تدبیر و سیاست کے لحاظ سے
 جزیرہ عرب کے نہایت نمایاں مدبرین میں سے ایک تھے۔ اپنے وقت میں

ان کا شمار ”وہاۃ عرب“ (عرب کے بہترین عقلاً) میں ہوتا تھا اور وہ اپنے
 غیر معمولی دل و دماغ اور ہوشیاری و دانائی کے باعث لوگوں میں مغیرۃ الراء
 کے معزز لقب سے مشہور تھے۔ (اصحابہ و استیعاب تذکرہ مغیرہ بن شعبہ)
 قبیلہ بن جابر کہتے ہیں کہ میں بہت دنوں تک مغیرہ کے ہمراہ رہا۔ وہ
 اس عقل و ہوش اور اس تدبیر و سیاست کے مالک تھے کہ مثلاً اگر کسی شہر کے
 آٹھ دروازے ہوں اور ان میں سے کسی ایک سے بھی بغیر خاص ہوشیاری اور
 فرزانگی کے گذرنا محال ہو تو مغیرہ اس قابلیت کے انسان تھے کہ وہ اس
 شہر کے آٹھوں دروازوں سے آسانی و اخل ہو سکتے تھے۔

(تہذیب التہذیب جلد ۱ ص ۲۱۱)

مغیرہ، اہم اور مشکل ترین معاملات کو آسانی اور سہولت سے سلجھانے
 میں حیرت انگیز قابلیت رکھتے تھے۔ جب وہ کسی معاملہ میں اپنی کوئی رائے
 پیش کرتے تو وہ ہمیشہ نہایت ٹھیک ہوتی تھی اور اسی رائے پر عمل کرنے
 سے وہ معاملہ درست بیٹھ سکتا تھا (مستدرک جلد ۳۔ تذکرہ مغیرہ)

مولوی شاہ معین الدین احمد ندوی نے اپنی کتاب ”ہماجرین“ کے
 حصہ دوم میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ”اگرچہ مغیرہ مذہبی علوم سے بیزار

نہ تھے (اُن سے حدیث کی کتابوں میں ۱۳۲ روایتیں منقول ہیں) لیکن
اُن کی عظمت و شوکت کا علم مسندِ علم و افتاء کی بجائے سیاست کی خارزما
وادویوں میں گڑا ہوا ہے۔ کیونکہ یہی اُن کے کمال کا حقیقی منظر تھا۔

(ماجرین جلد دوم ص ۱۹۷)

بیشمار میں کوفہ کے اندر نہایت شدت کے ساتھ طاعون کا
مرض پھیلا سکی وہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی وفات ہوئی اور حضرت
معاویہؓ کا زبردست معاون اور نہایت وفادار ساتھی موت کی ابدی
بند ہو گیا۔

زیادین ابیہ

زمانہ جاہلیت میں حضرت معاویہؓ کا باپ ابوسفیانؓ تجارت کے لئے
شام و فلسطین اور عراق و فارس کے ممالک میں جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ
ایسے ہی ایک سفر سے واپس آ رہا تھا کہ راستہ میں طائف کے مقام پر
ٹھہرا اور ایک مقامی شراب فروش ابو مریم السلوی کے ہاں قیام کیا۔
شب کے کھانے سے فراغت کے بعد اپنے میزبان سے ابوسفیان نے
کہا کہ رات گزارنے کے لئے میرے واسطے کسی عورت کا انتظام کرو۔
ابو مریم نے جواب دیا۔ اس وقت رات گئے کسی عورت کا تلاش کرنا

مشکل ہے۔ البتہ بنی عجلان کی لوندی سمیہ جو مسی کھلی اور بد شکل ہے۔ فوراً
اسکتی ہے۔“

ابوسفیان نے کہا: ”وہی سہی۔ جلدی لے آؤ۔“

چنانچہ ابو مریم گیا اور سمیہ کو ساتھ لے آیا۔

صبح جس وقت ابوسفیان روانہ ہونے لگا تو اس نے اپنے میزبان
سے کہا: ”ابو مریم! رات جب میں نے اپنی پشت کا پانی آہستہ نکال
دیا تو سمیہ کی آنکھوں میں میں نے لڑکے کے حمل کو محسوس کیا۔“

(تاریخ طبری مترجمہ مولانا عبداللہ العماوی ص ۲۵۵)

(یہ کہانی خود ابو مریم نے ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ کے سامنے بیان کی تھی)

۹ ماہ کے بعد حسب پیشگوئی ابوسفیان سمیہ کے لڑکا پیدا ہوا جس کا

نام زیاد رکھا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابوسفیان نے جاہلیت کے

طریق پر سمیہ سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سمیہ حرث بن کلابہ ثقفی کی

لوندی بھتی حرث کے صلب سے سمیہ کے دو لڑکے پیدا ہوئے جن کے

نام ابو بکرہ اور نفع تھے۔ اس کے بعد ابوسفیان نے سمیہ سے زیادہ جاہلیت

کے طریقے پر عقد کر لیا جس سے زیادہ پیدا ہوا۔ (تاریخ نعت جلد سوم ص ۱۲)

سبیل و نہار پلٹتے رہے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ زمانہ
دوسرے رنگ پر آ گیا۔ سرب کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نور کی شعاع
پھوٹی اور ع

کیا چاند نے کھیت غار سے

تاریکی کے فرزند چاروں طرف سے دوڑے کہ اس نور کو اپنے
منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اُن میں سب سے پیش پیش ابوسفیان تھا۔
اکیس سال تک لگاتار اس چاند پر خاک پھینکنے کے بعد بھی جب
نیچوٹھ صفر رہا اور چاند کی روشنی دن بدن بڑھتی ہی گئی تو ابوسفیان با یوں
ہو گیا اور سخت ناچار اور مصمممل ہو کر مجبوراً اپنے آپ کو اسلام کی آغوش میں
ڈال دیا۔

ابوسفیان کے جرائم کی ساری تفصیل رحمۃ اللعالمین کے سامنے تھی۔
اور وہ اور اس کی بیوی دونوں بلاشبہ اپنے اعمال کی پاداش میں لائق دار اور
قابل کشتی و گردن زدنی تھے مگر محیر العقول اخلاق کا حیرت انگیز مظاہرہ
کرتے ہوئے سردارِ دو عالم نے اُسے معاف فرما دیا اور حضرت عمرؓ کے
اصرار کے باوجود ابوسفیان کی جان بخشی ہو گئی۔ کاش! میدانِ کربلا میں

اس احسانِ عظیم کا احترام کرتے ہوئے جو مرد و نپید یزید کے دادا پر مظهر و پاک
 حسینؑ کے نانا نے کیا تھا۔ یزید امام معصومؑ کے ساتھ رفت و مدارات اور
 حسن سلوک سے پیش آتا تو قیامت تک کے لئے لعنت و پھٹکار کا طوق
 اس کے گلے میں نہ پڑتا۔

زیاد اور ابوسفیان کا تعلق نہ پاک میں مشہور تھا اور نہ لوگوں کو عام طور پر
 اس کا پتہ تھا جب زیاد جوان ہو گیا تو زیاد بن ابیہ کے نام سے پکارا جانے
 لگا۔ یعنی زیاد اپنے باپ کا بیٹا۔

دور نبوی اور عہدِ صدیقی گذر جانے کے بعد جب فاروق اعظم کا زمانہ
 آیا تو زیاد جوان تھا۔ عہدِ فاروقی فتوحات کا دور تھا۔ ملک پر ملک اور علاقے
 پر علاقے برابر فتح ہو رہے تھے۔ روزمرہ حضرت عمرؓ انتظار کرتے تھے کہ
 آج کس شہر کے فتح ہونے کی خبر آتی ہے۔ زیاد چاق و چوبند۔ نومند و مضبوط
 اور بہادر تھا۔ یہی فتوحات کے شوق میں اسلامی فوجوں کے ساتھ باہر چلا
 گیا۔ جب قادسیہ فتح ہوا تو سپہ سالار نے زیاد کے ہاتھ حضرت عمرؓ
 کی خدمت میں فتح کی خوش خبری بھیجی۔

زیاد نے ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ خوش خبری مدینہ آ کر

حضرت عمرؓ کو سنائی کہ آپؓ خوش ہو گئے اور فرمایا کیا تم مجمع عام میں بھی
 ایسی ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ خوش خبری لوگوں کو سناسکتے ہو؟
 زیاد نے کہا: ”آپ جیسا عرب کس کا ہو سکتا ہے؟ جب میں نے
 آپ کے سامنے گفتگو کی تو لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے مجھے کیا تامل
 ہو سکتا ہے؟“

اس پر حضرت عمرؓ نے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم دیا اور
 زیاد نے ان کے سامنے ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ تقریر کی کہ
 سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمرو بن العاص نے اس کی طلاق لسانی
 کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر اس غلام کا باپ قریش میں سے کوئی فرد ہوتا تو
 یہ ایسی لیاقت کا مالک ہے کہ سارے عرب کو اپنی لالٹھی سے ہنکا سکتا تھا۔
 ابوسفیان بھی مجمع میں موجود تھا۔ یہ سن کر سینا اور کہنے لگا: ”کیا پتہ ہے
 ایسا ہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اس کا باپ کون ہے؟“

اگرچہ یہ بات کھل کر نہیں کہی گئی مگر تارٹنے والے تارٹ گئے اور
 سمجھنے والے سمجھ گئے کہ ابوسفیان نے کیا کہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟
 عمر کے ساتھ ساتھ زیاد کا بڑا بہ عقل اور فراست بھی روز بروز بڑھتا

رہی۔ آخر ایک دن آیا جبکہ زیاد عرب کے نامور عقلا میں شمار ہونے لگا۔
 حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانے میں تو زیاد کو کوئی عہدہ یا
 نمایاں اعزاز نہیں ملا۔ لیکن جب حضرت علیؓ عالم اسلام کے خلیفہ منتخب
 ہوئے تو آپ نے زیاد کی جودتِ طبع اور فرزانگی و ہوشیاری کو دیکھتے ہوئے
 اُسے بصرہ کا گورنر مقرر فرما دیا۔ اس خدمت کو اس نے بڑی لیاقت اور
 قابلیت کے ساتھ انجام دیا اور حضرت علیؓ کو اس سے کبھی کوئی شکایت پیدا
 نہیں ہوئی۔ نہج البلاغہ میں جو حضرت علیؓ کے خطبات اور فرامین کا ضخیم مجموعہ
 ہے۔ زیاد کے نام بھی متعدد خطوط میں۔ چنانچہ بصرہ کی گورنری کا فرمان
 بھیجتے ہوئے حضرت علیؓ نے اُسے خط لکھا کہ **وَإِنِ اتَّعَبْنَا لَكَ**
قَسْمًا صَادِقًا لَسْنَا بِلُغْنِي إِنْكَ خَنْتَ مِنْ فِي الْمُسْلِمِينَ
شَيْئًا صَغِيرًا وَكَبِيرًا لَا شَدَنَ عَلَيْكَ شِدَّةَ تَدْعُكَ
قَلِيلَ الْوَفْرِ تَعْيِدَ الظَّهْرَ ضَيْلَ الْأَمْرِ وَالسَّلَامِ (یعنی)
 اگر میں مسلمانوں کے مال میں تیری ذرا سی بھی خیانت سن لوں گا تو تیرے ساتھ
 ایسی سختی اور ورستی سے پیش آؤں گا کہ تو بدحواس ہو جائے گا اور تیری کمر
 دوپہری ہو جائے گی اور تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ (نہج البلاغہ جلد دوم ص ۵۴)

جب زیادہ نے بصرہ میں اپنے مفوضہ فرائض کو اطمینان بخش طریقہ پر انجام دیا اور وہاں کی رعایا بھی اس سے خوش رہی اور اس عرصہ میں اس کی کوئی شکایت آپ کے پاس نہیں پہنچی تو پھر آپ نے اسے ولایت فارس کا عامل مقرر فرمایا۔ حضرت علیؑ کی شہادت کے وقت اور اس کے بعد تک یہ فارس ہی کا گورنر رہا۔

حضرت علیؑ کے تمام زمانہ خلافت میں زیادہ اہل بیعت کا بہت زبردست طرقدار رہا اور خاص الخاص شیعانِ علیؑ میں سے شمار ہوتا تھا اور حضرت معاویہؓ اور بنی امیہ کو علیؑ اعلانِ نہایت برا بھلا کرتا رہتا تھا۔

زیادہ کی ہوشیاری و چالاکی کو دیکھ کر حضرت معاویہؓ کو خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ شخص مجھ سے آکر مل جائے تو مجھے بہت بڑی مدد مل سکتی ہے اور یہ شخص میرے لئے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

یہ سوچ کر حضرت معاویہؓ نے زیادہ کو ایک لمبا چوڑا خط بھیجا جس میں لکھا کہ میرے باپ نے تمہیں اپنا بیٹا تسلیم کیا تھا۔ لہذا تم میرے بھائی ہو۔ اس صورت میں تمہیں لازم ہے کہ علیؑ کا ساتھ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔

میں تمھارے اعزاز و اکرام میں کسی طرح کی کمی نہیں کروں گا اور تم یہاں نسبتاً زیادہ خوش و خرم اور آرام سے رہو گے۔ پس بلا پس و پیش فوراً چلے آؤ۔“

جب اس خط کی اطلاع حضرت علیؑ کو ہوئی تو آپ نے بھی زیادہ کو ایک خط تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا :-

”معلوم ہوا ہے کہ معاویہ نے تم سے خط و کتابت شروع کی ہے تاکہ تمھاری عقل ماروے اور تمھاری انتقامت میں فرق ڈال دے میں تمھیں بڑے زور سے خبردار کرتا ہوں کہ معاویہ سے بہت ہوشیار رہنا وہ ایسا شیطان ہے جو یمن پر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، غرض ہر طرف سے وار کرتا ہے تاکہ جدھر سے بھی اُسے موقع مل جائے۔ ادھر ہی سے گھس کر اپنا عمل دخل کر لے۔“

عمر بن خطاب کے زمانے میں ابوسفیان کے منہ سے یونہی ایک بات اتفاقاً طور پر نکل گئی تھی۔ جس کی حقیقت و سورہ شیطانی سے زیادہ نہ ملتی۔ پھر اس سے نہ تو کوئی نسب اور رشتہ کا تعلق ثابت ہوتا ہے

اور نہ ہی وراثت کا حق اُس سے قائم ہوتا ہے۔ ابوسفیان کے اُس
بے سرو پا قول سے دلیل پکڑنے والا گویا ہوا کو پکڑنے والا ہے۔

(منہج البلاغہ جلد دوم ص ۱۸۱)

حضرت علیؓ کا یہ خط پڑھ کر زیاد نے خوشی کا ایک نعرہ مارا اور
کہنے لگا۔ شہد بھاوردت العجبتہ "رب کعبہ کی قسم، گویا
وے وی" (مطلب یہ ہے۔ گویا حضرت علیؓ نے زیاد کے متعلق
ابوسفیان کا بیٹا ہونے کی تصدیق کر دی)۔

زیاد کی خود بھی اس امر کی بڑی زبردست خواہش تھی کہ وہ عوام
و خواص میں زیاد بن ابیہ یا زیاد بن سمیہ جیسے مکروہ ناموں سے پکارا
جانے کی بجائے زیاد بن ابی سفیان کے نام سے مشہور ہو۔ چنانچہ ایک
مرتبہ اُس نے اسی شوق میں اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک خط
لکھا جس کو اس طرح شروع کیا۔

الحی زیاد بن ابی سفیان (زیاد بن ابی سفیان کی طرف سے)

اس سے زیاد کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عائشہ بھی مجھے اپنے جواب

میں اسی نام سے مخاطب کریں گی اور یہ میرے لئے ابی سفیان کے

بیٹا ہونے کی ایک سند ہو جائے گی۔ مگر حضرت عائشہؓ نہایت
بالغ نظر خاتون تھیں۔ وہ بھلا اُس کی چال میں کس طرح آسکتی تھیں۔
انہوں نے جواب میں لکھا :-

”مسلمانوں کی ماں عائشہؓ کی طرف سے زیاد بیٹے کے نام“
زیاد یہ جواب پا کر اپنا سامنے لے کر رہ رہا۔

(تاریخ ابن ابی عمیر جلد ۳ - صفحہ ۱۷۷)

جب حضرت علیؓ کا انتقال ہو گیا اور حضرت امام حسنؓ سربراہ
خلافت ہوئے۔ اُس وقت حضرت معاویہؓ نے دوبارہ زیاد کو اپنی
طرف بلانے کی کوشش کی اور اُسے پھر ایک نصیحتوں بھرا خط لکھا اور
ساتھ ہی کچھ دھمکی بھی دی کہ اگر میرا کہنا نہیں مانو گے تو پھٹاؤ گے اور
نقصان اٹھاؤ گے۔

زیاد اُس وقت تک خوب اہل بیت کے نشہ میں سرشار تھا۔
خط پڑھ کر اُسے نہایت غصہ آیا۔ فوراً لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا
حکم جاری کیا اور منبر پر چڑھ کر بڑے غیظ و غضب سے کہا :-
”جگہ خوار کے بیٹے۔ نفاق کے علم بردار اور شرارت و فساد

کے بانی معاویہ بن ابی سفیان کا خط آیا ہے۔ جس میں اُس نے
 مجھے لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار کا ساتھ چھوڑ کر اُس کے ساتھ مل
 جاؤں۔ اُس نے مجھے اپنے خط میں ڈراوے اور دھمکاوے بھی دیے
 ہیں۔ میں اہل بیت کا ساتھ کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور طریقِ صواب
 ترک کر کے راہِ ضلالت کس طرح اختیار کر سکتا ہوں۔ اس نے
 اپنے خط میں مجھے دھمکی دی ہے مگر میں اُس کی کیا پرواہ کرتا ہوں
 جبکہ دخترِ رسول فاطمہ الزہراء کے دو حلیل القدر فرزند میری امداد و اعانت
 پر تیار ہیں اور اُن کا نوٹے ہزار لشکرِ خارا شکاف تلواروں کے قبضوں
 پر ہاتھ رکھے حکم کا منتظر کھڑا ہے۔ اگر وہ جگرِ خوار کا بچہ مجھ تک پہنچ جائے
 تو وہ مجھے ایک بہادرِ صفت شکن اور بے نظیر شمشیر زن پائے گا۔ میدانِ
 جنگ میں اگر معاویہ ہزار جا نہیں لے کر آئے گا تو ایک بھی واپس نہیں
 لے جائے گا۔ (تاریخ طبری منزجہ مولانا عبداللہ العبادی ص ۵۳)

حضرت معاویہ ہیں ایک بہت بڑا وصف یہ تھا کہ وہ نہایت
 درجہِ حلیم الطبع اور متحمل المزاج انسان تھے۔ سخت سے سخت اشتعال
 اُن کو غصہ نہ آتا تھا۔ اس عادت کی بدولت اُن کا سخت بدگو دشمن

آن کا مطیع اور فرمانبردار بن جاتا تھا۔

زیادہ کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ نے یہی کیا۔ اُس کے سب دشمن اور سخت الفاظ کی قطعاً پرواہ نہ کی اور اپنی کوشش جاری رکھی۔ لیکن جب تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور زیادہ حجت اہل بیت کے مسلک سے نہ ہٹا تو آخر حضرت معاویہ نے بساط ریاست کے بیروں حضرت مغیرہ بن شعبہ کو زیادہ پر مسلط کیا۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ حضرت امام حسن نے مسلمانوں کو مزید تھوڑی بیڑی سے بچانے کے لئے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تھی اور تمام دنیا نے اسلام حضرت معاویہ کے ماتحت ہو گئی تھی۔ مگر یہ دیکھتے ہوئے بھی زیادہ نے حضرت معاویہ کے سامنے سر نہ جھکایا تھا اور بدستور فارس پر بڑے زور سے حکومت کر رہا تھا۔

ادھر حضرت معاویہ کی پالیسی بھی بڑی عجیب و غریب تھی۔ یعنی یہ بات اچھی طرح اور بخوبی جانتے ہوئے کہ زیادہ زبردست شیعیاں علیؑ میں سے ہے اور برابر وہ انہیں برا بھلا بھی کہتا رہتا تھا اور بنی امیہ کا کاسخت دشمن بھی تھا۔ مگر ساری سلطنت اپنے قبضہ میں آجانے کے بعد

بھی انھوں نے اپنے ایسے دشمن اور مخالفت کو فارس کی گورنری سے معزول نہیں کیا۔

اس بات کی اہمیت اُس وقت اور بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلوک حضرت معاویہ نے زیاد کے ساتھ اُس وقت کیا جب حضرت معاویہ کی تمام مخالفت قریباً ختم ہو چکی تھی اور کوئی دعویدار سلطنت باقی نہ رہا تھا اور اس حالت میں زیاد کی چنداں ضرورت اُن کو نہ رہی تھی۔

آمد مبرہر مطلب! جب حضرت معاویہ کے بھجے ہوئے حضرت میغیرہ بن شعبہ فارس میں زیاد کے پاس پہنچے تو انھوں نے اپنی مسئلہ لیا اور سحر کارانہ گفتگو سے زیاد کو ایسا شیشے میں اتارا کہ حُب اہل بیت کا سارا نشہ زیاد کے سر سے اتر گیا اور وہ حضرت میغیرہ کے ساتھ حضرت معاویہ کے دربار میں دمشق حاضر ہو گیا۔

حضرت معاویہ اُس سے اپنی روایتی عادت کے مطابق تہنیت چپاک سے پیش آئے۔ اُسے اٹھ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور بڑی ہی شفقت و نرمی کا برتاؤ اُس سے کیا۔ فارس کے خراج کا جو حساب اُس

نے پیش کیا۔ فوراً بلا تامل اور بغیر حیل و حجت اس کی تصدیق کر دی۔
 شروع شروع میں تو زیادہ کی اور ان تمام لوگوں کی جو پہلے شیعین
 علیؑ میں سے تھے اور پھر کٹ کر حضرت معاویہ سے آئے تھے بہت
 نگرانی رہی جیسے حجر بن عدی۔ سلیمان بن مرو۔ شہید بن ربیع۔ ابن الکوا
 وغیرہ۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ پابندیاں ختم ہو گئیں اور زیادہ کونسلوں
 مقیم رہ کر بڑے عیش سے اپنی زندگی گزارنے لگا۔

اس کے کچھ عرصہ بعد ۳۵ھ میں حضرت معاویہؓ نے زیاد کو بصرہ
 کی گورنری تفویض کی۔ کیونکہ وہاں کی حالت بڑی ابتر ہو گئی تھی اور باشندوں
 نے بڑی سرکشی اور تمرد اختیار کیا تھا۔ لوٹ مار اور قتل و غارت کی آوازیں
 عام ہو گئی تھیں۔ کسی شخص کی جان و مال کو امن نہ رہا تھا۔ غریبوں اور
 بیواؤں پر کھلے دھڑلے ظلم ہوتے تھے اور ان کا کوئی بدوا نہ ہو سکتا
 تھا۔ غرض بصرہ کے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔

زیاد نے وہاں پہنچ کر ان تمام ظلموں۔ زیادتیوں۔ لوٹ مار اور
 بدامنی کا ایسی سختی اور شدت سے انساؤ کیا کہ تمام بد معاش اور فتنہ پرا
 اور ظالم اور بد طبیعت لوگ چلا آٹھے مگر اس نے ان کو اس وقت تک

نہ چھوڑا۔ جب تک شہر میں کامل طور پر امن امان نہ ہو گیا۔ لوگ کھلے کوٹھڑوں
 سونے لگے اور چوری اور لوٹ مار کی وارداتیں بالکل موقوف ہو گئیں۔
 خارجیوں کا فتنہ اس وقت بڑے زوروں پر تھا۔ ان کے زور
 کو توڑنے اور ان کی طاقت کو مٹانے کی بھی زیادہ پوری کوشش کی
 مگر اس معاملہ میں اس کا خاص اصول یہ تھا کہ یہ صرف اس شخص کے مقابلہ
 پر آتا تھا جو تلوار لے کر علی الاعلان میدان میں آجائے۔ ویسے زبانی خواہ
 کوئی شخص بنی امیہ اور حضرت معاویہؓ کو برا بھلا کہتا۔ یہ پرواہ نہ کرتا۔ نہ اسے
 سزائش کرتا اور نہ روکتا۔ حکومت کے خلاف جن خفیہ سازشوں کی اطلاع
 اسے ملتی ان پر بھی چنداں توجہ نہ دیتا اور بالعموم ورگزر کرتا۔

مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ظالم۔ خونخوار۔ بے رحم بھی پرلے نہ رہے
 کا تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ رات کو عشاء کے بعد جو شخص شہر میں چلتا
 پھرنا نظر آئے گا۔ قتل کر ڈالا جائے گا۔ ایک غریب چرواہا جسے اس حکم کا پتہ
 نہ تھا۔ رات کو شہر میں چلا آیا۔ اسے بھی یہ جانتے ہوئے کہ یہ اپنے بیان میں
 سچا ہے۔ زیادہ قتل کروا ڈالا۔

حضرت معینہ بن شعبہ گورنر کوفہ کے انتقال کے بعد زیاد کو حضرت معاویہؓ

نے کوفہ کی ولایت بھی سپرد کر دی تھی۔ جس پر یہ چھ مہینے بصرہ میں رہے
 لگا اور چھ مہینے کوفہ میں۔ گورنر ہو کر جب پہلی مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں
 نماز پڑھنے گیا تو بعض شرارت پسند لوگوں نے اس پر کنکریاں پھینکیں۔
 جس پر مشتعل ہو کر اس نے ان کے ہاتھ کٹوا دیئے۔

حجر بن عدی کوفہ کے نہایت بااثر اور نیک نفس شخص کو اسی زباً
 کی رپورٹ اور سفارش پر حضرت معاویہ نے گرفتار کر کے قتل
 کرایا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ حضرت علیؑ کا زبردست حامی اور
 ان کا بہت بڑا معاون اور مددگار تھا۔

جب زیاد نے اس شخص کو گرفتار کر کے کوفہ سے دمشق
 روانہ کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کو مدینہ میں اس کی اطلاع ہوئی۔
 تو انہوں نے فوراً ایک خاص قاصد حضرت معاویہؓ کے پاس یہ حکم
 دے کر بھیجا کہ ”حجر بن عدی کو فی الفور رہا کر دیا جائے اور اس سے
 کوئی تعرض نہ کیا جائے“ مگر حضرت عائشہؓ کے قاصد عبدالرحمن بن
 عارت کے دمشق پہنچنے سے پہلے حجر بن عدی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر
 بڑی سختی کے ساتھ عبدالرحمن نے کہا ”معاویہ! حجر کے قتل کا حکم دیتے

ہوئے تھاری روایتی بردباری اور تحمل کہاں چلا گیا تھا؟ اور تم سے یہ فعل
 کیونکر سرزد ہوا؟ حضرت معاویہؓ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے
 جواب دیا: "عبدالرحمن! جب تم جیسے بردبار لوگ مجھ سے علیحدہ ہیں
 تو اس حالت میں مجھے خونخوار ابن سمیہ کی سر بات ماننی ہی پڑے گی"
 بعد میں خود حاضر ہو کر حضرت عائشہؓ سے بھی معذرت کی اور کہا کہ "مجھے
 کوئی سمجھ دار مشیر پیش نہ آیا۔ اس وجہ سے مجھ سے یہ حرکت سرزد ہوئی۔
 اگر آپ کا حکم مجھے پہلے مل جاتا تو میں اُسے ہرگز قتل نہ کرتا"
 (ابن اثیر جلد ۳ صفحہ ۱۸۶)

بصرہ اور کوفہ کا جیسا زیادہ نے اعلیٰ درجہ کا انتظام کیا اور پھر
 جس سختی و شدت کے ساتھ خوارج کے عظیم فتنہ کو مٹانے کی جدوجہد
 کی۔ اُسے دیکھتے ہوئے اور زیادہ کی انتظامی قابلیت سے متاثر ہو کر
 حضرت معاویہؓ زیادہ کو بہت زیادہ عزت و رخصت لگے۔ اپنا بھائی نواسیوں
 نے اسے پہلے ہی تسلیم کر لیا تھا۔ زیاد کی قابلیت ہی کا نتیجہ تھا کہ جو اقتدار
 اُس کو حضرت معاویہؓ کے دربار میں حاصل تھا۔ وہ کسی اور کو نہ تھا اور
 جس توجہ کے ساتھ حضرت معاویہؓ زیاد کی بات اور مشورہ کو سنتے اور

اُس پر عمل کرتے تھے۔ اتنی توجہ کسی اور کی بات پر نہیں دیتے تھے۔
 انتہا یہ ہے کہ جب حضرت معاویہؓ نے زیاد کو لکھا کہ یزید کی ولی عہدی
 کے لئے بصری کے لوگوں کو ہموار کرو اور اس معاملہ میں پوری کوشش
 کرو تو اگرچہ زیاد حضرت معاویہ کے نہایت زبردست طرفداروں میں
 شمار ہوتا تھا۔ مگر اس موقع پر اس نے حیرت انگیز جرأت کا اظہار کیا۔
 اُس نے ایک طرف تو عبید بن کعب کے ہاتھ حضرت معاویہ کو خط بھیجا
 کہ "آپ کا فرمان بلا۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ جس وقت میں یہاں کے
 لوگوں سے یزید کی ولی عہدی کے لئے کہوں گا تو وہ مجھ سے نہ کہیں گے
 کہ تم ہم سے ایسے شخص کے لئے بیعت لینا چاہتے ہو جو کتوں اور
 بندروں سے کھیلتا ہے۔ رنگین اور خلاف شرع لباس پہنتا ہے۔ باجے
 اور ساز اُس کی مجلسوں میں بجاتے ہیں اور وہ ہر وقت سیر و شکار میں مصروف
 رہتا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے حسین بن علیؓ، عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ
 بن زبیر اور عبداللہ بن عمرؓ کی ہستیاں موجود ہیں۔ ان کے مقابلہ میں وہ
 یزید کو کس طرح قبول کر لیں گے۔ اس کی آسان ترکیب یہی ہے۔ کہ
 آپ یزید پر زور ڈالیں کہ وہ اپنی ساری بڑی عادتیں اور قبیح حرکات

ترک کر دے اور نیک اور صالح انسان بن جائے۔ اس وقت شاید
 یہ صورت ممکن ہو۔ موجودہ حالات میں ہرگز اس امر کی تحریک مناسب
 نہیں۔ یہ رعایا پر حکومت کا معاملہ اور بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے
 اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کام میں جلدی نہ کریں۔“

دوسری طرف زیادہ نے یزید کو خط لکھا کہ تمہارے باپ نے
 مجھے تمہاری ولی عہدی کی بابت اہل شہر کو تحریک کرنے کے لئے لکھا
 ہے۔ مگر جب تک تم اپنی عادتیں اور اطوار ٹھیک نہ کر لو۔ اس وقت
 تک میرے لئے تمہارے واسطے یہاں کوئی تحریک کرنا ناممکن ہے
 پس میں محققین بڑے زور سے تمہاری اصلاح کی طرف توجہ دلاتا
 ہوں۔“ (تاریخ طبری مترجمہ مولانا عبدالعزیز ص ۲۵۵۔ تاریخ

ملت، جلد سوم ص ۳۵)

اگر پچ پوچھو تو یہ آسان کام نہ تھا۔ جو زیادہ بڑی دلیری کے ساتھ
 کر گزرا۔ حضرت معاویہ کی کھلی ہوئی مخالفت اور یزید کی دشمنی مول لینے
 میں سراسر زیادہ کا ذاتی نقصان تھا مگر بعض مرتبہ اونے اور معمولی لوگ
 بھی حق اور صداقت پر بڑی بے خوفی سے جم جایا کرتے ہیں اور انہیں

سچی بات کہنے سے کوئی خوف اور ڈر روک نہیں سکتا۔

لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زیادہ کا حضرت معاویہ اور خود
یزید پر اتنا اثر تھا کہ یزید نے زیاد کی نصیحت قبول کرتے ہوئے حضور
بہت اپنی اصلاح کر لی اور خود ٹھوڑے دنوں کے لئے مگر بہر حال
اپنی بعض عادات ترک کر دیں مگر حضرت معاویہ زیاد کا یہ خط پا کر
بالکل خاموش ہو گئے اور جب تک زیاد زندہ رہا۔ انھوں نے
یزید کی ولی عہدی کے معاملہ کو التوا میں ڈالے رکھا۔

اس ایک واقعہ سے پتہ لگتا ہے کہ زیاد کی شخصیت حضرت
معاویہ کے دل میں کتنی اہم تھی اور وہ اس کی رائے اور مشورہ کو
کتنی وقعت دیتے تھے۔

۵۳؎ زیاد کا سنہ وفات ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس
۶۶۳ء
نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ میں نے تمام عراق کو اپنے بائیں ہاتھ
کی گرفت میں نہایت مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ میرا داینا ہاتھ خالی ہے
اس دایں ہاتھ میں آپ جواز دے کر اسے بھی مشغول کر دیجئے۔ مطلب
یہ تھا کہ بصرہ اور کوفہ کی حکومت کے ساتھ مجھے مدینہ اور مکہ کی ولایت

بھی دے دیجئے۔ حضرت معاویہؓ زیاد کی خوشی کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے۔ انھوں نے اُس کی خواہش اور درخواست کے مطابق اُس کے لئے حجاز کی گورنری کا حکم بھی دے دیا۔

جب حجاز والوں کو اس حادثہ کا پتہ لگا تو وہ اُس ظلم و ستم کا خیال کر کے کانپنے لگے جس کی حکایتیں وہ عراق والوں سے سنتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ ایک وفد کی صورت میں فاروق اعظمؓ کے گرامی قندوزند حضرت عبداللہؓ کے پاس آئے اور ان سے عرض کی کہ حضرت جو مصیبت عظمیٰ ہم اہل حجاز پر آنے والی ہے۔ اُس کی اطلاع آپ کو بھی ہو گئی ہوگی۔ زیاد کا یہاں آنا عذابِ الہی کے آنے سے کم نہیں۔ خدا کے لئے اس آفت سے چھڑکارے کی کوئی سبیل نکالئے۔ آپ مقبول بارگاہِ الہی ہیں۔ خداوند کریم کے حضور میں التجا کیجئے کہ یہ بلا دور ہی دور رہے۔ اور ہم پر مسلط نہ ہو۔

الایمان حجاز کی اس التجا پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کھڑے ہوئے اور نہایت عاجزی اور خشوعیت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر درگاہِ رب العزت میں دعا مانگی کہ ”بارِ الہا! زیاد کے شر سے ہم اہل حجاز کو اپنی پناہ

میں رکھ اور اس کو ہم عاجز اور مسکین بندوں پر علیہ اور قوت عطا نہ فرما۔
 ابھی زیادہ کوفہ سے بعزم حجاز روانہ نہ ہوا تھا کہ حضرت ابن عمر کی
 دعا خدا تک پہنچ گئی۔ کوفہ ہی میں زیادہ کی واپس بنگل میں طاعون کی گھٹی
 نمودار ہوئی۔ ہر چند علاج کئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور تڑپ تڑپ کر
 دو تین دن میں ٹھنڈا ہو گیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر کو جب مرگ زیادہ کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا
 ”افسوس ابن سمیہ! نہ تو نے آخرت کو حاصل کیا اور نہ دنیا تیرے لئے
 باقی رہی۔“ (ابن اثیر جلد ۳ ص ۱۹۵)

آخر میں اتنا اور لکھ کر اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں کہ عبداللہ اسی
 زیادہ کا بیٹا تھا جس کے ہاتھوں امام معصوم حضرت حسین علیہ السلام نے
 شہادت پائی۔

کُتُب

(جن سے تہمتہ ماخوذ ہے)

۱۔ طبقات ابن سعد جلد ۲ و جلد ۷

۲۔ تاریخ ابن اثیر

۳۔ تاریخ طبری

۴۔ اکمال فی اسماء الرجال

۵۔ نہج البلاغۃ

۶۔ مستدرک جلد ۳

۷۔ استیعاب

۸۔ فتوح البلدان بلاذری

۹۔ عمدۃ الکلام فی تاریخ سلاطین اسلام از ذاکر حسین جعفر

۱۰۔ سیرۃ ابن ہشام

۱۱۔ سیرۃ عمرو بن العاص از اکرم جبر اجمیری

۱۲۔ تاریخ الامت جلد سوم ” ”

۱۳۔ سیرۃ النبیؐ از علامہ شبلی جلد اول

۱۴۔ الفاروق ” ”

۱۵۔ ہاجرین جلد اول و دویم از معین الدین

۱۶۔ خلفائے راشدین ”

۱۷۔ سیر الصحابہ جلد ششم ”

۱۸۔ تاریخ ملت جلد سوم از زمین العابدین

